

# مولانا مودودی پر اعترافات کا علمی جائزہ

## حصہ اول

مولانا مفتی محمد یوسف

# فہرست مضمونیں

۱۳	عرضِ ناشر
۱۴	عرضِ حال
۱۵	میرا ایمانی عقیدہ
۱۶	میرا اصولی مسئلک
۱۷	میرا فروجی مذہب
۱۸	میں دیوبندی بھی ہوں
۱۹	احادیث میں میرے شیخ مولانا منفی کنایت اثر صاحب ہیں،
۲۰	جماعت اسلامی سے میرا تعارف
۲۱	قبلی اطہیان
۲۲	جماعت اسلامی کے خلاف اکابر دیوبند کے فتاویٰ
۲۳	اعتراضات کا جائزہ
۲۴	اعتراضات کا جائزہ کیوں لیا گی؟
۲۵	میں اپنے شیوخ کے بارے میں بڑھن نہیں ہوں
۲۶	میں خلوقی المختبر کا بھی قابل نہیں ہوں
۲۷	جماعت اسلامی سے میرا تعلق اساس کی نوجیت
۲۸	مولانا مسعودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ کی اشاعت کی غرض
۲۹	اعتراضات کے بارے میں یک مردمی وضاحت

علمائے کرام سے اپلی  
چنگِ احمد  
انفاری کو ششیں  
آخری گزارش

### مقدمة فی الاصول المثلة فیما بین العلماء

اصل اول : میران الحدایۃ والعملۃ

اصل دوئم : الخلاف عن الجہوڑ

اصل سوم : الترجح بالدلائل

اصل چہارم : رد القبل الی التفسیر

اصل پنجم : الا جہاد فیما لا خلص فیه من الا جہاد

مولانا مودودی پر آخر اضات کا علمی چائزہ (حصہ اول)

تہسید

اختلاف کی حدود

سبک زیارہ نقصان نہ اختلاف

### باب اول : مسئلہ عصمتہ الانبیاء علیہم السلام

مسئلے کی مختصر تشریع

حصتہ کی رو تھیں

حصتہ عن المعاصی گناہوں سے حصت

حصتہ عن الکفر والکذب

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۴۷	حصہت عن سائر الکتابات ترجمہ
۴۸	حصہت عن الکتابات سہوں
۴۹	حصہت عن الصفار
۵۰	ذکر وہ عبارت کا ماحصل
۵۱	حصہت عن الزلات
۵۲	علمائے اصول کی تصریحات
۵۳	لغزش پر نقطہ نظر کا اطلاق
۵۴	تشريع
۵۵	زلات و اغیل صفات میں یا نہیں؟
۵۶	کیا محدث الشریعہ بھی اپنی سنت سے خارج ہیں
۵۷	الحاصل
۵۸	گذشتہ مباحثت کا خلاصہ
۵۹	تفہیمات کی عبارت
۶۰	عبارت کی تحلیل اور تجزیہ
۶۱	تبصرہ
۶۲	تبصرہ
۶۳	قرآن و حدیث کی رہنمائی
۶۴	دلیل
۶۵	تبصرہ

## ایک اشکال اور اس کا جواب

۷۰	تہذیب
۷۲	تہذیب المدعی رحمة اللہ علیہ
۷۳	تخلیل و تجزیہ
۷۴	وجوه اختلاف
۷۵	شقاعت کا جائزہ
۷۶	اعتراف ارض
۷۷	جواب
۷۸	مثال اول
۷۹	مثال دوسرم
۸۰	شق نمبر ۱ کا جائزہ
۸۱	شق نمبر ۲ کا جائزہ
۸۲	باب دوم: حضرت یونس علیہ السلام کا زاقعہ
۸۳	تفہیم القرآن کی عبارت
۸۴	اعتراف ارض
۸۵	اعتراف ارض کا خلاصہ
۸۶	مقام نبوت اور منصب سالک کے پار بھی مولانا مسعودی کا بلند تصور
۸۷	نبوت کی حقیقت مولانا کی نظر میں
۸۸	انجیا و حلیہم السلام کی غیر معمول صلاحیتیں اور پاکیزہ فطرتیں

انبیاء علیہم السلام پر خدا کی خصوصی نظر

نبوت نبی کی انسانیت کا جو ہر بے ذکر اس کی ذات پر عارض

انبیاء کی اچھیاری تعریشیں اور ان کی توجیہیں

مندرجہ بالا تھیں اسات کا خلاصہ

اعترافات کا جواب

اصل واقعہ کے متعلق دو مسلم باتیں

امام بنیوی اور درسرے الہ تفسیر کی تصریحات

حضرت یونس علیہ السلام کے غصب کی پہلی توجیہ

قوم ریغیڈ و غصب کے لیے یہ سبب معقول نہیں

درسری توجیہ اور سبب غصب

تیسرا توجیہ

الہ تفسیر کی تینوں توجیہات کا خلاصہ

سبب غصب

کیا حضرت یونس کا جانا حکم الہی کے تحت تھا و

سابقہ مباحثت کے نتائج

مولانا فاضل مظہر حسین اور درسرے مقررین سے ایک سوال

کیا انصاف کا تقاضا ہی ہے؟

نبی سے کہ ماہی کا ہرنا جرم اور گناہ نہیں ہے

کیا علامہ آلوسی اور مجاہد محبی عصمت انبیاء کے منکر ہیں؟

حدائق

## ایک اشکال اور اس کے جوابات

۱۴۸	جواب اول
۱۴۹	جواب دوم
۱۵۰	جواب سوم
۱۵۱	نبیاء علیہم السلام کا صحیح مقام
۱۵۲	حضرت یونس علیہ السلام اور حدیث رسول
۱۵۳	روایات مذکورہ کا ما حصل
۱۵۴	اعتراضات کی آخری شق اور اس کا جواب
۱۵۵	مشکلہ اقسامِ محبت کی مختصر تعریف
۱۵۶	عذابِ دنیوی کے لیے ایک قانونی شرط
۱۵۷	قسم نوح پر عذاب
۱۵۸	فراغت مصیر پر عذاب
۱۵۹	قسم نوٹ پر عذاب
۱۶۰	باب سوم: حضرت صیلی علیہ السلام کا رفعِ جسمانی، اور
۱۶۱	اس کی تعریف فی القرآن
۱۶۲	تفہیم القرآن کی عبارت پر پہلا اعتراض
۱۶۳	دوسرا اعتراض
۱۶۴	تفہیم القرآن کی عبارت
۱۶۵	ایک وہ ہم کا ذوال

۱۸۰	قادریانی اقتراض اور اس کا جواب
۱۸۲	رفع جماعتی کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت
۱۸۳	ایک ضروری وضاحت
۱۸۵	مسئلہ رفع جماعتی کے اجزائے ترکیبی
۱۸۶	اجزائے مصرح فی القرآن
۱۸۷	اجزائے غیر مصرح فی القرآن
۱۸۸	دوسرے اقتراض کا جواب
۱۹۱	گذشتہ مباحثت کا خلاصہ
۱۹۵	صاحب تفسیر کی مزید وضاحت
۱۹۶	باب چہارم: تنقید اور معیار حق کا مسئلہ
۱۹۸	عملی تزیع صحاپہ کرامہ کے اجتماعی نیسلے یا انفرادی اقوال
۱۹۹	فقط تنقید کے معانی
۲۰۱	تنقید کی شرعی حیثیت
۲۰۵	تنقید از ردستے قرآن
۲۰۶	رسول کی اطاعت ہر حالت میں لازمی ہے
۲۰۸	امت کا مقام
۲۰۹	کتاب و سنت کے واحد معیار ہونے کی دلیل اول
۲۱۱	دلیل دوم
۲۱۳	تنقید از ردستے حدیث

مسئلہ میراث میں حضرت ابو موسیٰ پر تنقید

حضرت عفر پر ابن عفر کی تنقید

حضرت سالم کا ایک واقعہ

فیضوار کا مسئلہ

قضائے حاجت میں استقیاب قبلہ

حضرت ابن عفر اور حضرت جابر کی رائے

دو نوں حضرات پر خفیہ کی تنقید

جمعہ اور عید کا اجتماع

کیا یہ مذہب تنقید سے بالاتر ہے؟

اجماع عیدین میں امام شافعیؒ کا مذہب

مولانا شیراحمد گنگوہؒ کی رائے

کیا یہ صحابہ پر تنقید نہیں

تنقید کے لیے مسادات کی شرط ضعیف ملک ہے

مشعث کے درجہ

مسئلہ تنقید کی مزید تفصیل

احکام

مسئلہ تنقید الصحابی

قول صحابی کے اقسام

مالکیہ و حنبلیہ کا مذہب

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۵۶	خاندان اور مالکیت کے ملائک
۲۶۰	نتیجہ دار
۲۶۳	امام شافعی کا مسئلہ
۲۶۹	امام شوکافیؒ کی راستے
۲۷۰	حنفیہ کا مسئلہ
۲۷۳	علمائے اصول فقہ کی تصریحات
۲۷۸	امام شافعیؒ کا مذہب
۲۸۱	حضرت مولانا شیخ راحمد عثمانیؒ کی تحقیق
۲۸۶	بعض درود کے ائمہ کی تصریحات
۲۹۱	امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح
۲۹۱	امام احمد بن حنبلؓ کی تصریح
۲۹۲	شیع ابن ہمام کی تصریح
۲۹۲	مسئلہ نتیجہ کا خلاصہ
۲۹۴	مولانا سید ابوالاعلیٰ مسعودیؒ کی توضیح
۳۰۰	مولانا امین احسن اصلاحیؒ کی توضیح
۳۱۱	معیارِ حق سے کیا مراد ہے ؟
۳۱۳	<b>باب پنجم : مسئلہ و جہال</b>
۳۱۳	لفظ و جہال کے معنی
۳۱۵	و جہال کا وجہ اور صفات و جہال

۳۲۳	رجال کی شخصیت
۳۲۴	ابن مسیار
۳۲۵	جزیرے میں ایک قیدی شخص
۳۲۶	اختلاف رہائش کا نتیجہ
۳۲۷	حمدشین کے مدعاہب
۳۲۸	حمدشین کی تصریحات
۳۲۹	رجال ایک انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے
۳۳۰	حافظ ابن حجر کا رجحان
۳۳۱	اوپر کے تین مدعاہب پر تبصرہ
۳۳۲	اصح ترین روایتوں کا حال
۳۳۳	شخصیتِ رجال کے بارے میں ایک اور مدعاہب
۳۳۴	ایک اشکال اور اس کا جواب
۳۳۵	رجال کا مقام خروج اور زمانہ خروج
۳۳۶	گذشتہ مباحثت کا خلاصہ
۳۳۷	مولانا محمد عدی کا نظریہ
۳۳۸	قاضی منظہر حسین صاحب کا پہلا اقتراض
۳۳۹	تبصرہ
۳۴۰	وہ سرا اغراض
۳۴۱	تبصرہ

تیسرا اقتراض

چوتھا اقتراض

تبصرہ

پانچواں اقتراض اور جوابی معروضات

۳۸۳			
۳۸۴			
۳۸۵			
۳۸۶			
۳۸۷			
۳۸۸			
۳۸۹			
۳۹۰	تبصرے کا تیسرا اجزہ	تیسرا اقتراض	
۳۹۱	پیدھتے کا تیزیرہ اور اس کا جواب	چوتھا اقتراض	
۳۹۲	توجیہ	پیدھتے کا تیزیرہ اور اس کا جواب	۳۹۵
۳۹۳	ازمی اور تحقیقی جواب	تیسیر قرآن	
۳۹۴	حصہ اٹھانے کی ضرورت	کتب حدیث اور انکی شروح	۳۹۶
۳۹۵	اجماع انتقیفین کا اشکال	مثال تولیٰ تفسیر النبار	۳۹۹
۳۹۶	دوسری اور تیسیری دلیل	مثال دوام فضیل الباری	۴۰۰
۳۹۷	استثنائی خود کی جیادہ	مثال سوم: حرف شدی	۴۰۲
۳۹۸	آخری نکتہ اور اس کا جواب	ایک تحقیق بر سریل نزل	۴۰۳
۳۹۹	پہلا جواب اور دوسرا جواب	تبصرے کا دوسرا اجزہ	۴۰۵
۴۰۰	حدیث شفاعت بُری	جواب	
۴۰۱	تیسیمہ نمبر ۲۔ (بسیلہ سوالات و جوابات)	کتاب کی صحیح پذیرش	
۴۰۲	سوال	چون مسلم کا درفاع اسلام کی نظر میں ہے	
۴۰۳	جواب (از مولا نامہ مددوی)	ازم نکتہ چینی کا جواب	۴۰۸
۴۰۴	سوال	امتنقی جواب	۴۰۹
۴۰۵	جواب (از مولا نامہ مددوی)	۶۔ تسلیمی جواب	۴۱۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

## عرض ناشر

پاکستان میں مولانا سید ابراہام علی مودودی کی شخصیت ایک بین الاقوامی مقام رکھتی ہے۔ آپ کی علمی بصیرت، خواداد و فراست، تفہیم الدین اور حسن کردار و عمل نے آپ کو اُس مقام پر فائز کر دیا ہے جہاں چند ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ آپ کی یہ شہرت و قبولیت جہاں ایک طرف مذاہوی، عقیدت مندوں اور حامیوں کی ایک کثیر تعداد پرداز کرنے کا بدبب بنی ہے، وہیں مخالفین و حاسدین کے ایک گروہ کے خودار ہونے کا باعث بھی بنی ہے۔ ان مخالفین میں مشرکوں میں، مشرکین محدثوں اور حامیوں میں، مغرب پرست محدثین اور پرروان اسلام جیسے متفضاد عناصر جمع ہو گئے ہیں۔ ان سب میں مودودی دشمنی کے سوا افراد کوئی قادر شرک نہیں ہے وہیں اور مخالفت بین عناصر کا اتحاد تو سمجھہ میں آسکتا ہے کیونکہ ان کے مجبوب نظریات مشرقی تہذیب — کی راہ میں سبکے بڑی رکاوٹ مولانا مودودی کی ذات ہے لیکن جرأت ہے کہ نظام اسلامی کے دامی ہمصب رسالت نبر کے مصنف، تفسیر القرآن کے مؤلف کی مخالفت میں وہ لوگ بھی پیش ہیں جو اپنے آپ کو حامیوں دین میں شمار کرتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب مصروف عن المخالفین کہ ان سے اختلاف نہ کیا جاسکے۔

اہم اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جاتا ہے اور کیا گی ہے۔ لیکن ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ اختلاف جب تک محفوظیت، ولائی اور تراویث کے اندر رہے تو تما سراحت کے حق میں رجحت ہے۔ لیکن جب اس میں سبتو ششم، طعن و تشنیع اور زانی بغرض و عناد شامل ہو جاتے تو اس امتت کے لیے ایک حذاب میں جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ مولانا مودودی کے اکثر مخالفین کا دامن اس سے داغدار ہے۔

مولانا مفتی محمد پوری صاحب ایک ممتاز عالم دین ہیں اور ایک عرصہ دراز سے دین کی خاموشی اور بخوبی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس بیش قیمت تالیف میں اُن تاہم مسائل کا نہایت جلی، پروقار، بنیادیہ اور مدل انداز میں جائزہ دیا ہے جن پر مولانا مودودی کے مخالفین نے مشورہ پاک آسمان سر پر اٹھا کر کلبے جو شخص بھی اس کو زداتی مخاصمت و تحصیل سے بالآخر ہو کر مطلع کرے گا اس کو صواب و ناصواب کی تجزیہ کرنے میں وقت نہ ہوگی اور اس پر وہ نگینڈے کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آجائے گی جو مولانا مختارم کے خلاف بعض حلقوں کی طرف سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اُس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ایک لیے عالم دین کی دفاعت میں یہ کتاب پیش کر رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں واجب الاحترام ہے تھے علیہ اور محبوب ہے، جس کی احبابت راستے پر عالم اسلام کے چٹی کے علماء اور زعماء احمداء کرتے ہیں۔ جو محیت دین میں سے کسی پیش پیش ہے، لیکن اپنی دفاعت میں ایک لفظ بھی نہ کہنا چاہتا ہے نہ لکھنا۔

جس کے متعلق اُس کے مخالفین بھی اغراض کرتے ہیں کہ اس معاندِ اسلام دو رہیں اُس نے شیخ دین فرمذ ان رکھی ہے اور بے شمار افراد کو علم و تفہیم سے سرشار کر کے خدمتِ دین جیسے پاکزدہ کام میں مصروف کر دیا ہے۔

بھیں امید ہے کہ جو حضرات مولانا مودودی کے خلاف افتراء پردازی کی نہیں سے متاثر ہو کر کسی غلط فہمی میں بتلا ہو گئے ہیں۔ اس کتاب کے مطابعہ سے راجہ صواب پا جائیں گے۔

لائلورڈ، اربیع الثانی ۱۳۸۷ھ نیاز مند

صطاقبی ۲۶ رب جولائی ۱۹۶۸ء

اخلاق حسین، ڈاکٹر  
اسلامکٹ پبلیکیشنز، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## عرض حال

**حَامِدًا وَمُصَدِّيًّا :** آج سے تقریباً سو لے سال قبل میں ریاست کے حکمر قضاۓ سے ایک ملازم کی جیشیت سے مسلک تھا۔ ریاست کے علاقہ پونیر میں میرا ایمانی گاؤں دیا چکئے ہاپک تھیں کا صدر مقام ہے، جہاں ایک سرکاری افسر تھیں میں دار کے سامنے علاقہ کے لوگ مقدمات کا فیصلہ کرانے کی غرض سے پیش ہوتے ہیں مجھ کے قضاۓ سے مسلک ہونے کی وجہ سے میں بھی وطن تقریباً تین سال تک قضاۓ کے فرائض انعام دیتا رہا۔ لیکن جماعت اسلامی سے تعلق فاہم ہونے کی وجہ سے مجھے مجرم قضاۓ سے بر طرف کر دیا گی۔

### میرا ایمانی عقیدہ

اَمَّتَتْ بِيَاهُهُ وَمُلِّئَكَتْهُ وَكُنْتُبَهُ وَرَسُلَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ  
خَيْرُكَ وَشَرُّكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اَشْهَدُ اَنَّ لِلَّهِ  
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَهُوَ مَسْوِلُهُ۔  
خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا يَبْعَدُهُ بَعْدَهُ۔ اس عقیدے میں جو ایمانات مذکور  
ہیں، بحمد اللہ مجھے ان پر غیر مترزاں یقین حاصل ہے۔ اور میرا وجدان ایک برق ہوتے  
کی گواہی وسے رہا ہے۔

## میرا اصولی مسئلک

اصول مسائل میں مسئلک وہ ہے جو ابتدائی سے تمام اہل السنۃ والجماعات کا مسئلک رہا ہے۔ مثلاً: میرے نزدیک عالم بربخ میں بکیر و منکر کا سوال عذاب پر قبر حشر اجساد۔ مدنی احوال۔ روایت یا رب تعالیٰ۔ مجازات بالاحوال سب حق ہیں۔ مٹوئی کیسیوں گھنی ہوں کے ارتکاب سے نہ کافر ہوتا ہے اور نہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو۔ نبی ﷺ علیہم السلام سبکے سب گناہوں سے معموم ہیں۔ اور صفت ان کی شخصی صفت ہے۔ کتاب اللہ اور صفت رسول اللہ عزیز تواریخ کے دو بنیادی حافظ ہیں۔ صحابہؓ کرام افضل الامت ہیں۔ ان کے وہ فضائل و محادیج قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کے پیسے مستقم ہیں اور میں پسر و شتر ان کا معتبر ہوں۔ ان کے وہ فضیلہ جو اجماع کی جیشیت رکھتے ہیں جبکہ قطعی ہیں پیر علیہ ہم تک تواریخ پہنچے ہوں۔ ورنہ پھر فتنیات میں داخل ہونگے۔ اجتہادی مسائل میں صحابی کا تقدیر قول اگر کتاب و صفت کا خالف نہ ہو تو جبت اور قابل عمل ہے اور خالف ہو تو تو جبت ہے اور ناقابل عمل۔ کسی اجتہادی مسئلہ میں اگر صحابہؓ کرام کے فیصلے اور فتاویٰ پاہم حملت ہوں تو ان کے مابین ترجیح کے اصول پر عمل کیا جائے گا اور جو علیٰ تحریکی اور فسید کتب و صفت کے ساتھ موقق یا زیادہ اوفق ہوگا، اسی پر عمل دلائلیں پہنچئے گا۔ لیکن تو میں یا تفصیل کسی کی بھی جائز نہیں بلکہ بلا استثناء حرام اور حرام نہ رہے۔ انتہی

## میرا انفرادی مذہب

قرآنی مسائل میں میرا نسبتاً حنفی ہوں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کے مذہب کا پیر ہوں۔ اسی پر میں فروعی مسائل میں عمل کیا کرتا ہوں۔  
میں دیوبندی بھی ہوں

میرے نزدیک ایک مومن کے لیے اگر کوئی قابلِ نظر نسبت ہو سکتی ہے تو وہ صرف  
”عبدتیت“ کی نسبت ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ مومن اپنے ظاہراً اور باطن دونوں  
کے اعتبار سے صحیح عبدت کا مظہر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا  
پوری طرح تبع ہو جس کی کتاب و مذہب نے تشریع کی ہے۔ اور صاحبِ کرامہ تابعین۔  
تبع تابعین۔ ائمۃ محمدیہ اور نقہار و محدثینؒ رحمہم اللہ نے اپنی اپنی زندگیوں میں اس  
پر عمل کیا ہے۔ لیکن حقیقتہ۔ مذکوت اور مذہب میں چونکہ میں اپنے شیوخ  
اور اکابر دیوبندی رحمہم اللہ کے ساتھ متفق ہوں اور ان سے علمی استفادہ بھی کر جا  
ہوں اور ملکہ کی نسبت بھی رکھتا ہوں اس لیے حصول نسبت کی وجہ سے میں اپنے  
آپ کو دیوبندی بھی کہتا ہوں لاگرچہ میرے نزدیک یہ کوئی مستقل نسبت نہیں ہے  
 بلکہ اور پرانی تین چیزوں کے مجموعہ اور انہی کے مطابق صحیح طریقہ سے عمل کرنے  
ہی کا نام ہے۔

احادیث میں میرے شیخ حضرت مولانا مفتی لفایت اللہ رضا ہیں۔

غائب۔ ۳۵۰۰۰ میں تخلیل تعلیم کی غرض سے میں یہاں سے عازم وہی ہوا تھا۔  
وہاں پہنچ کر مدرسہ امینیہ دہلی میں داخل ہو گیا اور پورے سات سال تک وہاں  
علوم دینیہ کی تخلیل میں مصروف رہا۔ سات سال کی اس طویل مدت میں ایک  
سال جو تعلیم کے لحاظ سے میرا آخری سال تھا مجھے اس فقید الشال محدث  
فقیہ النفس تاجر عالم کی صحبت میں رہنے اور آشٹے بیٹھنے کا بھی موقع ملا جو حضرت

الشیخ مفتی الہند حضرت العلامۃ مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب قدس سرہ کے نام سے موسوم ہے۔ انہی سے میں نے بخاری اور ترمذی پڑھی ہیں اور حادثہ بنو بیہ میں وہی میرے شیخ ہیں۔ قوراۃ اللہ عزیز یہ وبرد مضجعہ و جعل الحجۃ مشواہ۔

### جماعتِ اسلامی سے میرا تعالیٰ

میں جماعتِ اسلامی سے اس زمانہ میں متعارف ہوا تھا جیکہ میں ریاست سوات کے حکمران قضاۓ سے ملک تھا۔ میرا یہ تعارف وہاں کی جماعت کے بعض کارکنوں کے ذریعہ اس طریقہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنا ہمنوا اور متفق بنائے کے لیے میرے ساتھ ملا فاتحیں بھی شروع کیں اور ٹریکھر بھی فراہم کیا۔ لیکن ایک طرف ریاست کی قضاۓ ایک تحریک کے لیے، اگرچہ وہ خالص اسلامی تحریک ہی کیوں نہ ہو۔ انتہائی نیازگار تھی۔ اور دوسری طرف مجھے ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اس جماعت کے عقائد اہل السنۃ والجماعت کے سوا اعظم کے معتقدات کے خلاف نہ ہوں۔ تیسرا طرف حکمران قضاۓ ملک ہونے کی وجہ سے مجھے کسی تنظیم میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہ تھی۔ ان وجہ سے میں دل ہی دل میں جماعت کے کارکنوں سے ملنقرہا۔ اور ہمنوا اور متفق بفنے کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ مگر اس کے باوجود میں نے ٹریکھر کام طالعہ جاری رکھا۔ جس سے مجھے جماعت کی دعوت یعنی ایک طریقہ کار سے پوری طرح واقعیت حاصل ہوئی اور میری دل نفرت۔ انس اور الفت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی آناییں اس وقت کے امیر جماعت مولانا سید گلبغاو شاہ صاحب

مرحوم نے رجو فاضل دیوبندی بھی تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب  
مدفن کے خصوصی شاگرد بھی احضرت شیخ الاسلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک مکتوب  
بھی وکھایا جس میں مولانا مغلبا شاہ صاحب مرحوم کے اس استفسار پر کہ ملکیا میں  
جماعتِ اسلامی کی تنظیم میں شامل ہو کر کام کر سکتا ہوں؟ ۴) حضرت مولانا مدفن مرحوم  
نے انہیں اجازت دے کر فرمایا تھا کہ "آپ جماعتِ اسلامی کی تنظیم میں شامل ہو کر  
وین کی خدمت کر سکتے ہیں اور اس میں شرعاً کوئی مصنوعی قدر نہیں ہے۔"

### قلبی اطمینان ۱

حضرت مولانا مدفن مرحوم کے اس تحریری اجازت نامہ سے جب جماعت کے متعلق  
میرا یہ قلبی اطمینان پیدا ہو گیا کہ جماعتِ اسلامی کوئی مگر اس جماعت نہیں ہے تو اس  
وقت سے میں نے لڑی پر کا مزیداً دریغہ مطالعہ شروع کر دیا۔ چنانچہ روڈا و جماعت  
اسلامی کے بیچن حصے۔ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ شہادت حق۔ حقیقتِ اسلام۔  
حقیقتِ چہار۔ اور اسلام کا سیاسی نظریہ، میں نے اچھی طرح پڑھ لیے۔ — خدا شاہد  
ہے کہ میں نے اس وقت اپنے ذہن میں ایک عجیب انقلاب محسوس کر دیا۔ میں نے  
واضع طور پر یہ بات محسوس کریں کہ میرے ذہن اور خیال دفعکر میں ایک عظیم تبدیلی  
پیدا ہو گئی جس سے میرے دل میں یہ حذر بھی ابھرنے لگا کہ زندگی میں کچھ عملی تبدیلی بھی  
پیدا کرنی چاہیے۔ رفتہ رفتہ نویت یہاں تک پہنچ لگی کہ جماعت کی دعوت پر علاویہ  
دو گوں سے مذاکرات شروع ہو گئے جس کے نتیجہ میں بالآخر سی ٹائی۔ ٹوی کی روپیت  
پر طازہ مبتکے مجھے ہاتھ دھونے پڑے اور بعض دوسرے جماعت کے کارکن گرفتار  
بھی کر دیے گئے۔

## جماعت کے خلاف اکا برین دیوبند کے فتاویٰ

خداؤند قدوس کی شان بھی وقت مجھے حکومت نے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ تو دو تین دن گزرنے پہلے پائے تھے کہ دارالعلوم تھانیہ اکوڑہ خاںگ میں ایک مدرس کی جیشیت سے میراث القرض عمل میں لایا گیا اور کم و بیش دو تین سال تک میں پوری دعیی سے درس و تدریس کے فرائض انجام دینے میں صرفت رہا کہ اچانک مدارس کے اوقات پر اختلافات نووار ہوئے۔ اور یہ سے زد شور سے جماعت اسلامی کے خلاف اکا برین دیوبند کے فتاویٰ شائع ہونے لگے۔ اور پوری علمی فضائیں گامہ آ رائیوں ہے گریج اٹھی۔ اس وقت میں ایک عجیب پتھر کی فہری کشکش میں جبلہ ہو گیا اور افغان طراب کے دور ایسے پر کافی عرصہ تک چیران و پرشان کھڑا رہا۔

فرہنگی کشکش اور افغان طراب کی اس عالت نے مجھے بالآخر اس بات پر بحث کر دیا کہ میں ان اقتراضات کا خود جائز ہوں اور سلطنت کی علمی تحقیقات کی روشنی میں یہ دلکھیوں کو کس کا مسئلہ فرمی اور کس کا موقع کمزور ہے۔ نیز یہ معلوم کرو کہ یہ کوئی اصولی مسائل ہیں جن میں اختلاف رائے سے ہدایت و ضلالت کے ذمہ متفاہ اور مختلف رائے پیدا ہوتے ہیں یا یہ فروعی قسم کے مسائل ہیں جن میں پہلے بھی دو رائیں ہوتی ہیں اور آج بھی ہو سکتی ہیں اور کسی ایک رائے کو بھی گراہی نہیں کہا جاسکتا۔

## اعتراضات کا جائزہ

چنانچہ اس تحقیق کی خصی سے میں نے اقتراضات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اور بالآخر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ نزاعی مسائل میں سے بعض تو بالکل فروعی

قسم کے مسائل ہیں جن میں پہلے بھی امت کے ٹرے سے علماء اور مشائخ نے وہی رائے ظاہر فرمائی ہے جو آج مولانا مودودی نے ظاہر کی ہے۔ اب اگر اس پر مگر اپنی کافتوں دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس قدرے کی نزد میں وہ تمام علماء اور مشائخ بھی لازماً ایسیں گے جنہوں نے آج سے صدیوں پہلے ان مسائل کے بارے میں بعدینہ وہی رائے پیش کی ہے جو آج مولانا مودودی اُن کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ دین کی کلی صحیح خدمت نہیں ہے۔ اور بعض مسائل اگرچہ اصولی ہیں مگر ان میں مولانا مودودی کا مسلک اہل المشتہ کے مسلک کے سرتو خلاف نہیں ہے۔ اس لیے اس مسلک کو نہ مگر اپنی کامیم دیا جاسکتا ہے اور نہ یہ حق کے انحرافات کا جائزہ کیوں دیا گیا؟

میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو لوگ اکابر اور مشائخ کے ساتھ حسن عقیدت رکھنے میں خلوکی حد تک پہنچے ہیں اور یہ حجوبے ٹرے سے معاملہ میں آنکھیں بند کر کے ان کی تقسیم اور پیروی کو ضروری سمجھ رہے ہیں ان کو یہ چیز ٹری ناگوار ہوگی کہ اکابر اور مشائخ کے شائع شدہ فتووں کی موجودگی میں اعتراضات کا جائزہ کیوں دیا گیا۔ اور کیوں ان کے قتاوی پر اعتقاد نہ کیا گیا؟ لیکن میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیکھ کر میرے لیے اگرچہ ان کے شائع شدہ فتووں کی موجودگی میں اعتراضات کا جائزہ دینا بظاہر مناسب نہ تھا، کیونکہ یہ طرز عمل آج کے گردبی سلطات اور جماعتی تھنچے کے کسی طرح بھی مطابق نہیں ہے۔ تیرا اس کے لیے جس مبلغ علم کی ضرورت تھی اس سے میرا دامن خالی تھا۔ اور جو بصیرت اس کے لیے ہوئی چاہیے تھی، میں اعتراف کر دیوں کر دو۔ مجھے حاصل نہ تھی۔ اور جو کچھ تھوڑے بہت معلومات حاصل تھے ان کی

نسبت اکابر کے علم کے ساتھ ایسی تھی جیسی فطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ علی بیٹے بجماعتی کے اس عالم میں طبیعت اس بات پر کسی طرح بھی آمادہ نہ تھی کہ نزاعی مسائل کا مناسب علمی طریق پر جائزہ لینے کی ذمہ داری قبل کی جائے۔ مگر جو نکہ معاملہ اتنا ہائی نازک تھا۔ اور ایک ایسے خادم دین عالم، اور اس کی بحاجت پر ضال و مُضلل ہونے کا قتوی صادر کرنے کا سوال سامنے تھا۔ جس کے ضال و مُضلال ہونے کے لیے شریعت سے مجھے کوئی مصوبہ طلبیاً اور قوی دلیل ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اور علم و دلیل کے بغیر کسی مُؤمن شخص یا بحاجت پر ضال و مُضلال ہونے کا قتوی دینا میں اپنے لیے عاقبت کے حافظ سے اتنا خطرناک عکس چھلک اور تباہ کی سمجھ رہا تھا۔ اس لیے میں نے دل و دلائی کے منفرد فیصلے اپنے لیے دین کے حافظ سے یہ بات پرہیز اور منفید سمجھی کر میں اپنے اکابر کے شان شدہ فتویں پر اعتماد کرنے کے بجائے خود نزاعی مسائل کا علمی طریق سے جائزہ لیں۔ اور جو مددگار مجھے توی معلوم ہواں کے ساتھ انفاق ظاہر کروں۔ اور جو کمزور معلوم ہواں کی مخالفت کروں۔ کیونکہ ہر شخص کے عقائد اور اعمال پر اس سے قیامت کے دن جو محاسبہ ہوگا۔ وہ خود اس کے اپنے علم کی حد تک ہوگا۔ وہ میں کا علم اس بارے میں ہرگز کسی کے لیے منفید اور کار آمد ثابت نہ ہوگا۔ نہ وہاں گردہی تھبیات یا جماعتی تعلقات کسی کے حق میں ففع بخش ثابت ہوں گے۔

**كُلّ نفسٍ يَمَا كَسِبَتْ رَهِيْتَهُ إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔**

میں اپنے شیوخ کے بارے میں بذلن نہیں ہوں

لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے شیوخ کے بارے میں بذلن

ہوں یا اُن کے ساتھ حُسنِ عقیدت نہیں رکھتا ہوں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کریمے دل میں اپنے شیوخ کے لیے محبت کے کس قدر نیک خوبیات پائے جانتے ہیں اور علمت و احترام کا کیا مقام ہے۔ میں آج بھی اپنے آپ کو ان کا ایک ادنیٰ خادم لو۔ ان کے علمی فیوض کا خوشہ چین سمجھ رہا ہوں۔ لگر جو چہ صرف اسی ایک معاملہ میں ان کی رائے سے اختلاف بھی رکھتا ہوں مگر رائے کے اس اختلاف سے نیز سے اسی وجہی تعلق اور علمی استفادہ کی نسبت پر ہرگز کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جو مجھے ان کے ساتھ مال ہے۔ آخر علمی و نیا میں صرف میں ہی تروہ و احمد شخص نہیں ہوں جو علمی تحقیق کی بنابری پر شیوخ سے اختلاف رائے کا انہیا کر چکا ہو، اور وہ بھی صرف ایک فرد یا جماعت کے معاملہ میں مجھے سے پہلے بھی تراس و نیا میں بہت بڑے بڑے علماء اور زبانوں برگ گز سے ہیں جو بہت سے دینی مسائل میں دلائل اور علمی تحقیقات کی بنابر اپنے اپنے شیوخ سے اختلاف رائے کا انہیا کر چکے ہیں۔ مگر اس اختلاف سے ان کے زمانی تعلق اور علمی نسبت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔

میں غلوتی المحبۃ کا بھی قابل نہیں ہوں

یکن انتہائی منافقت ہوگی۔ اگر میں اس تحقیقت کو بھی واضح نہ کر دیں کہ عین بزرگان وین کے احترام کا مطلب ہرگز نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی چھوٹی بڑی ہر تینی آنکھیں بند کر کے ان کی تقدیر کرنا ہمارے لیے فرمی ہو۔ اور دلائل کی بنابری بھی ان سے اختلاف ہمارے لیے حرام ہو۔ اس چیز کو میں غلوتی المحبۃ سمجھتا ہوں۔ اور انجام کے لحاظ سے اس کو دینے لیے انتہائی خطرناک تصور کرتا ہوں۔ میں اپنی طرح جانتا ہوں کہ اس طرح کی افراطی تنظیم اور غلوتی المحبۃ سے انسان کے عقائد

اور اخلاق پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ امر دین کے لحاظ سے وہ کس قدر انسان کے  
یہے تباہ کئی بلکہ زبرقانی ثابت ہو سکتے ہیں؟ میں اس حقیقت پر سونی صدقیں رکھتا  
ہوں کہ پوری میوری اور عیسائی علمت پر قرآن کریم نے اتخاذ کیا آنحضرت و رَهْبَانِہم  
آریا باغِ مُنْدُوتِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحِ اجْعَلْتَهُمْ كَاجْنَانِكُنْ ازْمَامَ عَادٌ کیا ہے اس کی  
درجہ علوٰۃ الجنتہ اور افراطی التسلیم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الْحَقُّ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ -

بنابری میں دین کے لحاظ سے اپنے یہے بہتر اور مغید رہ سمجھتا ہوں کہ شیوخ و اکابر  
کی جائزیت کو دل میں بہتر حکمہ دوں اور دل سے اُن کا جائز احترام کروں۔ مگر علوٰۃ الجنتہ  
اور افراطی التسلیم سے مکمل اجتناب کروں۔ اور جہاں اور جسی کے قول میں یہے حق با  
ہے اسی کو جلا خودت و متہ لامہ حق کہہ دوں۔ اور الحق الحق ان یتبع کے تحت اسی  
کا اتباع بھی کروں۔ اس طرز عمل سے یعنی طور پر آج کی تصرف دنیا میں مجھے لکھیں  
چھپتی رہیں گی۔ مگر میں اپنی جگہ اس بارے میں معلم رہوں گا کہ میرا دین ہر قسم کے دینی  
قصنوں سے محفوظ ہے۔ اور میں نما جائز تصرف اور عملی نفاذ کی بیماری میں بدلنا نہیں ہوں  
جماعتِ اسلامی سے میرا تعلق اور اس کی زوریت

میں اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آج تک جماعتِ اسلامی  
کا نہ کبھی دیکھ رہا ہوں اور نہ کا رکھ۔ البتہ کافی عرصہ سے مولانا مودودی کی تصریح  
میرے نزیر مطالعہ رہی ہیں۔ جس سے میرے دل و دماغ پر مولانا موسوی کے بارے  
میں یہ تماش فرض بر منگ ہو گیا ہے کہ وہ صرف مولانا میں پاکستان میں بلکہ ساری  
دنیا کے انسانیت میں اسلامی نظام حیات کے قیام کے لیے دل میں بہت بڑی  
حرب رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے دوسرے مخلص علمائے اسلام کی طرح جڑے چڑا۔

نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا شے انسانیت میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں حکمرانی صرف اسلام اور اس کے احکام اور قوانین کی ہو۔ اور دوسری طائفی تو تین اور شیعیانی قوانین زندگی کے کسی شعبہ میں بھی حکمران نہ رہیں۔ اس مقصد کے لئے مولانا موصوف نے ابتداء سے جو عدو و چہرہ ترویج کر رکھی ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے اور اس بارے میں وہ ہیں اخلاص کا مظاہر و کروہ ہے میں وہ بھی لاٹی صدیں ہے۔ یہی تاثر ہے جس نے مجھے مولانا موصوف کے ساتھ حسن عقیدت رکھنے پر مجبور کیا ہے۔ اور جماعت اسلامی کی دعوت۔ نسب العین اور طریق کار سے متفق بنا دیا ہے۔ اور یہی وہ تعلق ہے جس کی بدولت مجھے آج ہر جگہ مخدوش نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے باور ہر ما جوں کو میرے لیے اس نے اپنی اور بیگانہ بنا دیا ہے۔ میں میرے نزدیک یہ تعلق عند اللہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ اپنے علم کی حد تک میں اس کو اپنے لیے فرائیہ نجات سمجھ رہا ہوں۔

### مولانا مودی پر اقتضایات کا علمی جائزہ کی اشاعت کی غرض

جونوگ اسلام کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتے کہ وہ صرف چند مخصوص خالد اور اعمال کا نام ہے جو زندگی کے ایک مخصوص شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اسلام کے متعلق وہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر نظر ثانی حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی حاکیت ہے کی جیسا دپر رسول کے اتباع کی صورت میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور تمام شعبہ کی حیات میں دوسرے قوانین کی حکمرانی کے بغایتے وہ اپنے قوانین کی حکمرانی کا خواہ شندہ ہے وہ اپنی طرح جانتے ہیں کہ سرزی میں پاکستان میں اسلام کا تعلیم حیاتِ جسمی قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام پر ایمان

لائے والے تمام لوگ اس کے لیے مشترکہ جدوجہد شروع کریں۔ اور یا ہمی خانہ جنگی کو  
چھپیشہ کے لیے بند کر دیں اور قرعی مسائل پر نزاعات اور جنگلاؤں کو ختم کروں۔  
اس کے بغیر مرگ ممکن نہیں کہ انفرادی طریقہ سے کسی جماعت کی کوششیں کامیاب  
اور پار آؤٹ ثابت ہو سکیں۔ بالخصوص جبکہ حریف طاقتمنظم بھی ہوں اور طاقتور جو  
سر زمین پاکستان میں اس وقت اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ اگرچہ  
بحمد اللہ بہت ہیں۔ مگر ان میں دو قسم کے لوگ ہیں جن کی موجودگی سے بجا طور  
پر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر اسلام کے  
مسئلہ اصولوں پر ایک دوسرے سے اشتراک عمل اختیار کریں۔ اور کیسوٹی کے صاحب  
اسلام کے نظام حیات کو فائز کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد شروع کر کے ایک دوسرے  
کے ساتھ پر خلوص تعاون کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی نظام حیات کے قیام کے  
لیے یہاں کی فضیلہ سازی کا رہنمائی یا دیریکٹ یہاں غیر اسلامی قوانین نافذ رہ سکیں۔  
یہ دو قسم کے لوگ ایک توڑہ علمائے کرام ہیں جو اپنی صحیح تعلیمات کے ذریعے سے  
اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور  
جن کی لیے لوٹ خدمات اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے ان کی مساعی  
جمیلہ قوم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سے منسلک ہیں۔ یہ لوگ دین  
اسلام کو دوسرے اور یاں پر غالب کرنے کے لیے اللہ کی رحمۃ جوئی کی غرض سے  
اپنا سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور قید و بند کی صورتیں بھی اس راہ  
میں بخوبی برداشت کرتے ہوئے بڑی خدمہ پیشانی سے ہر تکلیف کو خوش آمدید کرتے

ہیں۔ لیکن پدمتی سے علمائے کرام نے چند ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن میں مولانا مودودی کے مذکوب کو انہوں نے غلط بلکہ گراہ کن ثابت کر دکھانے کی کوشش کی ہے اور ہر عام و خاص کو ریقین دلا رہے ہیں کہ مولانا مودودی ایک گراہ شخص اور گروہ اپل استاد والجماعت سے خارج ہے یہی باہمی اختلافات ہیں جنہوں نے یہاں کی فضائل کو اسلامی نظام حیات کے قیام کے لیے آئتا ہی نہیں سازگار بنایا ہے۔ اور مختلف اسلام طائفیں ان اختلافات سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اس بارہ بڑی صردوں معلوم ہوتی کہ دونوں جماعتیں کے مابین جو مسائل زراعی ہیں ان کی حقیقت علمائے محققین کی علمی تحقیقات اور تصریحات کی روشنی میں واضح کر کے دکھانی جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے ایک طرف اختلافات کی شدت ختم ہو جائے اور دوسری طرف عوامی یا نیم تعلیم یا نیت طبقہ میں ان اختلافات سے مولانا مودودی کے بارے میں جو غلط فہمیں پھیل گئی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔

مجھے یہ فکر بھی دہنگیر ہے کہ ایسا نہ ہو نہ مولانا مودودی پر اقرارات کا حلی جائزہ کی اشاعت عوامی ملتوی مزید غلط فہمیں پیدا ہوں کیونکہ بعض مسائل کے متعلق دور حاضر کے عوامی ملتوی کے نظریات آئتا ہی نازک ہیں۔ اور بعض دوسرے مسائل بجا تے خود پڑے نازک ہیں، جن کی تشریح دور حاضر کے فقنوں کے پیش نظر عوام کے لیے مفید نہیں بلکہ مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ ان اقرارات کے ہمارے متند کردہ بالا دو گروہوں کے مابین حالیہ اختلافات نے ایک فتنہ کی صورت اختیار کر رکھی ہے اور یہ بات نہایت صردوں معلوم ہوئی ہے کہ ان کی حقیقت واضح کی جائے اس لیے ان کی اشاعت کا فیصلہ کر دیا گی۔ خدا نجاستہ اگر ان کی اشاعت سے عوام کے ملتوی میں مزید

غلط فہیاں پیدا ہو گئیں تو ان کی تمام ترقید داری ان لوگوں پر عائد ہو گی جو محض گروپی تھقیبات کی وجہ سے یہ مسائل عوام کے سامنے لا کر مسلمانوں کے درمیان ترقید پیدا کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں میں ایک مسلم جماعت کے سرراہ کے متعلق شکر و ثہبیت پیدا کرتے ہیں۔

### اعتراضات کے باسے میں ایک ضروری وضاحت

ان اعتراضات کے متعلق میں دو ماۃوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان مسائل کے بارے میں میرے متعلق کوئی مسلمان بھائی اس غلط فہمی یا بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کر میں نے ان کی تشرعی میں تعصب یا یہ جا حمایت اور یا کسی کی بلاجوہ مخالفت سے کام یا یہ خدا شاہد ہے کہ میں دین کے معاامل میں تعصب یا ناجائز حمایت اور یا مخالفت پر مبنی طرز عمل کو اپنی عاقبت کریے اسکے خلاف سمجھ رہا ہوں جس طرز کریں اس طرز عمل کو اپنی عاقبت کے لیے خطا کا سمجھتا ہوں کہ کسی شخص یا جماعت کو میں اس دن پر گراہ سمجھوں کہ اس کو میرا کارا و شیخوخ تسلگراہ بھائی تا و قشیدہ شرعاً ہے اس کے لیے کوئی مضبوط غیر اندھل جائے۔ میں نے ان مسائل کی تشریحات میں جو کچھ پیش کیا ہے، علمائے محققین کے اقوال سے پیش کیا ہے۔ اور ان کی تصریحات کی روشنی میں عپش کیا ہے۔ اور جو کچھ اپنی طرف سے پیش کیا ہے اس کو حق سمجھ کر پیش کیا ہے۔ اس میں نہ کسی کی ناجائز حمایت مقصود ہے۔ اور نہ کسی کی بلا دبر مخالفت۔ اور جو کچھ اس میں مولانا مودودی کی حمایت یا ان کی طرف سے مدافعت پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان مسائل کی حقیقت یہی کچھ اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ اس کے اخبار سے خود خود مولانا مودودی کے موقف کی حمایت اور ان کی طرف سے مدافعت حاصل ہوگی۔

دوسری بات جس کی وضاحت میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ فتح کے  
ملکہ میں عدالت مختصر کی تحقیق میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس میں میرے نزدیک مختار  
قول وہ ہے جو جبکہ صحابہ کرام اور انہم مجتہدین رحمہم اللہ کا ذریب رہا ہے کہ مختصر عدالت  
کی عدالت یعنی حیض سے کمر نہیں ہے بلکہ اس میں حد درجہ احتیاط پائی جاتی ہے۔  
مرہی یہ راستے کہ اس کی عدالت صرف ایک حیض ہے نہ کہ زائد۔ تو یہ مولانا مودودی  
کی اپنی ذاتی راستے ہے۔ مگر چونکہ صحابہ کرام میں بھی ایک خاصی جماعت اس کی قائل  
ہوئی ہے اور بعض ائمہ مجتہدین بھی اس کی طرف مائل نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں  
اس کو بھی غلط کہنے کی جگارت نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس کے حق میں بھی کافی دلائل  
پیش کیے گئے ہیں۔

### علمائے کرام سے اپیل

دین کے ایک پھرداونہ علماء کرام کے ایک خادم کی چیزیت سے میں اتفاق  
علمائے کرام سے درود نداشت اپیل کرتا ہوں۔ جو سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ مرتبت  
پاکستان میں اسلامی نظام حیات قائم ہو سا وہ دوسرے تمام غیر اسلامی قوانین  
یکسر ختم ہوں۔ یہ حقیقتہ روشن کی طرح اب عیاں ہو چکی ہے کہ یہاں کی  
تمام حریث طاقتیں اس بات کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں کہ یہاں اسلامی  
نظام حیات کے قیام کے لیے جدد جدد کرنے والوں کو جس طرح بھی ملکی ہونا کام  
بناؤ یا جانتے نہ کسی کو بھی اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔  
وہ اس کے لیے بھی کوشان ہیں کہ اسلام کو عملی زندگی سے پہلے دخل کر کے دکر دیا جائے۔  
ایسی حالت میں یہ امر قبیلی معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلام پسروں کی صفوں میں

بائیم دست و گریاں ہونے کی وجہ سے انتشار بدستور رہے تو اس کے نتائج علت  
اسلام طاقتور کے حق میں فتح بخش اور خود اسلام پسند تو توں کے حق میں مضر اور تباہی  
خطرناک ثابت ہوں گے۔

### جنگِ احمد

غزوہِ احمد میں جب حضرت عبد اللہ بن جبیر اور اس کے ساتھیوں کے مابین  
عمولی سماجی اچیادی اختلاف روپا ہونے پر بعض ساتھیوں نے محمد چہرے خالی کر کے چھوڑا  
اور ٹیکے سے دشمن نے حملہ کر دیا تو حضرت عبد اللہ بن جبیر بعد اپنے باقیاندہ  
سپاہیوں کے شہید ہوئے۔ بلکہ پوری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور شکست بھی کرنی  
عمولی شکست نہ تھی بلکہ وہ شکست تھی جس نے شر جان باز صحابہ کرام کو اپنی پیش  
میں لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلد اظہر بھی زخمیوں سے بچ نہ سکا اور  
زمدان مبارک شہید ہو کر رہا۔

لہذا میں ان تمام علمائے کرام سے درستادانہ اپلی کرتا ہوں جو چند عمومی قسم  
کے مسائل میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی سے  
اختلاف رکھتے ہیں کہ خدا را وقت کی نزاکت اور اپنے خلیفہ الشان فرانس اور  
ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس قسم کے عمومی اختلافات کو نظر انداز کر کے  
اسلام کے خلیفہ ترمذی کی حاضر بائیم مل کر اسلام ہی کی حفاظت کیجیے۔ اور شرعی  
نظام کے قیام کے لیے مشترکہ حدود چیند کیجیے کیونکہ شرعی نظام کے قیام کا ایم  
غرض سب سے پہلے آپ حضرات ہی کے ذمہ عائد ہوتا ہے۔

## انفرادی کوششیں

یہ بات آپ حضرات اچھی طرح فہرنسیں کر دیے کہ موجودہ وحدہ الحاد، اور اس مغرب زدہ ماحول میں "دین قیم" کے نفاذ کے لیے وہ کوششیں کامیاب اور باکروٹ ثابت ہو سکتی ہیں جو مشترکہ جدوجہد کی شکل میں جاری رکھی جائیں۔ انفرادی کوششیں خواہ آپ کی ہوں یا دوسروں کی، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ پس اگر آپ بے خلوص دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام حیات رانچ ہو تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ مزید وقت صاف کیے بغیر اپنے باہمی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آپ سب حضرات جمع ہو جائیں اور اسلام کو برسر اقتدار لانے کے لیے کوئی جامع پروگرام بنائیں۔ تھراں کے معاشر ملک گیر جدوجہد شروع کریں۔ تب کہیں جا کر آپ اپنے نصب العین میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اس کے بغیر آپ یقین رکھیں کہ آپ کی تمام جدوجہد سی لاحاصل اور ہر قسم کی کوششیں راستیگاں جائیں گی اور کامیاب بالآخر آپ کے حریفوں کو ہو گی۔ اور یہ پوری پاکستانی ملت کے لیے ایک ایسا المیہ اور ایک عظیم سانحہ ہو گا جس کے بُرے نتائج اور وُرد رس اثرات سے کوئی بھی پاکستانی محفوظ نہیں رہے گا اور یہاں اسلام کے شعائر باقی رہ سکیں گے۔

## آخری گزارش

آخری گزارش میں اُن حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں جو اختلافات کو ہما دینے میں شب و نہضت مصروف رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نو ماہ کی مدت میں بھی انہوں نے اپنا قلبی جہاؤ جاری رکھا جس میں جماعت اسلامی خلاف قازی

قرار دیئے جانے کی وجہ سے ایک گونہ ختم ہو چکی تھی اور اس کے تمام نیڈر جیلوں میں بند کر دیئے گئے تھے۔

بھیں نہ آپ کی نیتوں کا عالم ہے اور نہ آپ کی نیتوں پر کسی کوشش یا حملہ کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ مگر یہ امر بجا سے خود مسلم اور حقیقت ہے کہ اختلافات کو ہوا دیتے ہیں خواہ آپ حد سے زیادہ نیک نیت کیوں نہ ہوں۔ مگر اس کے نتائج پر صورتہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جمیعی لحاظ سے منفی نہیں بلکہ مضر بی برآمد ہے اور اس سے بہر حال اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہی نقصان ہے نہ کہ فائدہ۔ اس وقت تک یہی دوسرے بھی بہت سے مسائل ہیں جو آپ حضرات کے محتاج توجہ ہیں اور آپ کی مفید اور قسمی کوششوں کا بہترین صرف ہو سکتے ہیں۔ نیز ان میں آپ حضرات کی تعمیری جدوجہد کا میاب اور بار آور بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ آپ اپنی جدوجہد اور کوششوں کا رُخ اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے ان مسائل کی طرف پھر دیں اور پوری قوم کی طرف سے شکریہ کے مستحق ثابت ہوں۔

لَهُ الْحُوَالُ الَّذِي أَدْبَيْنَ بِهِ عَنْدَ اِنْتَهٰ وَنَكَلَ اَهْرَافَهُ مَانُوْيٰ۔

محمد یوسف کان اللہ

۲۹ رب جمادی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## حَمْدًا وَمُصَدِّقًا

### مقدمة في الأصول المسلمة فيما بين العلماء

کتاب کا موضوع الگریہ نزاعی مسائل ہیں لگر میں چاہتا ہوں کہ ان سے پیدے تھے  
کے عنوان سے محض اصول بیان کروں جو علمائے امت کے مابین مسلم ہیں تاکہ اس کے  
بکرا ایک ناظر کو ان اصول کی روشنی میں نزاعی مسائل کے بارے میں صحیح رائے قائم  
کرنے میں دشواری پیش نہ آتے بلکہ آسانی سے وہ یہ بحث سکے کہ ان مسائل میں مولانا  
مرندی کے مسلک کو علماء نے جو گراہ کئی قرار دیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔

## صلی اول

### میران العدای والضلال

جز لوگ اصول شریعت سے واقعیت رکھتے ہیں۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتے  
ہیں کہ ہدایت اور گراہی کے لیے شریعت اور علمائے شریعت نے جو معیار مقرر کیا ہے  
وہ صرف یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو احکام مخصوص ہوں یا جن پر  
پُردی امت کا اجماع ہو چکا ہو۔ کوئی شخص یا جماعت اگر ویدہ رافتہ اپنے لیے  
ان کے خلاف کر فی مسلک اور نہ ہب ایجاد کرے یا اپنے لیے ان کے خلاف  
راہ عمل تجویز کرے تو اسی کا نام گراہی ہے۔ یہ وہ اصل اور عاقلان ہے جو صفت

صالحین کے ہدایت سے نکر آج تک برادر قائم اپنی استثنا کے مابین مسلم چلا آیا ہے اور اسی کے تحت انہوں نے خوارج - مختصر لہ پیش کیا اور دوسرے فرقہ باطلہ کو مگر اور قرار دیا ہے۔

## اصل دوم

الخلاف عن الجھوڑ

دوسرے مسلم اصل علما کے مابین پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ فروعی مسائل میں اگر کوئی عالم شرعی ولائی کی بنابر جھوڑ کے فیصلے کے خلاف راستے دے تو یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے — اسی کے تحت بہت سے فروعی مسائل ہیں جن میں الگہ ارجمندی سے ہر ایک امام نے کسی نہ کسی مسئلہ میں جھوڑ سے اختلاف کیا ہے۔ اور کسی نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے۔ احادیث اور فقہ کی بیسو طوکتا میں اس قسم کے اختلافات سے بھری ٹپی ہیں۔ شروع حديث میں بھی اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ الگہ ارجمند کے علاوہ آن کے متفقین علما اور اتباع میں سے بھی ایسے علماء بکثرت ملتے ہیں جنہوں نے ولائی کی بنابر نہ صرف اپنے امام سے بلکہ جھوڑ سے بھی اختلاف کیا ہے اور یہ طرزِ عملِ سلف و خلف سب کا شیوه رہا ہے۔

## اصل سوم

التزجح بالدلائل

تحقیقین علما کے امثنا نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جس طرح کسی فقہی اور فروعی

مسئلہ میں جھپٹوڑ سے دلائل کی بنا پر اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ میں اگر ائمہ کے مختلف آقوال متفق ہوں تو دلائل کے ذریعہ سے ان مختلف آقوال میں سے بعض کو بعض دوسرے آقوال پر ترجیح بھی دی جاسکتی ہے۔ اور ایک محقق عالم کے لیے مختلف آقوال میں سے بعض کے ساتھ اتفاق کرنا اور بعض کو اس کے مقابلہ میں چھوڑنا ناجائز نہیں بلکہ جائز امر ہے۔ پیر طنکیہ رہ تحقیق اور استدلال کی صلاحیت رکھتا ہوا اور عالمی نہ ہو۔ نیز خواہش شخص کی پیر دی بھی اس میں تذکرہ نہ ہو۔ یہ بھی وہ مسلم اصول ہے جس پر پیدشیر سے متفق ہیں علمائے امت حمل و رآمد کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ "مسئلہ تعلیید" میں اس کی توجیح آتے گی۔

## اصل چہارم

### رواح محل الی التفسیر

اصول مسئلہ میں سے چوتھا اصل یہ ہے کہ جب کسی قابل احتکام سے کسی مسئلہ میں تو سر کے آقوال متفق ہوں۔ ایک قول مبہم ہو جیں میں مشتمل و معافی کے احتمالات پائیے جاتے ہوں۔ اور دوسرے مفصل اور مفسر ہو تو قاعدہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ مبہم اور محتمل قول کو ایسے معنی پرچل کیا جاتے ہیں جن کی دوسری جگہ تفصیل کی گئی ہو۔ اور اس معنی کے خلاف دوسرے معافی پر پہنچ حمل نہیں کیا جاتے گا تاکہ ایک تسلکم کے کلام میں بلا وجہ مخالفت اور تعارض لازم نہ آئے۔ یہ بھی ایک اصل ہے جو نصوص اور آیات قرآنیہ سے بعراحت ثابت ہے۔ اس کی تشریع صحیۃ الانبیاء کے مسئلہ میں آئے گی اور قرآن کیم ہی اس کا ثبوت پیش کیا جاتے گا۔

## اصل پنجم

الاجتہاد فیما لا مخلص فیہ من الاجتہاد

زندگی کے واقعات اور مسائل میں الگ کوئی واقعہ اور مسئلہ ایسا پیش آ جائے جس کے لیے شریعت کے منصوص احکام میں کوئی حکم کھتم نہ سکتا ہو اور نہ مجتہدین کے اجتہادات اور نظریات میں کوئی اجتہادی حکم رکھتا ہو تو اس وقت تحقیقی علمائے امت کے لیے یہ جائز ہے کہ اس واقعہ اور مسئلہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کریں اور اصول شریعت کے مطابق اس کے لیے نصوص سے یا اصول شریعت سے اجتہاد اور استنباط کے ذریعہ کوئی حکم مستنبط کریں۔ یہ بھی ایک الیج ضرورت ہے جو ہر زمانے میں ماقیامت امت کریں آ سکتی ہے اور جو اجتہاد و استنباط کے بغیر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اس سے کوئی متعقول آدمی انکار کر سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے کمال، دوام اور بہبود کی رہنمائی کا لازمی تھا ضایبی ہے کہ ایسے واقعات میں اجتہاد کر جائز رکھا جائے۔

---

# مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ

## حصہ اول

تہسید

اس عکس میں مسلمانوں کی بیانی سے دینی طبقوں اور نصری صدقتوں میں چند  
فرمودی قسم کے مسائل پر عرضہ دراز سے باہمی تراویحت اور صحیحگری کے برپا ہیں جس سے  
عام مسلمان اور خود مذہبی حلقے میں سخت قسم کی ذمہ داری کشکش اور فکری انتشار میں متلا  
ہو گئے ہیں اور علوم فہیم کب تک یہ کشکش جاری رہے گی۔ آج کے پرفقتوں دور میں  
جیکہ ہر طرف سے ”دین اسلام“ پر جملے کیسے جاری ہے ہیں۔ اور مختلف قسم کے فتنے  
سر اٹھا رہے ہیں۔ کوئی ختم نبوت کا انکر رہے۔ اور کوئی فتنہ انکار حدیث کا علیحدار  
ہے۔ بعض منوری تہذیب پر فرقیتہ ہو چکے ہیں۔ اور بعض کو ماڈہ پرستی پر شدید اصرار  
ہے۔ غرض یہ کہ اس عکس میں ایک ”دین اسلام“ ہی وہ دین ہے جو ہر قسم کے فتنوں  
میں گھرا ہوا ہے۔ اور کہیں بھی اسے کرنی راستہ دکھاتی نہیں دیتا جس سے وہ فتنوں  
کے درمیان سے نکل کر آرام اور اطمینان کا سامن سے۔ اور جو عکس اسی کے نام پر  
حاصل کیا گیا ہے، اس کے منصب اقتدار پر اپنی حکمرانی کا پرچم ہوا ہے۔ ایسی حالت  
میں مناسب بلکہ سخت ضروری تھا کہ تمام فرق اسلامیہ باہم مل کر تتفقہ طور پر

اسلام کی خانکت کا انتقام کرتے دا در آپس کے تمام فروعی بھگڑوں اور زرارات کو ختم کر کے اصل دین کو ضبوطی سے تخلیے رکھتے اور اپنے طرزِ عمل سے باطل پست طاقتوں پر یہ حقیقت واضح کر دیتے کہ یہم اگرچہ فقیری مالک کے اختلاف کی وجہ سے فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مگر جب ہماری مشترکہ متدع دین پر کوئی دشمن حملہ آورہ ہوتا ہے تو یہم سب اس کے خلاف بیان مخصوص بن کر ہر معاذ پر سے لڑنا بھی جانتے ہیں اور اپنی مشترک متدع دین کی خانکت بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی اتحاد و اتفاق سے یہ ثابت کر کے رکھاتے کہ آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے قَاتَّعْتُهُمُوا بِحَمْلِ اللَّهِ حَمِيعًا وَلَا تَغْرِيَنَا کا جو سبق ہیں پڑھایا گیا تھا آج بھی وہ ہمارے سینوں میں اچھی طرح محفوظ ہے اور دل و باغ سے اس کے نقوشِ مرث نہیں چکے ہیں۔

مگر شرمی قسمت اکہ ہمارے دینی علقوں اور مذہبی طبقے اپنی خانہ جنگی سلا فرستہ نہیں پاتے ہیں۔ تو دوسرے یہ دلی دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ اور دین کی خانکت کس طرح کر سکیں گے؟ اور دین کی خانکت کس طرح ہو سکے گی؟ سب سے بڑی صدیقت یہ ہے کہ یہ حضرات اپنی باہمی خانہ جنگی میں شبِ دروزِ مصروف رہنے سے نہیں تخلکتے۔ اور اسی کروہ دین کی بہترین خدمت سمجھو رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی مذکور نہیں دیکھتے کہ جس قافلے کی ہم قیادت کر رہے ہیں اس پر کوئی دشمن حملہ آور تو نہیں ہے۔ یا کسی راہ زن نے یہ بھی سے حملہ کر کے قافلہ کا سامان تو نہیں لوٹ لیا یا کسی شیطانِ جن و اس نے قافلے کے عquam۔ اعمال اور اخلاق پر واکر تو نہیں ڈالا ہے؟ ایسی باتوں کی طرف اول قرآن حضرات کا دھیان بھی نہیں چاتا۔

اور کبھی جانا بھی ہے تو بہت کم بلکہ برائے نام۔

یہی وجہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کے مختلف طبقات میں عیسائیت بھی اور فرجت کے بغیر ترقی کے منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور مرزا شیخ اور انکار حدیث کا فتنہ بھی مسلمانوں میں ٹری تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور دہشت والحاد پرستی بھی زور پکڑ رہی ہے۔ ایسی حالت میں دین کے نجیگانوں اور مذہب کے پاسانوں کی یہ خانہ جنگی قابلِ افسوس نہیں تو اور کیا ہے؟ تاکہ ریخ پر نگاہ ڈالیے اور اس سے لپٹنے لیے عبرت آموز سبق حاصل کیجئے ورنہ آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکیں۔

### اختلاف کی حدود

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے فروعی قسم کے مسائل میں اختلاف رائے کے لیے گنجائش رکھ دی ہے اور اختلاف کی حد تک اُسے برداشت بھی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دائرة اسلام کے اندر دین کے متعدد ائمہ عظام کی حرف نسبت متعدد فقیہی مذاہب پائے جاتے ہیں جو فروعیات میں ائمہ دین کے باہمی اختلافات ہی کے پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر اس بات کی اجازت اسلام کی کوئی نہیں دیتا کہ فروعیات میں باہمی اختلافات کو اپنی حدود سے آگے ٹڑھا کر ایک دوسرے کی تفہیق، تفضیل اور تکفیر کا ذریعہ بنادیا جاتے۔ یا اپنی فروعیات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف ایسی قوت آزمائی کی جائے جس کی وجہ سے آپس میں ایسی جنگ چھڑھائی جو کبھی ختم نہ ہو رہا تھا دین اور اہل دین روپوں کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ اس بارے میں اسلام کی واضح ہدایات یہ ہیں:

وَلَا تَأْتِ عَوْنَّا فَتَفَشَّلُوا وَتَذَهَّبُ إِلَيْكُمْ۔ آپس کے جھگڑے پر چھور دو۔

ورنہ بزدل بنو گے اور تمہاری بہوا اکھڑ جاتے گی :-  
اک اور حکمہ ارشاد ہے :-

وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ نَعْرَفُوا وَأَخْتَدَمُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ  
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رَأْلِ عمران

سے زیارت نقسان وہ اختلاف

موجودہ دو ریاضی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بحثیتی، مجموعی، دینی اور سیاسی  
دوقول الحاظ سے جو سب سے زیادہ نقصان درہ اختلاف ہے وہ وہی اختلاف ہے  
جو بعض علماء اور جماعت اسلامی کے امیر مولانا مسید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے  
مابین چند ایسے مسائل میں پیدا ہوا ہے جن کی بحثیت ان علمائے کرام کے نزدیک  
اصولی مسائل کی ہے، حالانکہ ان میں سے اکثر مسائل فروعی ہیں جو اصلًا اس قابل  
نہیں کہ انہیں اصولی مسائل میں شمار کی جائے۔ مگر بعض حضرات ہیں جو خواہ مخواہ  
انہیں اصولی مسائل بنانے کی سعی لا حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو مسائل ان میں سے  
اصولی ہیں ان میں مولانا مودودی کا مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلک  
کے میزبان خلاف نہیں ہے۔ لیکن حضرات علمائے کرام ہیں جو مولانا مودودی پر  
بلادجہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان مسائل میں مولانا کا مسلک اہل السنۃ والجماعۃ  
کے مسلک کے خلاف ہے۔ — میں نے جہاں تک مولانا مودودی

کی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے۔ اس سے تو یہ اس ترجیح پر پہنچا ہوں کہ اصولی مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ میں بھی مولانا نے اپنے لیے عام اہل السنۃ والجماعۃ کے مسلمانوں کے مسلمانوں کے علیحدہ کرنے مسلمانوں کے علیحدہ کرنے کیا ہے بلکہ مولانا مودودی کی تامین فکری اور عملی جدوجہد کے لیے شاہراہ ہی مسلمانوں اہل السنۃ والجماعۃ ہے جن مسائل میں بعض علمائے کرامہ نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے اختلاف ظاہر کر کے مولانا مودودی کی ذات کو ہدف ملامت اور محدود طبعی نایا ہے ان سب کوئی نے بالاستیباب دیکھا اور پڑھا ہے پھر مسلمانوں کے علمی ذخیرہ سے ان کا انطباق بھی کیا ہے۔ بالآخر جس ترجیح پر بہت غور و فکر کے بعد میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ ان مسائل میں سے اکثر کے بارے میں مولانا مودودی کی علمی تحقیق سلف کی علمی تحقیقات کے عین مطابق ہے۔ اور بعض مسائل میں اگرچہ ان کی علمی تحقیق یا تہذیب راستے جہوڑ کی علمی تحقیق اور اجتہادی راستے سے مختلف ہے۔ مگر اس کی پہش پر مضبوط اور قویٰ دلائل بھی ہیں۔ اور دلائل کی بناء پر جہوڑ کی راستے سے علمی مسائل میں اختلاف کرنا کوئی نئی بات نہیں۔ نہ اس اختلاف کو شرعی دلائل کی بناء پر زنا جان یافتہ یا مگر اسی پا خروج ازگر وہ اہل السنۃ والجماعۃ قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ یہ طرزِ عمل ہمہ شریعتی علمائے حق کا شیوه رہا ہے۔ میں پاہتا ہوں کہ ذیل میں تمام مسائل ان کی تشریحات کے ساتھ ذکر کر دیں جو زراعی مسائل قرار دیئے گئے ہیں۔ ان سب کو میں دو حصوں میں تقسیم کر دیں گا۔ پہلے حصے میں وہ مسائل ذکر کردہ جو اصولی مسائل کے نام سے مشہور ہیں۔ اور دوسرے حصے میں وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے جو فروعی قرار دیئے گئے ہیں۔

## بَابُ اول

# مِسْلَهُ عَصْمَتِ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

اصل مسائل میں سے پہلا نزاجی مسئلہ "مسئلہ عصمت الانبیاء" ہے۔ اس مسئلہ میں مولانا مودودی پر جوانام عائد کیا گیا ہے اس کی بنیاد "تفہیمات" حج ۲ کی ایک عبارت پر کبھی گئی ہے جو ضمناً حضرت داؤد علیہ السلام کے قصہ کی تشریع میں مولانا نے درج کی ہے۔ اس عبارت کے پیش نظر مولانا پر جوانام لگایا گیا ہے کہ "وَهُوَ عَصْمَتُ الْأَنْبِيَا" کے قائل نہیں بلکہ منکر ہیں۔ اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو مولانا موصوف کنا ہوں سے مخصوص نہیں بلکہ موت مانتے ہیں ۔۔۔ چونکہ یہ مسئلہ ایک اصولی مسئلہ ہے جس کے متعلق تمام اہل السنۃ والجماعۃ "اعقیدہ" اور مسلمک ہدیث سے یہ رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کنا ہوں سے قطعی طور پر مخصوص ہیں اور مولانا مودودی اس عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ لہذا اور بعض اپنی جماعت کے اہل السنۃ والجماعۃ کے گروہ سے خارج ہیں ۔۔۔

قبل اس کے کہ ہم یہ واضح کریں کہ اصل معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ فرمودی معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اہل السنۃ والجماعۃ کی علمی تحقیقات کی روشنی میں مسئلہ عصمت الانبیاء کی مختصر تشریع پیش کریں۔ پھر اس کی روشنی میں یہ دکھائیں کہ آیا

تفہیمات کی ذکر کردہ عبارت میں کوئی ایسی چیز نہیں جاتی ہے جو مذکور اہل السنۃ و  
المجاهدین کے خلاف ہے۔ یا تفہیمات کی عبارت میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ بعینہ  
وہی کچھ ہے جو آج تک تمام اہل السنۃ والجماعۃ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔

### مسئلہ کی مختصر تعریف

اہل السنۃ والجماعۃ اس بات پر تو باکمل متفق ہیں کہ حضرات انبیاء و علیہم  
السلام مخصوص ہیں اور عصمت ان کی مخصوص صفت ہے جس میں ان کے ساتھ دوسرا  
کوئی غرض بشریت کیمی نہیں ہے۔ اس بارے میں ان کے مابینی دو رائیں نہیں ہیں۔ بکہ  
سب ایک فیصلہ پر متفق ہیں کہ عصمت بلا کسی شرکت غیرے انبیاء و علیہم السلام  
کی مخصوص صفت ہے۔

لیکن عصمت کی تفصیلات میں ان کے مابیناتفاق نہیں پایا جاتا۔ یعنی جن  
چیزوں سے انبیاء و علیہم السلام کے یہ عصمت ثابت ہے اور ان سے وہ مخصوص  
ہیں، ان میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسئلہ کی حقیقت کو آسانی کے  
ساتھ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو تفصیلاً ذکر کیا جائے جن کے  
ساتھ عصمت انبیاء کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس طرح مسئلہ کے تمام محتملہ شرقوں کی  
پوری وضاحت ہو جاتے گی اور ہر ایک شخص کا اگر اگر حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔  
عصمت کی دو قسمیں

جن چیزوں کے ساتھ عصمت کا تعلق ہے وہ چونکہ دو قسموں پر منقسم ہیں۔  
ایک معاصی ہیں۔ اور دوسری زلات۔ یعنی لغزشیں، اس لیے ان کے اقتدار  
سے عصمت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم عصمت ہے معاصی اور گناہوں سے اور

دوسری قسم عصمت ہے زلات اور لغزشوں سے۔ ذیل میں دلوں قسموں کو بالترتیب بیان کیا جاتا ہے۔

عصمت عن المعاصی ہے گناہوں سے عصمت۔

مندرجہ بالا دلوں میں سے پہلی قسم عصمت ہے گناہوں سے، چونکہ اس میں بھی معاصی اور گناہوں کے تنویر اور اختلاف سے مختلف قسمیں بن جاتی ہیں جو احکام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس لیے ذیل کے سطور میں یہ سب کو اگر انکے اپنے احکام کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

عصمت عن الکفر والکذب، الکفر اور جھوٹ سے عصمت۔

اس بارے میں علامہ محققین نے اپنی تصانیف میں جو مضامین بصراحت بیان کیے ہیں۔ ان کے مطابق "اہل السنّت والجماعۃ" کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد از بیعت انبیاء علیہم السلام کفر اور جھوٹ سے بالاتفاق مقصوم ہیں۔

خواہ قصد اپنایا سہو اور خطا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب انبیاء علیہم السلام منصب رسالت اور مقام نبوت پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر کسی حالت میں بھی ان سے کفر نہ رکھنی ہو سکتا۔ اور نہ تبلیغ دین، یا کسی دوسرے معاملہ میں وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ وہ عصمت ہے جو تمام اہل السنّت والجماعۃ کے نزدیک بالاتفاق انبیاء علیہم السلام کے لیے ثابت ہے اور کسی عالم کا اس میں اختلاف منتقل نہیں ہے۔

رہے کفر اور کذب کے علاوہ دوسری قسم کے معاصی، جو کائنات اور صفات کے قبیل میں قوانین کے بارے میں علمائے محققین نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ بوج

ذیل ہے:-  
**عَصْمَتْ عَنْ سَائِرِ الْكُبَارِ عَمَدًا**  
**وَعَصْمَتْ عَمَدًا جَمِيلَةَ كَبَارِهِ**

کفر اور کذب کے علاوہ جو کبیرہ گناہ اور معاصلی ہیں۔ ان کے بارے میں محتقین علماء کا تذہیب پر ہے کہ یہ کبیرہ گناہ بھی انبیاء و علیہم السلام سے عمدًا اور قصدًا سرزنشیں ہو سکتے۔ بلکہ کفر اور کذب کی طرح ان سے بھی وہ مخصوص ہیں۔ علامہ شیخ آلوئی آیت فَعَصَمَيْ آدَمَ رَبِّهِ فَغَوَى کی تفسیر میں عصیان آدم پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ظاہراً لایۃٍ بدل علی ان ما وقع منه کان من الکباڑوهو  
 المفہوم من کلام الاصمام — فان کان صد و رکہ بعد  
 البعثة تعمدًا من غير نیان ولا تأول اشکل علی ما اتفق  
 عليه المعمون من الائمه المتفقین من وجوب عصمة  
 الانبیاء بعد البعثة عن صدور مثل ذالک منهم على  
 ذالک الوجه او روح المعانی، ج ۱۹ ص ۲۴۴

دنخواہ بزرگ آیت اس بات پر رلات کرتا ہے کہ آدم سے جو کچھ سرزد ہوا تھا وہ کبیرہ گناہوں میں سے تھا یہی بات امام رازیؑ کے کلام سے سمجھی جاتی ہے۔ پس اگر اس کا صدور بعد از بیثت حضرت آدم سے عمدًا نیان اور تأول کے بغیر ہوا ہو تو یہ اس بنا پر مشکل ہو گا کہ علماء محتقین اور ائمہ متفقین اس بات پر متفق ہیں کہ بعد از بیثت عمدًا صدور کبائے

انہیا و علیہم السلام مصوم ہیں۔ اور اس قسم کے صدور کیا تو سے آن کی  
عصرت واجب اور ضروری ہے۔

علامہ سید آلوسیؒ نے اپنی اس عبارت میں علمائے محققین اور ائمۃ متفقین کا  
ذہب صفات طور پر بیان کیا ہے کہ وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں  
کہ بعد از بعثت انہیا و علیہم السلام سے کبائر عدو اسرار زدنیں ہو سکتے اور ان سے  
وہ تغییی طور پر مصوم ہیں۔

عصرت عن الکبائر سہوا  
”سہواً صدور کیا تو سے عصرت“

سہوا و خطأ صدور کیا توں اگرچہ علماء آیس میں مختلف ہوتے ہیں مگر ذہب  
مخاتر اس میں بھی یہی ہے کہ اس طرح کے صدور کیا تو سے بھی انہیا و علیہم السلام  
 المصوم ہیں۔ اگرچہ اکثر علماء سہوا و خطأ صدور کیا تو سے انہیا کو مصوم نہیں  
ماتحتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ آلوسیؒ نے اپنی تحقیق اس طرح پیش کی ہے:-

وَإِنْ كَانَ صَدُورًا بَعْدَ الْبَعْثَةِ سُهْوًا أَشْكَلَ إِلَيْهَا عِنْدَكُمْ  
لِعْنَ دُونِ لِعْنٍ فَعَصَى فَقَدْ قَالَ عَضْدُ الْمَلَكَةِ فِي الْمَوَاقِفِ إِنَّ  
الْأَكْثَرَينَ جُوزٌ وَصَدُورٌ أَكْبَرُهُمْ مَا عَدَ الْكُفَّارُ وَالْكَذَّابُ  
سُهْوًا وَعَلَى سَبِيلِ الْخَطَا مُنْهَمٌ- وَقَالَ الْعَلَمَةُ الشَّرِيفُ بْنُ الْمُخَارِقِ  
خلافہ احمد ریخ (۱۹ ص ۲۴۵)

او راگر آدمؑ سے اس کا صدور بعد از بعثت سہوا ہونا ہو تو بھی  
بعض کے نزدیک مشکل اس پا پر ہو گا کہ عضد الملکۃ نے موافق میں

یہ تصریح کی ہے کہ کفر اور کذب کے ماسوا دوسرے کی بارہ کا صد و راگرچہ  
انبیاء و علیہم السلام سے ہہو اور خلاً اکثر کے نزد مک جائز ہے۔ مگر علامہ  
میر سید شرفیت نے ذہب مختار یہ قرار دیا ہے کہ اس طرح کا صد و ریکارڈ  
بھی ان سے جائز نہیں ہے۔<sup>۱۰</sup>

یہاں موافقت کے حوالہ سے علامہ موصوف نے اکثر علماء کا ذہب میں بیان  
کیا ہے کہ ان کے نزد مک کفر اور کذب کے ماسوا دوسرے کی بارہ انبیاء و علیہم السلام  
سے ہہو اور خلاً اس نزد ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ میر سید شرفیت کے حوالہ سے ذہب مختار یہی عالی  
ترین یہ قرار دیا ہے کہ اس طرح کا صد و ریجی اُن سے جائز نہیں ہے۔

(لفظ) اس عبارت سے یہ حقیقت تو فیروشن کی طرح اشکارا ہو گئی کہ اکثر  
علماء نے ہہو اور خلاً انبیاء و علیہم السلام سے کی بارہ کا صد و ریجی جائز تسلیم کیا ہے میر  
سید شرفیت نے اگرچہ اس کو مختار کے خلاف قرار دیا ہے مگر اکثر علماء کو بھی کسی نظرت  
اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اعلان کیا ہے کہ ہہو اور خلاً کی  
صورت میں انبیاء و علیہم السلام سے کبیرہ گناہوں کا صدقہ جائز ہے۔ اور اس طرح  
کے صد و ریکارڈ سے وہ مخصوص ہیں ہیں ”اہل السنۃ والجماعۃ کے گروہ میں غایہ  
تسلیم نہیں کیا ہے۔ مگر افسوس! کہ آج کے منہوں دنوں میں صرف لغزش کی نسبت پر  
ایک دوسرے کو اسلام کے دار سے سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس

یہ ہے کہ اس کو دین کی بہترین خدمت نظر کیا جاتا ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَدَرَّجْ فَتَكُ مَصِيَّةً  
وَإِنْ كُنْتَ تَدَرَّجْ فَالْمَعِيَّةَ أَعْظَمْ

## حصت عن الصغار

یتفصیل حصت عن الکبار کے متعلق تھی۔ رہبے صغار ا تو ان کا معاملہ کیا ہے سے ذرا مختلف ہے۔ یہاں بالاتفاق بیجا نزق تسلیم کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے سہو اور خلاً صغار سرزد ہو سکتے ہیں۔ البتہ محققین کے تزویک یہ ضروری ہے کہ اس پر انہیں متنبہ کیا جاتے اور مخانیں اللہ انہیں اس بات سے کاگاہ کیا جائے کہ یہ چو کچھ آپ سے سرزد ہوا ہے از قسم خلا اور از نوع الغرش ہے، قابل اتباع پر گز نہیں ہے تاکہ پسی امت ایک ایسے فعل میں نبی کا اتباع نہ کرے جو قابل اتباع نہیں ہے۔ سرماںد صغار کا صدور، تو اس کے بارے میں اگرچہ اختلاف سرزد ہے مگر جو ہو رکھتے ہیں کہ ان سے عمدًا بھی صغار سرزد ہو سکتے ہیں۔ پیر طیکر وہ خیس انہیں نہ ہو۔ علامہ آوسیؒ اس بارے میں اپنی تحقیق اس طرح پیش کرتے ہیں۔

وَذَهِيبُ كَثِيرًا لِّأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ آدَمَ صَغِيرٌ وَالاَمْ  
عَلَيْهِ هِيَنَّ فَإِنَّ الصَّغَارَ إِلَّا غَيْرُ الْمُشْعُرَةِ بِالْحَسَنَةِ يَجُوزُ  
صَدَوْرُهَا مِنْهُمْ عِنْدَ الْيَوْمِ الْيَقِنَةِ عِنْدَ الْجَهْوَرِ عَلَى مَا  
ذَكَرَهُ الْعَلَامَةُ الْاثَّافِيُّ فِي شِرْحِ الْعَوَادِ -

وَيَحْسِنُ صَدَوْرُهَا سُهُوًّا بِالاتِّفَاقِ لَكِنَّ الْمُحَقِّقِينَ اشْتَرطُوا  
أَنْ يَنْبُهُوا عَلَيْهِ فَيَنْتَهُوا أَعْدَادُ رُوحِ الْمَعَانِي ج ۱۶ ص ۲۷۲  
مدد پہت سے علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدمؐ سے جو کچھ سرزد  
ہوا تھا۔ وہ صافیہ تھا اس معاملے سے سہل اس پنا پر ہے کہ  
جہوڑے کے تزویک بعد از بعثت انبیاء علیہم السلام سے ایسے صغار

علماء سرزو ہو سکتے ہیں جو خدیس افعال نہ ہوں۔ چنانچہ علامہ تفتیانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد میں اس کو بصراحت ذکر کیا ہے۔  
وہاں ہوا صد و صفاڑ تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ محققین کے نزدیک ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اس پر متنبہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے آگاہ رہیں۔“

یعنی نبی کی زندگی چونکہ امت کے لیے اسرہ حسنہ کی چیزیت رکھتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بوقت صد و صفاڑ متنبہ ہے تاکہ بغرضوں میں انہیا علیہم السلام کا اتباع لازم نہ کستے۔

مذکورہ عبارت کا ماصل  
اس عبارت میں علامہ سید اوسیؒ نے صفاڑ کے پارے میں علمائے امت کے جو نذر اہلب بیان کیے ہیں اس کا ماصل یہ ہے کہ جو صفاڑ خدیس افعال کے قبیل سے نہ ہوں اُن کا نسبتیاً علیہم السلام سے صد و صفاڑ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض اس کے جائز نہیں مانتے ہیں۔ لیکن مجھ پرور کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور یہ صحت کے لیے محلہ پر  
ہے۔ وہا صفاڑ کا صد و صفاڑ اخطاء، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اور کسی کا اس میں اختلاف منقول نہیں ہے۔ البتہ محققین علاموں کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ صفاڑ کے صد و صفاڑ انہیں من باب اللہ متنبہ ہے۔ تاکہ امت فعل بغرض میں نبی کے اتباع سے محفوظ رہے۔“

بحث کی ابتداء میں صحت کی دو قسمیں بیان کی گئی تھیں، ایک صحت عن المُؤْمِنِ

اور دوسری حصہ عن الزلات۔ یہاں تک جو کچھ تفصیل بیان کی گئی یہ حصہ کی پہلی قسم سے متعلق تھی جو حصہ عن المعاشری کے نام سے ذکر کی گئی ہے۔ اسے حصہ عن الزلات کی تفصیل پیش کی جاتی ہے جو حصہ کی ابتدائی دو قسموں میں سے دوسری قسم ہے۔

اس کے متعلق اہل علم حضرات کی تصانیع میں جو کچھ تفصیلات ملتی ہیں اسیں  
ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:-

### حصہ عن الزلات و بغشیوں سے حصہ

زلات، ایک عربی لفظ ہے جس کے معنے بغش کے ہیں۔ اور بغشیوں سے  
اندیاہ علیہم السلام کی حصہ کے متعلق اہل علم نے "ذہب اہل السنۃ والجماعۃ"  
کی جو تشرییع کی ہے اس کا مानع اور خلاصہ درج ذیل ہے۔

- تقریباً تمام اہل السنۃ والجماعۃ اس بات پر متفق ہیں کہ زلات اور  
بغشیوں سے اندیاہ علیہم السلام معصوم اور محفوظ ہیں ہیں۔ آن سے نہ صرف یہ کہ  
بغشیوں سر زد ہو سکتی ہیں بلکہ ان کے افعال میں یہ بغشیوں موجود بھی ہیں۔ یہ ایک  
ایسا فیصلہ ہے جس پر تمام اہل السنۃ والجماعۃ متفق نظر آتے ہیں۔ اور کسی کا  
بھی اس میں اختلاف منقول نہیں ہے۔ زلات اور بغشیوں کے متعلق اگر علماء  
کا کہنی اختلاف ہے۔ تو وہ صرف وہ باتوں میں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آیا  
بغشیوں پر لفظ زلات کا اطلاق کیا جائے گا۔ یا اس کے یہے تاؤ بآہزک افضل  
کی اصطلاح استعمال کی جائے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ زلات اور بغشیوں

صغاائر میں سے ہیں۔ باری صغاائر میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ زلات انبیاء علیہم السلام کے افعال میں پائے جاتے ہیں اور ان سے وہ مخصوص نہیں ہیں۔ اس بارے میں دو تین حملے کے اصول کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں :-

### علمائے اصول کی تصریحات

اصول فقہ کے علماء نے اپنی اپنی تصنیفت میں زلات انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ تصریحات کی ہیں کہ ان کے افعال میں زلات اور لغزشیں پائی جاتی ہیں اور ان سے وہ مخصوص اور محفوظ نہیں ہیں۔ علامہ عبد العزیز بخاری نے اپنی مشہور تصنیفت غایۃ التحقیق شرح الحسامی میں مسئلہ متعلقہ کے بارے میں ذیر فرمایا ہے :-

انهم عصوموا من الکباڑ عنـد عـامـة الـعـلـمـاء وـالـمـلـيـن

وـمـن الصـغاـيـر بـعـدـ اـصـحـاـبـ بـنـاـ خـلـافـاـ بـعـضـ الـاشـاعـرـ وـانـ

لـمـ يـعـصـمـواـ مـنـ الزـلـاتـ۔ اـهـ رـجـ اـصـلـ ۱۹۰

د انبیاء علیہم السلام کے بارے سے عام علماء اور مسلمانوں کے نزدیک مخصوص اور محفوظ ہیں۔ اسی طرح صغاائر سے بھی ہمارے اگرہ داحنا کے نزدیک مخصوص ہیں۔ اگرچہ بعض اشاعرہ اس کے خلاف ہیں۔ اور زلات سے تو بالاتفاق مخصوص نہیں ہیں۔

چونکہ زلات پر محققین کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کو تنبیہ ملنی ضروری ہے۔ اس لیے علامہ موصوف نے آنکے پل کریہ تصریح بھی فرمادی کہ:-

وَالزَّلْةُ لَا تَخْلُوُ عَنِ الْقَرَانِ بِبِيَانِ أَنْهَا زَلَةٌ امْأَعْنَتِ  
الْفَاعِلَ كَمَوْلَهُ تَعَالَى أَخْبَارُهُ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ  
وَكَزَرَ الْقَبْطِيَ قُتِلَهُ - هُذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ - وَمِنْ اللَّهِ  
تَعَالَى كَمَا قَاتَلَ عَزَّ وَجَلَ - وَعَصَنَ آدَمَ رَبِّهِ فَغُوَيَ أَهْدَفَ<sup>۱۹۸</sup>  
وَبَنِي سَعْدٍ سَعْدٌ سَرِزْدٌ هُوَ بَشَّرَتْهُ تَوَسُّكَ مَسْطَحِيَّهُ وَضَاحَتْ  
ضَرُورَيَّهُ هُوَ هُوَ كَمَ لَغَرَشَ هُوَ "خَوَاهِيَّهُ وَضَاحَتْ خَوَودُهُ" عَوْلَهُ كَلَّهُ  
سَعْدٌ - جَسِيَا كَهُ حَضْرَتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَّلَ قَلْقَلِيَّهُ كَمَ مَرْقُوحٌ  
يَهُ وَضَاحَتْ فَرَمَى كَهُ "يَهُ كَامِ شَيْطَانَ كَاهِيَّهُ" يَاهِيَّهُ وَضَاحَتْ اللَّهُ  
تَعَالَى كَهُ طَرَفَ سَعْدٌ سَعْدٌ جَسِيَا كَهُ لَغَرَشَ آدَمَ كَهُ بَارَسَ مِنْ الْمُدْنَيَّهُ  
وَضَاحَتْ فَرَمَى كَهُ آدَمَ نَزَّلَ فَرَمَى كَهُ - لِسْنَ خَطَا كَاهُ بَهِيرَهُ -

وَسَنَاطَاهِيَّهُ كَهُ مُشْهُورُ وَمُعْرِفَتُ كَتَابُ "الْحَسَامِ" مِنْ بَهِيَّهُ تَصْرِيْحُهُ  
كَهُ هُنَّهُ كَهُ اَنْبِيَا وَعَلِيهِمُ الْسَّلَامُ كَهُ اَفْعَالُهُ مِنْ زَلَاتٍ پَاسَتْ جَاتَهُ مِنْ - اُورَانَ  
سَعْدٌ مَصْوَمٌ نَهِيَّهُ مِنْ - خَنَاجِهُ وَهُوكَبَتَهُ مِنْ -

وَفِيهَا قَسْمٌ اُخْرَى وَهُوَ زَلَةٌ وَلَا يَخْلُوُ عَنِ الْقَرَانِ

بِبِيَانِ أَنْهَا زَلَةٌ قَاهِ

وَأَنْبِيَا وَعَلِيهِمُ الْسَّلَامُ كَهُ اَفْعَالُهُ مِنْ اَكِيدَ قَسْمٌ زَلَتْ بَهِيَّهُ بَهِيَّهُ  
اسَهُ كَهُ سَاتَهِرَيَّهُ وَضَاحَتْ ضَرُورَيَّهُ هُوَ هُوَ كَهُ يَهُ زَلَتْ هُوَ " "  
صَدَرَ الشَّرْعَيَّهُ حَفَوْرَهُ كَهُ اَفْعَالُهُ كَهُ بَارَسَ مِنْ فَرَمَاتَهُ مِنْ -  
فَمَتَهَا مَا يَعْتَدُهُ وَهُوَ مَبَاجُ وَاجِبٌ وَقَوْضٌ وَ

وَغَيْرُ الْمُقْتَدِيِّ بِهِ أَمَا مُخْصُوصٌ بِهِ وَأَمَازَلَةٌ ۚ إِنَّهُ رَاغِبٌ فِي  
وَوَضُعُورٌ كَمَا افْعَالٍ مِّنْ بَعْضِ افْعَالٍ وَهُوَ مِنْ جُوْقَابِيِّ اقْتَدَا مِنْ - يَ  
وَهُوَ افْعَالٍ هُوَ مِنْ جُوْقَابِيِّ وَاجْبٌ وَفَرْضٌ هُوَ مِنْ - اور جُوْقَابِيِّ اقْتَدَا  
نَهْيٌ - وَهُوَ يَا تَوْضُعُورٌ كَمَا سَاقَهُ مُخْصُوصٌ هُوَ نَكْرٌ اور يَا زَلَاتٌ ۝

یہ چند تصریحات ہیں جو مشتبہ نور و از خروارے کے طور پر پیش کی گئیں۔ درجہ  
اُس قسم کی تصریحات نے اصول فقہ کی تمام بسوط کتاب میں بھری ٹپری میں جو بھی کوئی  
بسوٹ کتاب آپ اٹھا کر دیکھی گئے، اس میں آپ کو اس قسم کی تصریحات مل جائیں گے۔  
جن سے آپ پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حضرات انبیاء  
علیہم السلام کے افعال میں بالاتفاق زلات کا وجود مانا گیا ہے اور لغزشوں سے  
وہ بالاتفاق مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان لغزشوں پر فقط زلت کا اطلاق جائز  
ہے۔ یا رعایت او بے کے لیے اُن پڑھ ترک افضل ہی کا اطلاق کیا جائے گا۔  
نیز یہ لغزشوں داخل صفات بھی ہیں یا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے علمائے اسلام کے  
دریچی ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیے جائیں۔

### لغزشوں پر فقط زلت کا اطلاق

لغزشوں پر فقط زلت کے اطلاق میں علماء مختلف ہوتے ہیں۔ بخاری کے  
مشائخ اس کو جائز مانتے ہیں۔ اور سحر قدر کے مشائخ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام  
کی لغزشوں کے لیے ترک افضل ہی کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ صاحب  
درک نے آیت مد فَإِذَا نَهَمَكَ الشَّيْطَنُ ۝ کی تفسیر میں اس کا ذکر اس طرح کیا ہے  
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلٰى أَنَّهُ يَجُوزُ اطْلَاقُ اسْمِ الرَّزْلَةِ عَلٰى افْعَالٍ

الأنبياء عليهم السلام قال مشاريغ بخارى -

”یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے افعال پر فقط رُلت کا اطلاق جائز ہے جس طرح کہ مشاریغ بخارا کہتے ہیں“

وَقَالَ مُشَارِيغٌ سَمْرٌ قَنْدٌ لَا تُطْلِقُ أَسْمَارَ الْزَلْلَةِ عَلَى الْفَاعِلِمِ  
كَمَا لَا تُطْلِقُ الْمُعْصِيَةَ فَإِنَّمَا يَقُولُ فَعُلُوا الْفَاعِلُونَ وَتَرَكُوا  
الْأَفْضَلَ فَعُوْتِبُوا عَلَيْهِ۔ اہر رج ۱ ص ۱۰۶)

”اس کے برعکاف سمر قند کے مشاریغ کہتے ہیں کہ ان کے افعال پر فقط رُلت کا اطلاق جائز نہیں جس طرح کہ ان پر معصیت کا اطلاق جائز نہیں۔ بلکہ ان کے لیے صرف یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے بہر کام کو مچھوڑ کر جائز کام کیا۔ اس لیے عتابِ الہی کی گرفت میں آگئے“

### تشریح

یہ واضح رہے کہ بخارا اور سمر قند کے مشاریغ کے مابین جواختلاف ہے۔ یہ صرف الفاظ کے اطلاق اور استعمال کی حد تک ہے۔ باقی اس بات سے انکار کسی کو بھی نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے افعال میں نظر شیں ہیں۔ اور نظر شوں سے وہ معصوم نہیں ہیں۔ لیکن صاحبِ مدارک کی اس عبارت سے یہ واضح ہے کہ فعل مذکوب میں ختار نہیں مشاریغ بخارا کا ہے۔ اور آیت فاز لہما الشیطون سے اس کی تزییج ظاہر ہے۔ کیونکہ اس میں حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی نظر ش پر زلت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ صاحبِ مدارک کا بھی رجحان اسی کی طرف معموم ہوتا ہے۔

زلات داخل صفاتیں یا نہیں؟

جس طرح کو فخر شوں پر فقط زلات کے اخلاقی میں علمائے اسلام مختلف ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ آیا زلات داخل صفاتیں یا کوئی نہیں؟ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زلات داخل صفاتیں ہیں۔ مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام سے ان کا صد و رقصد اوارادہ تھیں ہوتا۔ اک لیے وہ ان کی عصت پر اثر انداز بھی نہیں ہوتا۔ یہی رائے صدر الشریعۃ کی ہے۔ آپ نے اپنی مشہور تصنیف "المریض" میں فقط زلات کی تحقیق کرتے ہوئے تحریر فرمائی ہے:-

و هو فعل من الصفات ليفعله مت غير قصد ولا بد ا

يتبه عديه اه (ترجمہ)

و لغرض صغیر و گناہوں میں سے ہے۔ جو قصد اوارادہ کے بغیر خالی سرزد ہو جاتی ہے مگر صریح ہے کہ اس پر تنبیہ کی جائے۔

کیا صدر الشریعۃ بھی گروہ اہل السنۃ سے خارج ہیں؟

خوب سے دیکھا جاتے تو صدر الشریعۃ نے اپنی سابقہ عبارت میں یہ تصریح کی تھی کہ "انبیاء علیہم السلام کے افعال میں زلات پاتے جاتے ہیں۔" اور اب اس عبارت میں انہوں نے مراجحت کے ساتھ کہا کہ "زلات داخل صفاتیں ہیں۔" پس اُن عبارتوں کو ملا کر ٹرپمنے سے تجوہ بھی پڑے گا کہ انبیاء علیہم السلام سے صدر الشریعۃ کے نزدیک صفاتیں سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ان سے مخصوص نہیں ہیں۔" حالانکہ صدر الشریعۃ نوو حنفی اور اخافؔ کے گروہ سے مددک ہیں۔ جن

نہ بہت پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ ان کے نزدیک صفات سے بھی انبیاء علیہم السلام مقصوم ہیں۔ چنانچہ غایۃ التحقیق کی سابقہ عبارت میں اس کی تصریح گزرا چکی ہے۔ تو کیا صدر الشریعہ کو بھی ہم گروہ اہل السنۃ سے صرف اس پا پر خارج ہجیں گے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ صفات سے مقصوم نہیں ہیں، اب اگر صدر الشریعہ سے کسی کو ذاتی پرخاش ہو یا گروہی تصنیفات کی وجہ سے دل میں ان سے تفریت رکھتا ہو تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ صدر الشریعہ کو گروہ اہل السنۃ سے یہ کہہ کر نکال سکتا ہے کہ اس نے زلات کو صفات میں شمار کر کے انبیاء کی طرف ان کی نسبت کی ہے اور یہ اہل السنۃ کے مسلم عقیدہ عصالت کے خلاف ہے۔ لہذا صدر الشریعہ اہل السنۃ کے گروہ سے خارج ہیں۔ اور چونکہ یہ احتفاظ ملاد کا بھی نہ بہت نہیں ہے۔ اس یہے جو نسبت سے بھی وہ خارج ہو گئے ہیں۔

بکہ میں تو یہاں تک پہنچتا ہوں کہ صدر الشریعہ کی یہ عبارتیں مولانا مودودی کی تفہیمات والی عبارتوں سے زیادہ قابل گرفت معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ صدر الشریعہ نے زلات کو مصیبت مان کر انبیاء کی طرف غسوب کیا ہے۔ اور مولانا مودودی نے ان کی طرف لغزش کی جو نسبت کی ہے تو مصیبت مان کر نہیں کی ہے پس اگر ہم چاہیں کہ صدر الشریعہ کو گروہ اہل السنۃ سے نکال کر چینک دیں تو ان کی یہ عبارت یعنی ہماری اس مطلب برآمدی کے لیے کافی ہیں۔ اور مزید کسی تلاش اور کاوش کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر چونکہ یہ اشتباہ چودھویں صدی ہجری کی پیداوار ہے اور اگلے زمانے کے لگ کے اس سے آشنا نہیں تھے۔ اس یہے آج تک کسی کو بیانات

نہ سوچی کہ صدر الشریعہ کو بھی مولانا مودودی کی طرح گروہ اہل السنۃ سے خارج کر دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے برخلاف اس کے قول کیسے تو جیسا بیان کی گئی کہ چونکہ یہ زلات صفات میں داخل ہونے کے باوجود کوئی خیس قسم کے افعال نہیں ہیں اس لیے انہیاد کی عصمت پر یہ اثر انداز بھی نہیں ہوتے ہیں۔ نیز ان کا صدود راجہ بنی اسرائیل علیہم السلام سے قصد ایجھی نہیں ہوتا ہے۔ اس بنا پر ان کے صدود سے انہیاد کی عصمت نہیں بلکہ فرق بھی نہیں ڈپتا۔

بہر حال زلات کے بارے میں صدر الشریعہ کی رائے یہ ہے کہ وہ صفات انہیں کی فہرست میں داخل ہیں۔ اس کے بعد بعض دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ انہیاً علیہم السلام کے یہ زلات معاصری اور گناہوں میں سترے سے شمار ہی نہیں کہ انہیاد علیہم السلام سے ان کا صدود ران کی عصمت پر اثر انداز ہو سکے۔ بلکہ اس کی حقیقت صرف یہ ہے کہ ایک زیادہ بہتر کام کو حضور کریمؐ ستر یا جائز کام کو کیا جاتے ہیں کہ طاعت کی بجائے معصیت کا ارتکاب کیا جاتے۔ صدر الشریعہ نے ان علماء کا یہ مذکوب اس طرح تقلیل کیا ہے:

و ذکر بعض العلیمین ان زلة الانہیاد ہی التزلل من  
الافضل الی الفاضل ومن الاصوب الی الصواب لاعتن  
المحقق الی اباطل ومن الطاعة الی المعصية - احمد  
و بعض مشائخ نے ذکر کیا ہے کہ انہیاد علیہم السلام کی تعریش یہ ہے  
کہ زیادہ بہتر اور زیادہ صواب کام کو حضور کراچا اور جائز کام کیا جائے  
نہ کہ حق اور طاعت کی جگہ باطل اور معصیت کا ارتکاب کیا جائے۔

یہ راستے شمس الاممہ سرخسی کی طرف غرب کی گئی ہے۔ صرح پدھ العلامہ الشافی فی التدویع۔ شمس الاممہ سرخسی اور اس کے ہم خیال علمائے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیا ملکیہم الاسلام کی نظر شیئ مصیت میں داخل نہیں بلکہ یہ "ترک الافضل الی افضل" ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ کوئی فعل مصیت کے داخل میں جب داخل ہو سکتا ہے کہ اس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ ایک اس فعل کی حرمت۔ دوسری اس کے فاعل کو اس کی حرمت کا عالم۔ تیسرا چیزیں ہا ارادہ اور قصد۔ یہ تین چیزیں مل کر کسی فعل کو گناہ اور مصیت بنادیتی ہیں۔ بالفائدۃ و بیک  
گناہ اور مصیت پر اس فعل کا نام ہے جو حرام بھی ہو۔ اور حرام جان کر قصد اور ارادۃ کیا بھی گیا ہو۔ اس کے بغیر دو فعل نہ گناہ ہو سکتا ہے اور نہ مصیت اور نہ  
ہے کہ زلات میں اصل فعل کا نہ قصد ہو سکتا ہے اور نہ ارادہ۔ اس لیکے نہ گناہ ہے  
نہ مصیت۔ اسی دلیل کی طرف دریج ذیل الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

قال السرخسی اما الزلة فلا يوجد فيها القصد الى اصل  
الفعل و اما المعنية فهو فعل حرام يقصد الى عينه مع  
العلم بحرمتته اهـ (تبویح)

”امام سرخسی نے کہا ہے کہ زلت میں اصل فعل کا قصد نہیں  
ہوتا۔ اور معنیت ایک حرام فعل ہے جو حرام جان کر قصد آگئی گیا  
ہو۔“

### الحاصل

علمائے اصول فقہ کی ان تصریحات سے یہ حقیقت اپنی طرح واضح ہو گئی کہ

افعال انبیاء میں اہل السنۃ کے نزدیک بالاتفاق نلات مانے گئے ہیں لیکن ان کے صد و رہ سے انبیاء کی اُس عصمت میں فروہ برابر فرق نہیں آتا جو اہل السنۃ و اصحاب کے نزدیک ان کے لیے مسلم ہے۔

گذشتہ مباحثت کا خلاصہ

مسلم کی تشریع میں جو کچھ مباحثت اور پڑکر کیے گئے۔ ان کا خلاصہ دیں کہ روشنی میں آگے چل کر تنہیات کی عبارت اور اس پر بعض بزرگوں کی طرف سے کی گئی تتفقید کو سمجھیں دیکھنا ہے اور درج ذیل ہے:

”اَنْبِيَاً عَلَيْهِمُ الْتَّلَامِعُنَا مَعْصُومٌ ہیں۔ ان کے لیے جو عصمت

اہل السنۃ کے ہاں ثابت اور مسلم ہے، وہ عصمت ہے گناہوں سے نکر نلات اور لغزشوں سے“

”دھر“ حضرات انبیاء و کفار اور کذب سے مطلقاً خواہ عمدًا ہمہ یا سہوأ، بالاتفاق مقصوم ہیں۔ لوہے دھر کے کہاڑ تو عہد اُن کے صد و رہ سے بھی بالاتفاق مقصوم ہیں۔ اور ہمہ صد و رہ کہاڑ میں اگرچہ اختلاف ہے مگر مذهب مختار کی بنابر اُن سے بھی وہ مقصوم ہیں۔ کما صرح بد العلامۃ

الشیعۃ

”دھر“ صفات کا صد و رہ اگر سہوأ و خطا ہو تو بالاتفاق جائز ہے۔ لوارس طرع صفات کے صد و رہ اچھائے مقصوم نہیں ہیں۔ اور عمدًا بھی جہوڑ کے نزدیک صفات کا صد و رہ جائز ہے پس طبکیر و حسین افعال نہ ہوں ۷۴

صحیح بد العبدی شرح العقائد

۱۳۔ ”زلات، اور بغرضیں، نہ صرف یہ کہ انبیاء و علیہم السلام سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ بلکہ ان کے افعال میں واقع بھی ہیں۔ اور ان سے نوہ بالاتھا ق معصوم نہیں ہیں۔ البتہ مختصین کے زدیک ضروری ہے کہ اس پر انہیں تسلیم ہے تاکہ بغرضوں میں نبی کے اتباع سے امت محفوظ رہے ہے۔“

مسند و عصمت الانبیاء مکی یہ مختصر تشرع ہے۔ اس مسئلہ پر علمائے اہل سنت کی تصانیف میں فردی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ لیکن مقصد کے لحاظ سے ان تمام تفصیلات کے نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مختصر تشرع پر اتفاق آگئی۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں کہ مسئلہ کی اس مختصر تشرع کی روشنی میں مولانا مودودی کی تفہیمات والی عبارت، اور اس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفون کی وہ تعمید کیسی جو اس عبارت پر مولانا مرحوم نے کہی ہے۔ اور یہ معلوم کریں کہ دونوں میں سے کس کی راستے اہل السنۃ والجماعۃ کے مذکوب کے ساتھ مطابق ہے۔ ذیل میں ہم پہنچتے ہیں مولانا مودودی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مدفون کی تعمید کا ذکر کریں گے۔

## تفہیمات کی عبارت

مولانا مودودی نے تفہیمات رج ۱۰ ص ۱۷ میں سیدنا حضرت داود علیہ السلام کے قدر کے متعلق علمائے وقت کی کئی توجیہات بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی ایک توجیہ ذکر کر رہے ہیں میں انبیاء و علیہم السلام کے بارے میں میراث اس بات کا ذکر آگیا ہے۔ کہ ”ان سے بعض بغرضیں سرزد ہوتی ہیں۔“ پوری عبارت یہ ہے۔

و لیکن ان حضرات نے شاید اس امر پر غور نہیں کیا ہے کہ حصمت در اصل انبیاء و علیہم السلام کے بو ازم ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبیت کی ذریعہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصنعت خطاوں، اور لغزشتوں سے محظوظ فرمایا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منفك ہو جاتے تو جس طرح عامر انسانوں سے بھول چکے اور غلطی ہو جاتی ہے اسی طرح انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالازادہ ہر نبی سے کسی بھی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سنبھال ہونے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں۔ اور جان یعنی کہ یہ بشر ہیں خدا نہیں ہیں۔ ”ابن رجح ۶ - ص ۲۳“

یہ ہے وہ عبارت جس سے یہ تجویہ اخذ کیا گیا ہے کہ مولانا مودودی تمام اہل السنۃ والجماعۃ کے خلاف انبیاء و علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہیں۔ اور اسی عبارت کے پیش نظر مولانا ابوالاہل مودودی اور ان کی جماعت کو دینی زبان میں اسلام کے دائرہ سے خارج کیا گیا۔

عبارت کی تحلیل اور تجزیہ  
غیر متحققاً نہ ہنستے سے اگر اس عبارت کا تجزیہ کیا جاتے تو مضمون کے اعتبار سے درج ذیل چار امور پر روشنی پڑتی ہے جن کو یہم مختصر تصریح کے ساتھ خارج کے سامنے پیش کرتے ہیں:

(الف) تفہیمات کی عبارت میں چو حصمت ذکر کی گئی ہے۔ اس سے

مرا عصمت ہے خطا اور لغزشوں سے نہ کہ معاصی اور گناہوں سے بلکہ  
وہ یہاں سرستے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔“

### تبصرہ:

اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے دلائل وہ قرآن ہیں جو عبارت کے سیاق اور سماق  
دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سیاق میں خطاوں اور لغزشوں سے کے الفاظ  
خوب تیکار ہے ہیں کہ یہاں زیر بحث وہ عصمت ہے جو خطاوں اور لغزشوں سے ہو  
نہ کہ وہ عصمت جو معاصی اور گناہوں سے ہو۔ اور سماق میں بھی لغزشوں کا ذکر کیا  
گیا ہے۔ چنانچہ اس سے قبل کی عبارت میں مولانا نے فرمایا ہے:-

”اس تاویل کو تبریل کرنے میں لوگوں نے صرف اس بنا پر تمامی کیا  
ہے کہ انجلیوں کی طرف اس قسم کی ”لغزشوں“ کا انتساب عصمتِ انبیاء  
کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔“

یہاں بھی ”لغزشوں“ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب سیاق و سماق دلوں  
میں ”لغزشوں“ کا لفظ بطور قرینہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور گناہوں کا ذکر اصلاً موجود  
نہیں ہے۔ تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زیر بحث وہ عصمت  
ہے جو نکات اور لغزشوں سے ہو۔ نہ کہ وہ عصمت جو معاصی اور گناہوں سے ہو  
(ب)“ زیر بحث انبیاء کے نکات کے ساتھ لازم نہیں ہے بلکہ  
ثبوت اور سالمت کے لوازمات میں سے ہے۔“

### تبصرہ:

اس شق پر تبصرہ کرنے کے لیے مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں اس

چیز کی وضاحت کی جائے کہ انہیادِ علیهم السلام کی حیثیتِ ذات اور حیثیتِ نبوت  
و رسالت دو نوں میں کوئی فرق ہے یا کہ ہم بلکہ فعلی حیثیتیں دیکھیں ہیں۔

### قرآن و حدیث کی رینجاتی

اس بارے میں قرآن کریم اور احادیثِ نبویہ سے جو کچھ رینجاتی ملتی ہے وہ یہ کہ  
کہ انہیادِ علیهم السلام کے ذواتِ قدسیہ اگرچہ ابتدائے آفرینش سے ایسی صفات  
اور خالقیتوں کے حال، اور صفات و استعدادات کے مالک رہتے ہیں جو دوسرے  
انسانوں اور افراد میں اصلاً نہیں پائتے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ملکات اور کمالات  
سے بھی متصف ہوتے ہیں جن کا تصور بھی دوسراے انسانوں اور افراد بشر میں نہیں  
کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ان علم بشری کمالات کے باوجود وہ ہیں بشر اور انسان۔  
ان کی صفات اور استعدادات، ان کے کمالات اور ملکات اور ملکیتوں سے اگر قبضہ نظر  
کر کے دیکھا جائے تو ان کے ذوات بشریہ اور دوسرے انسانوں کے ذوات میں  
اصل بشریت، اور انسانیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے باہم  
اگر فرق ہے تو وصفِ نبوت و رسالت۔ اور ان صفات و کمالات میں ہے  
جو انہیاد کے علاوہ دوسرے افراد بشر، اور عام انسانوں میں موجود نہیں ہیں۔

بھی وہ حقیقت ہے جو ایک سے زائد ممالک پر قرآن کریم کی متعدد آئینوں میں  
 واضح کی گئی ہے۔ اور احادیثِ نبویہ سے بھی اسی پر فرمد روشنی پڑتی ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہیادِ علیهم السلام کے ذواتِ قدسیہ میں اگرچہ  
وہ صفات و کمالات پہلے ہے دلیعت رکھے گئے ہیں جو نبوت و رسالت  
کے لیے مدار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مگر ان کی حیثیتِ ذات اور حیثیتِ نبوت و

رسالت، دو الگ لگ عثیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبل از بعثت ان کو بالفضل  
بیوت و رسالت سے متصف نہیں مانا گیا ہے۔ گریا القوۃ بیوت و رسالت  
کے وصف سے متصف ہرل۔

اس سلسلہ حجتیات کو پیش نظر کر جب ہم تنبیہات کی اس خیارت پر نظر  
ڈالتے ہیں کہ:

”عمرہ حجستہ انہیاد علیہم السلام کے لوازم ذات سے نہیں بلکہ بیوت  
و رسالت کے لوازمات میں ہے ہے ہے“

تو اس سے صریح طور پر جو مفہوم اور معنے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور جن کے  
امداد و مدد کے کسی مفہوم اور معنے کے لیے اس میں کجاں شہی نہیں وہ یہ ہیں  
کہ انہیاد علیہم السلام کے ذوات قدر ہزار کیا لات اور لاکھوں صفات کے  
باوجود بھی چونکہ بشر اور انسان ہیں۔ اور بشرتہ و انسانیت اپنی ذات کے اعتبار  
سے لازمی طور پر خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ نہیں ہو سکتی۔ اس نیا پروت  
انہیاد کے علاوہ عصمت لازم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ عصمت، بیوت اور رسالت  
کے لوازمات میں سے ہوگی۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو حق تسلیم  
کرنے میں کوئی مسلمان تأمل نہیں کر سکتا۔

### ویسیل

اُس کے لیے واضح ویل یہ ہے کہ انہیاد علیہم السلام کے لیے ودحاتی  
ہمیشہ ہی ہیں۔ ایک حالت قبل از بعثت۔ جس میں وہ بالفضل بیوت و رسالت  
کی صفت سے متصف نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسری حالت بعد از بعثت،

جس میں وہ بالفعل مقام نبوت اور منصب درسالت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور  
ظاہر ہے کہ ان کے ذوات دو توں حالتوں میں بکیان طور پر پائے جاتے ہیں۔  
اپ اگر عصمت ان کے ذوات کے لیے لازم مان لی جائے۔ تو ضروری ہے کہ  
عصمت دونوں حالتوں میں ان کے لیے بکیان طور پر بالاتفاق ثابت ہو کنکہ  
نبی کی ذات دونوں حالتوں میں بکیان طور پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک مسلم  
قانون ہے کہ ذات کا تتفضا اور لازم ذات کے ساتھ ہر خرافت میں لازم رہتا ہے۔  
جہاں ذات ہوگی وہاں لازم بھی ہوگا۔ ورنہ لازم، لازم نہیں رہے گا۔ حالانکہ  
اکثر اہل السنۃ انبیاء و حلیمہم اسلام کو قبل ازبعثت معموم نہیں مانتے ہیں۔ اور  
ان کو کسی نے گردہ اہل السنۃ سے نہیں نکالا ہے۔ اس بنا پر ماننا پڑے گا کہ  
عصمت انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں بلکہ نبوت درسالت کے لوازمات  
میں سے ہے۔

یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کے سمجھنے میں کسی عالم انسان کو کوئی  
الجھن پیش نہیں آسکتی۔ مگر معلوم نہیں کہ کس غلطیم مگر خوبیہ مصلحت کے تحت ایک  
نے اس کو حد سے زیادہ خنی اور نظری بندکے رکھ دیا ہے جس پر جانبین کو بونے

لئے اکثر کی قید اس لیے لگائی گئی کہ بعض ان کو قبل ازبعثت بھی معموم مانتے ہیں  
اور اس کو اصلاح بھی کہتے ہیں۔

ثمر هذه العصمة ثابتة لا نبياء قبلها بعدها

علی الاصح اهـ ملک علی خاری شرح فقرۃ اکبر ۱۷ م

اور بکھنے کی مزدودت پیش آگئی۔

علمائے کرام کی خلافت اور عداوت سے خدا اپنے حظداران میں کسکے یہ حضرات جب کسی کی مخالفت اور عداوت پر اتراتے ہیں تو امام غزالیؓ اور ابن تیمیہؓ جیسے ائمۃ اسلام بھی ان کے فتویٰ تفسیق اور نسبت تضییل سے بچ نہیں سکتے۔ نیز بدیہی سے بدیہی حقائق کو بھی علمی نکتہ آفرینیوں سے مشتبہ اور سمجھدیہ بن کر کھو دیتے ہیں۔

حبارت کا تیسرا جزو یہ ہے:

(ج) یہ صفت عطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی عطا فرمائی ہے۔ اگر ان سے تحریری دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جائے تو عام انسانوں کی طرح ان سے بھی بھول چوک اور لغرض ہو سکتی ہے۔

تعصیرہ:

اس جزء کو جب عمل اور نقل دونوں کی روشنی میں بہم رکھتے ہیں تو ذہن میں انکار کے لیے کافی مستول وجہ نہیں آتی ہے۔ کیونکہ ابھی شق عطا کے تصریحے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ صفت و صفت بہوت درسالات کے لوازمات میں سے ہے۔ اور بہوت درسالات دونوں عطا فرمائیں ہیں جو انہیاں کو بوقت بعثت میں جانب اللہ عطا کی جاتی ہیں، وہ فاتح اور پیدائشی نہیں ہیں۔ اور جب بہوت عطا فرمائے قرار پاتی تو کہیں یہ نہ تسلیم کیا جائے کہ صفت تھی اپنے ملزم کی طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت ہے جو انہیاں کو من جانب اللہ تسبیح کرتی

جے؟ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَوْلَنْ عَذَّبْنَاكَ لَعَذَّبْتَنَاكَ لَعَذَّبْدِكَ دُنْتَ تُرَكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا مَكِيدِيْلًا  
إِذَا لَأَدَّتْنَاكَ ضِيقَتْ الْحَيَاةِ فَضِيقَتْ الْمَآتِ تُمْ لَأَنْجِدُ  
نَكَ عَذَّبْنَا نَصِيدِيْلًا۔ (رسی اسرائیل، ع ۶۰)

”اور اگر ہم نے تم کو حق پر ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو قربِ تحاکتم  
ون کی خوف تھوڑا سا مائل ہوتے۔ اور ہم اس وقت تم کو دنیا میں بھی  
دو گنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی۔ پھر تم ہمارے بال مقابل کرنی درودگار  
نہ پاتے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَلَوْلَا فَضْلُنَّ أَبْلَهَ عَذَّبِيْلَ وَلَوْلَا حَمْدُنَّ لَهُمْتَ جَائِعَةً  
بِهِمْ أَنْ يَضْلُوْكَ رَا الشَّاءِ۔ (ع ۱۲)

”اگر تم پر خدا کا فضل نہ ہوتا اور نہ رحمت اس کی آپ کے شان  
مال رہتی۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے قریب ازادہ کرہی یا تھا کہ  
آپ کو راہ حق سے گراہ کروں۔“

مگر یہ اشتبہی تھا کہ اس نے محض اپنے فضل سے آپ کو بھالیا۔ اور اسی کو لپٹے  
بُرے ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی  
آیتیں قرآن کریم میں ملتی ہیں جن سے یہ حقیقت اچھی طرح حیاں ہو کر سامنے آ  
جائی ہے کہ انہیاں علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ ہی نے معصوم اور محفوظ فرمایا ہے۔  
اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اُن سے اللہ کی حقاً خواستہ اٹھ جائے تو اُن سے لغزشوں

کا سرزد ہر ما کوئی بعید از امکان امر نہیں ہے ۔ اس کے علاوہ علماء محققین نے اپنی تھناہیت میں یہ تصریحات بھی فرمائی ہیں کہ انہیاں کی عصمت ان کی ذات اور طبعی صفت نہیں ہے جو ان کی ذات سے کسی وقت منتفع ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کی ہوتی نعمت ہے جو بتوت پر فائز ہو جانے کے بعد نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ علامہ سید اوسیؒ نے روح المعنی ج ۱۳ ص ۲۳۴ میں اس کی تصریح فرمائی ہے ۔

وَهُوَ أَيْتَهُ وَأَجْبَرَهُ وَبِنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَاهَنَامَ كَتْفِيرَكُرَسَةَ هُوَ سَيِّدُ الْتَّسْرِيرِ  
فرماتے ہیں ۔

وَالْمَرَادُ هُنَّا طَلَبُ الثِّبَاتِ وَالدَّوَامُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْبَعْدُ  
عَنْ عِبَادَةِ الْإِلَهَنَامِ وَالْأَنْبِيَا وَمَعْصُومِونَ عَنِ الْكُفْرِ وَ  
عَنْ عِبَادَةِ كُلِّ غَيْرِ اللَّهِ ۔ ۱۵

”حضرت ابراہیم کی مراویہاں و مذکوریے سے طلب ثبات اور دوام ہے تو حیدر پر اور اس بات پر کہہ تو ان کی عبادت سے دُور رہیں۔ ورنہ انبیاء علیہم السلام، کفر اور غیر اللہ کی عبارت سے دیسے ہیں مقصود ہیں“ ایک اشکال اور اس کا جواب ۔

ایت کریمہ کی اس توجیہ اور تفسیر پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشکال داند کیا ہے۔ پھر اپنی طرف سے اس کا ایک جواب بھی دیا ہے، علامہ سید اوسیؒ نے دو لوگ کو دریج ذیل الفاظ میں تعلیم کیا ہے ۔

وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمَامُ بِأَنَّهُ لَا كَانَ مِنَ الْمُعْلُومِ أَيْنَهُ

## سچانہ و تعالیٰ پیشیت الائینیا علی الائینیاب قما الغائب فی سوال التثبیت ؟

دہام رازیؑ نے اس توجیہ پر اعراض کیا ہے کہ جب یہ معلوم ہے  
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بنیوں کو توحید، اور شرک سے ابتناب پر مائم رکھتا  
ہے۔ تو اس چیز کے لیے سوال کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

ثمر قال وَالصَّمِيمُ عَنْدِي فِي الْجَوَابِ إِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَعْذِرُ  
إِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُ عَنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِلَّا إِنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ حَصْنًا  
لِنَفِيَهُ وَأَطْهَارَ الْحَاجَةَ فَإِنْفَاقَتْهُ إِلَى فَضْلِ اللَّهِ عَنْ وِ  
جْلِ فِي كُلِّ الْمَطَالِبِ - احمد

وہ اس لا جواب امام موصوفؑ نے یہ دیلہ ہے کہ ابراہیمؑ کو اگرچہ  
یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی عبادت سے اُسے محروم رکھے گا۔  
مگر عصمت کا سوال اس نے کہر نفس، اور اس بات کے انہار کے لیے  
کیا تھا کہ میں ہر وقت اپنے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے آپکے فضل  
کا انتہائی محتاج ہوں۔

یہ سوال اور جواب دونوں امام رازیؑ و مرداللہ علیہ کے ہیں جسکے پیلے کردار  
ستید آئیئی تے اپنی طرف سے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے:  
وَالْجَوَابُ الصَّمِيمُ عَنْدِي مَا تَبَيَّنَ إِنْ عَصَمَهُ إِلَّا إِنْتِيابُ  
لِيَسْ لَأَمْرٍ طَبِيعِي فِيهِمْ بِلِ بِحْضُنِ تَوْقِيقِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيَّامَ  
وَتَفْضِيلَهُ عَلَيْهِمْ وَلَذِكْرِ صَحْ طَلْبِهَا۔ احمد رفع ۱۲ ص ۲۳۳

تیر سے زدیک سیح جواب دے چے جو دوسرے علامہ نے دیا ہے  
کہ انبیاء کی عصمت ان کی طبعی اور ذاتی صفت نہیں ہے رجوع کر ذات  
سے منفک نہ ہو سکے، بلکہ یہ خالص ترقیٰ الہی سے بطور فضل و احسان  
کے انہیں عطا ہوتی ہے۔ اس بنا پر اس کا سوہنل بھی سیح ہو گیا اور طلب  
بھی یہ

اس جواب میں علامہ سید اوسی نے اس حقیقت کا انکشافت کر دیا اور اس  
کو صحیح بھی قرار دیے دیا کہ انبیاء کی عصمت ان کی ذاتی صفت نہیں جو ذات  
کے ساتھ لازم ہو کر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ان سے منفک نہ ہو سکے بلکہ  
یہ اللہ تعالیٰ نے ہوئی ایک صفت ہے جو نیزت درستاد کے بعد انہیں ملی ہے اور  
اپنے فضیل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلق ہوتی صفت سے نہ لازم ہے۔ اور جب یہ  
ذاتی صفت ہونے کے بعد نے عطا تعلق تواریخی تو ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ  
ان سے تصوری دینکے یہ اپنی خانکت کو الحمد تھے تو ہر سکتا ہے کہ ان سے کئی نہیں  
مرز دھونے والے۔

تفہیمات کی عبارت میں تجھے کا چوتا اور آخری جزو یہ ہے :  
”رد) ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی خانکت انہا کر  
لیکر دو نفر شیں سر زد ہونے دی ہیں“

تعجب ہے :

یہ وہ حق اور وہ جزو ہے جس پر علیٰ مذکور میں اگرچہ بہت ڈراہنگا مر بر پاکی گی  
ہے۔ مگر مسئلہ عصمت الانبیاء میں اس کی جو تشریع گزر چکی ہے، اگر اس کی روشنی میں

اس کو دیکھا جلتے، تو اس بات پر حقیقی مصالح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے پہلے ان القائد میں سدکے اہل استفت و اجتماعت کی عین ترجیانی کی ہے کیونکہ اس میں زیادت سے زیادت جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ "انہیاً علیہم السلام" سے ایک یادو لغزشیں سرزد ہوئی ہیں ۶۷ اور مشکلہ حضرت الانبیاء میں متعدد ائمہ کے حوالوں سے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ تمام اہل استفت اس بات پر متفق ہیں کہ انہیاً کے انعام میں لغزشیں پائی جاتی ہیں ۶۸ اور لغزشوں سے وہ مصصوم نہیں ہیں توجیہ یہ مشکلہ اجماعی ہے اور پرستے اہل استفت ابتداء سے اس پر متفق چیز آئے ہیں، تو یہ بات ہماری سمجھتے بالآخر ہے کہ آخر مولانا مودودی کو ایک ایسی بات مکہتے اور سخن سے کیروں اپنی استفت و اجماعت بکھر اسلام کے دائرے سے نکال جا رہا ہے جس بات پر قرآن و حدیث ناطق اور تمام اہل استفت بکھر پرستے اہل اسلام متفق رہتے ہیں ۶۹ اور اگر مولانا مودودی کو صرف اتنی بات کہہ دیتے تو کہ اہل علیہم السلام سے ایک یادو لغزشیں سرزد ہوئی ہیں "گردو اہل استفت یا وائر اسلام سے خارج کر دیتے کی کوششیں کی جائیں تو ہمیں بتایا جائے کہ اُن تمام علماً اسلام کے ساتھ کی مدد کی جائے گا، جو ایک یادو لغزشوں کے نہیں، بلکہ بالکل تعداد کے ذکر کرنے کے مطابق لغزشوں کے مدد کے قابل رہتے ہیں؛ بہر حال انہیم علیہم السلام کی طرف ایک یادو لغزشوں کی طرف نسبت کرنے سے انسان نہ عضرت الانبیاء کا اندر قرار پاسکتا ہے اور نہ گردو اہل استفت سے خارج۔

یہ تفہیمات کی عبارت پر مختصر تجزہ اور جائزہ تھا جو تو پڑیع منقد کی غرض سے پیش کر دیا گیا۔ ذیل میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی

زد افسوس مرقدہ کی وہ تنقید سپیش کی جاتی ہے۔ جو مولانا مرحوم نے تفہیمات کی عبارت پر لکھی ہے۔ پھر اس پر بعد میں مختصر تبصرہ ”بھی پیش کیا جائے گا تاکہ ایک ناظر کے لیے یہ راستے قائم کرنا آسان ہو جائے کہ مولانا مرحوم کی یہ تنقید کیا ہے تکہ صحیح اور درست ہے۔ اس میں مولانا مودودی کو چواعلام سے خارج کر دینے کی کوشش کی گئی ہے اس میں حضرت شیخ مدفنِ کعبہ تک مُصیب اور حق بجا شد ہیں؟ فیما حسرۃ علی العباد لا یزاون مختلفین حق تامینہ المساعدة۔

## تفہیماتی المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ

تفہیمات کی مذکورہ بالا عبارت پر حضرت شیخ مدفنِ رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل تنقید فرمائی ہے:-

”اب فرمائیے کہ مذکورہ بالا عقیدہ رجو تفہیمات کی عبارت میں مذکور ہے، پھر نبی کے متعلق جن میں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاخْلَهُ بَلَى  
تک اصول و عقاید اسلامیہ کے مطابق ہے جس میں پھر نبی سے حدیث و  
حناخت کا اٹھایا اور بالا لڑوان سے لفڑی کر دینا مانگا ہے؛  
اسی صورت میں تو کوئی بھی معیار حق نہیں رہ سکتا ہے۔ اور نہ کسی بھی  
پرسپشنٹ احتصار ہو سکتا ہے۔ جو حکم بھی ہو گا اس میں یہ اتحاد موجود ہے کہ  
کہیں وہ حدیث و حناخت اٹھانے کے زمانے کا نہ ہو۔ اب بتلائیے  
کہ یہ اختلاف اصولی ہے یا فردی اور بتلائیے کہ اسلامی جماعت اور اس  
کے باقی مسلمان ہیں یا نہیں؟“ (مودودی دستور مصہد)

یہ خصیت ہے کہ مولانا مر حوم نہ صرف یہ کہ اپنے وقت میں علم شریعت کے ایک ماہر، محقق اور تاجر عالم تھے۔ بلکہ اسرارِ شریعت، اور علمِ تصورات میں بھی شیخ کامل اور ستم امام تھے۔ آپ کی دیانت و تہذیت تمامِ علمی اور اسلامی حلتوں میں مسلم تھی۔ خصیت اور خدا ترسی میں خلوص اور قتوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسلام کی پختہ سیرت، اور مضمونِ کردار کے لحاظ سے مولانا مر حوم کی خصیت اس قابلِ حقی کہ اس کو دنیا کے اسلام کی متاز ترین دینی شخصیتوں میں شمار کی جائے۔ — پرانے لحاظ سے تو ہم مولانا مر حوم کی تنقید کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو انہوں نے نیکی بھی اور دینی جذبے کی بجائے فاسدِ نیت اور خراب ارادے سے لکھا ہوگا۔ لہذا اس اعتبار سے تو مولانا مر حوم کی اس تنقید پر انہیاں خیالِ منکب نہ تقادی۔ حقی علائی اہل سنت و اجماعت نے مثلاً حضرت الائیاءؑ کی جو تشریع کی ہے، اس کی روشنی میں جب ہم مولانا مر حوم کی اس تنقید پر غور کرتے ہیں تو ہم اس کو مولانا کی ایک قلبی تغزیش سمجھتے ہیں جس سے وہ خود بھی محفوظ اور معصوم نہیں تھے۔ اس بنا پر حدودِ ادب کرتا ہجراست طاعتِ ملحوظ رکھتے ہوئے مولانا مر حوم کی تنقید پر انہیاں خیال کی عرض سے چند بچھے قدر میں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ و اللہ اعلم بعما فصل در العذمین۔

مگر تنقید پر انہیاں خیال کے یہے غایرِ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مولانا مر حوم کی تنقید کا مناسب تجزیہ کر کے پھر ہر جزو کا علیحدہ علیحدہ مناسب جائز ہیا جائے۔ ذیل میں ہم اس کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔

تحلیل و تجزیہ:

مولانا مرحوم کی تنقید کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو سچے ذیل میں احمد پردو شیخ  
پڑتی ہے :

الف) ”ہر بھی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے  
بالا را وہ حصت و خالصت اٹھا کر لغزشیں سرزد ہونے دی ہیں عقائد  
اور اصول اسلامیہ کے مخالف ہے“

وہ، ”کیونکہ ایسی صورت میں نہ کوئی نبی معیار حق رہ سکتا ہے اور  
نہ اس پر اعتماد ہو سکتا ہے کیونکہ ہر حکم میں یہ احتمال موجود ہے کہ درہ  
اس وقت کا ہو جسی میں نبی سے حصت و خالصت اٹھائی گئی ہو“

رج) اس پایہ پر یہ اختلاف اصولی ہے نہ کہ فرمائی۔ اور جماعت  
اسلامی اور اس کے باقی مولانا مودودی دونوں مسلمان ہیں ہیں“

والعیاذ باللہ من فیک

حضرت شیخ کاظم، فتنی تہذیر اور دیانت و نعمتوں کی شانی اور مصائبی شان  
کو سامنے رکھ کر جب ہم ان کی اس تنقید پر غور کرتے ہیں تو خداشاہ ہے کہ سماں چیزیں  
کی کوئی آتھا نہیں رہتی۔ اور دل و دماغ اس طبق میں پڑ جلتے ہیں کہ تنقید کے یا انفاؤ  
حضرت شیخ جیسے حق اور تہذیر، قسمی اور خدا اترس عالم کی زبان و قلم سے نکلے جی ہیں یا  
کر نہیں اور نکلے ہیں تو کس طرح؟ بالآخر بہت سچ بچارہ کے بعد اس بات پر الہینا اور  
تسلی عاصل ہو جاتی ہے کہ چیزت اور پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ انسان کا خاص سرہی  
بھی ہے کہ اس سے خطایں اور لغزشیں سرزد ہوں۔ خوش قسمی یہی ہے کہ نیک نیتی کے  
ساتھ خطا اجتہادی کی صورت میں محو اخذ نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے:

ان الحاکم اذا اجتهد فاختلط أندھا اجر وافا اصحاب

فلدہ اجران دخواری،

و کوئی حاکم اگر اپنے اجتہار میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملے گا اور  
حق بات کو پہنچے تو اس سکھیے دراج ہیں:

اس بنابریجے اگرچہ مولانا مرحوم کی تنقید سے جزوی طور پر بھی آتفاق نہیں بلکہ  
کلی اختلاف ہے۔ مگر ان کے متعلق میراگمان یوچہ کہ انہوں نے نیت تنقید نہ کیں میتی سے  
کی ہے۔ اس سے بھی بھروسی کہ حضور کے ذکر وہ ارشاد کے پوجب الشر کے ہاں انہیں  
اجمل جائے۔ بالغرض اگر اجر نہیں ملے تو امید ہے کہ مولانہ کو نہ ہوگا۔

لیکن مولانا مرحوم کی تنقید سے آج جو لوگ تابع از فائدہ الفارہی ہیں یا مسلمانوں  
کو مولانا مودودی اور حماسی اسلامی سے بدلن کرنے کے لیے تنبیمات کی مذکورہ  
عبارات کو سمجھ شدہ صورت اور غلط زمک میں پیش کرتے ہیں یا اس کو غلط معنے  
پہنچ کر لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو! مودودی پیغمبر وہی گنہگار سمجھ رہا ہے۔  
یا پیغمبر وہ پر بھی تنقید کر دیتا ہے۔ جسے بعض بزرگوں سے خود کو چکا ہوں اور بعض  
سے بالواسطہ ملنے میں آیا ہے۔ تو لیے لوگوں کے بارے میں بھراں کے اور کی  
کہا جاسکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یا تو خوب خداوندی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہی  
ہے اور آخرت کی جوابی کے احساس سے بکسر فاصل اور بے نیاز ہو چکے ہیں۔ اور  
یا چہ انہوں نے اپنے متعلق یہ غلط تصور قائم کیا ہے کہ ہمیں بدترین صحابہ کرام کی  
طرح اس بات کی بشارت مل چکی ہے کہ افعدوا ما شتم فانی قد غفرت

لکھ۔۔۔ یہ حضرات خواہ غوث ہوں یا قطب، قاضی ہوں یا منقی لبرالٹری  
ہوں یا عالمیت کے ون اللہ کے بہار اپنے نیے جواب سوچیں۔  
اس کے بعد قبیل میں ہم مولانا مرحوم کی تقدیر کا جائزہ لیتے ہیں اور جن وجوہ  
سے ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے ہیں انہیں پیش کر دیتے ہیں:

## وجوه اختلاف

### شق الف کا جائزہ:

اس شق کے متعلق ہم مولانا مرحوم کے ساتھ اتفاق اسی لیے ہیں کہ ان کی  
یہ راستے تمام اہل السنۃ والجماعۃ کے اجماعی فیصلہ کے خلاف ہے۔ ہم نے پہلے  
صفحات میں مشکلہ حصہ آنبیاء کی جو مختصر تشریح کی ہے، اس سے پہلے اسی  
طریقہ سے معلوم ہو چکی ہے کہ تمام اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک آنبیاء علیہم السلام  
کے افعال میں زلات اور لغرضیں پائی جاتی ہیں اور ان سے وہ مخصوص نہیں ہیں لہو  
زلت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی لغرضیں کے سوا کوئی درجے نہیں ہیں۔ تو  
جب یہ ایک اجماعی فیصلہ فرار پایا کہ آنبیاء علیہم السلام کے افعال میں زلات اور  
لغرضیں پائی جاتی ہیں اور ان سے وہ مخصوص نہیں ہیں تو مولانا مرحوم کی یہ بات کس  
طرزِ صحیح تسلیم کی جائے گی کہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے  
بالامانۃ حسمت و خاختت اٹھا کر لغرضیں سرنزد ہونے دی ہیں، عقائد اور اصول  
اسلامیہ کے خلاف ہے؟؟؟ عقائد اور اصول اسلامیہ کے خلاف جو عقیدہ ہے وہ یہ  
ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے ان سے حسمت و خاختت اٹھا کر ٹبے یا چھوٹے گناہ ہمدا نزد

ہونے دیتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ تو سرگز حفاظ اور اصول اسلامیہ کے خلاف نہیں ہے کہ "ان سے حصہ و حماقت الٹا کر لغزشیں سرزد ہونے دی جیوں" بلکہ یہ تعلیم وہی عقیدہ ہے جو تمام اہل استنت کے ہاں ابتداء سے آئے تک تشقیق میں عقیدے کی حقیقت سے منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ اور آج بھی ان کی تھانیت میں تحریری شکل میں ملتا ہے جسے پہلے مشکل حصہ انبیاء کی تشریع میں "حصہ عن الزادات" کی بحث میں پہنچنے والے کو سیان کیا ہے۔ ہاں! اگر مولانا مودودی نے یہ کہا یا لکھا ہے تو انبیاء علیہم السلام گن ہوں سے مقصوم نہیں ہیں، تب ان پر یہ انہم جو مولانا مرحوم نے کہا یا کہے درست ہوتا۔ بلکہ مولانا مودودی کی تمام تھانیت کی آپ دنی گردانی کیجئے ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ "انبیاء علیہم السلام گن ہوں سے مقصوم نہیں ہیں"۔ رپی تفہیمات کی زیر بحث عبارت، تو اس کی بحیاد پر بھی مولانا مودودی کی طریقہ اتفاقاب کہ "وہ گناہوں پر حصہ انبیاء کے قابل نہیں ہیں وہاں سے زردیک صبح نہیں ہے، کیونکہ تفہیمات کی اس عبارت میں اس اتفاقاب کے لیے اصلًا کوئی گناہ کش نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ذکر کی گیا ہے وہ یہ ہے کہ "انبیاء علیہم السلام سے ایک یا دو لغزشیں سرزد ہوئی ہیں" اور یہ کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ لغزشوں کی نسبت کرنے سے انسان حصہ انبیاء کا منکر نہیں گردانا جاسکتا۔ اور نہ یہ نسبت عقائد اور اصول اسلامیہ کے خلاف ہو سکتی ہے بلکہ یہ تمام اہل استنت و الحجۃ کے زردیک جائز اور مسلم ہے۔ ہمارے زندگی تفہیمات کی عبارت سے جو کچھ مشہوم اور معنی فہم میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا یہ فرمائے ہیں کہ "گناہوں سے تو انبیاء مقصوم ہیں ہی۔ ربی لغزشیں تو ان سے

بھی وہ عام طور پر مقصود ہیں اور جو کپڑتھا نہ رہے بشریت لغزشیں ان سے  
سرزد ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے زائد نہیں ہیں یعنی یہی وجہ ہے کہ عصمت و خانخت  
انہوں نے کا نتیجہ مولانا مولودی نے گناہوں کی بجائے لغزشوں کا سرزد ہونا ترکی  
فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: «احد یہ ایک الحیث تکہتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر  
ہر بھی سے کسی نہ کسی وقت اپنی خانخت انہا کر ایک یادو لغزشیں سرزد ہونے  
دیا ہیں۔»

اس طرح کی صریح عبارت میں نہ معلوم یہ تجویش کہاں سے عمل کا سکتی ہے کہ  
مولانا مولودی نے اس عبارت میں گناہوں سے عصمت انہا کا انکار کیا ہے۔  
کیونکہ یہاں عبارت کے سیاق و سبق میں بھی گناہوں کا ذکر نہیں پایا جاتا، بلکہ  
لغزشوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے صریح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عصمت  
اس عصمت کی ہجرتی ہے جو لغزشوں سے ہو نہ کہ اس عصمت کی جو گناہوں سے ہو  
پھر زیر بحث عبارت میں خانخت انہا بانے پر صریح لفظوں میں لغزشوں کا سرزد ہونا  
رتکب کیا گیا ہے نہ کہ گناہوں کا۔ اس یہ تجویش کو یہ عبارت اصلاً محلِ تقدیر  
اوہ مود و اقراض نہیں بن سکتی۔ اور نہ اس میں سلک اہل السنۃ راجح است کے  
خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ بلکہ یہاں کی روئے میں تو عصمت انہا کے متعلق  
مولانا مولودی کا یہ تصور بڑی تعریف اور فرمیدجی میں کاستہ ہے کیونکہ گناہوں  
سے تزویہ حصمت مظلوم کے قائل ہو گئے اور لغزشوں پر انہوں نے یہ پابندی علیہ  
کر دی کہ وہ دوسرے سے زائد نہیں ہیں۔ بخلاف عالم اہل السنۃ کے کہ وہ تو گنہ ہوں  
سکے کا صدور آن سے بالاتفاق جائز نہ ہے یہ بشرطیکر گناہ ایسے مخالف اہل

جو خیس افعال نہ ہوں اور صدور سہوا خطا ہر۔ اور جمیور اہل السنۃ تو جما بھی صدرو  
صنوار جائز مانتے ہیں عصمت الانبیاء کے مشکلہ میں عنوانی "عصمت عن الصفا و  
کے تحت علامہ سید آلوسی کی سابق نقل شدہ عبارت میں اس کی تصریح پائی جاتی ہے

فَان الصفا وَالْعِمَّرُ الْغَيْرُ الْمُشْعُرُ بِهِ بالْخَسْتَةِ يَحْجُوزُ صَدُورَهَا مِنْهُ  
عَدًّا بَعْدَ الْيَعْشَةِ عِنْدَ الْجَمِيعِ عَلَى مَا ذُكِرَهُ الْعَلَمَةُ الثَّانِي  
فِي شَرْحِ الْعَقَادِ وَيَحْجُوزُ صَدُورَهَا سَهْوًا بِالْأَفْقَاتِ۔

درود المحانی حس سہوا

د جمیور کے نزدیک بعد از لعشت نہ رہا انبیاء سے ایسے صفائحہ سرد  
ہو سکتے ہیں جو خیس افعال نہ ہوں۔ چنانچہ علامہ الفضازانیؒ نے شرح  
عقائد میں ذکر کیا ہے۔ اور سہوا صدور صنوار تو سب کے نزدیک جائز  
ہے ॥

نیز اہل السنۃ نے لغتشوں پر کوئی حد بندی بھی قائم نہیں کی ہے۔ بلکہ مطلقاً  
آن کا صدور انبیاء سے جائز ہا ہے۔ اور مولانا مودودی نے صرف روشن  
لغتشوں کا صدور تسلیم کیا ہے۔ اور زادہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔  
اس طرح مولانا مودودی کے عقیدہ عصمت میں دوسرے اہل السنۃ کی بہت  
انتباہی احتیاط پائی جاتی ہے۔ لہذا مناسب تریکی تھا کہ مولانا کے اس عقیدہ  
عصمت کی ٹھری تعریف اور تحسین کی جاتی۔ مگر افسوس کہ اس پہترین عقیدہ عصمت  
کی وجہ سے انہیں الشاگرہ اہل السنۃ سے کیا بلکہ اسلام ہی سے نکال دیا گی۔  
اور اُن کا یہ پاکیزہ عقیدہ عقائد و اصول اسلامیہ کے خلاف فرار دے دیا گیا۔

نہ معلوم اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟

### اعتراف

مکن ہے کہ کوئی صاحبِ علم بزرگہ بھاری اس راستے پر کہ مولانا مودودی کی تفہیمات والی عبارت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ مولانا عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اعتراف کرے کہ ہو سکتا ہے کہ تفہیمات کی عبارت میں فقط "عصمت و حفاظت" کو عصمت عن المعاصی پر اور فقط "لغزش" کو لغزش گناہ پر حل کر کے حضرت شیخ مدنیؒ نے اس عبارت سے یہ تجویز اخذ کیا ہو کہ اس میں انبیاء کے بیٹے ایک دو لغزشیں ثابت کر کے ان کی عصمت سے انکار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ اس تقدیر پر تفہیمات کی عبارت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ "اللہ تعالیٰ نے ان سے عصمت و حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزش گناہ سرزد ہونے والی ہیں"۔ اور یہ عقیدہ یقیناً مذکوب اہل السنۃ والجماعۃ کے خلاف ہے۔ اس طرح تفہیمات کی عبارت سے مولانا مفتی مُرحم کا یہ تجویز اخذ کرنا درست ہو جائے گا کہ مولانا مودودی عصمت انبیاء سے اس عبارت میں انکار کر رہے ہیں۔

### جواب

اس اعتراف کے جواب میں اولاً ہم یہ عرض کریں گے کہ تفہیمات کی عبارت میں اس حل اور توجیہ کے بیٹے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عبارت کے سیاق و سیاق میں کہیں بھی گناہ کا ذکر نہیں ہے اور نہ خود عبارت میں کوئی ایسا لفظ پایا جاتا ہے جس سے اس بات کی طرف اشارہ تک پایا جاتا ہو کہ یہاں عصمت سے مراد

حصت ہے گناہوں سے، یا لغتش کے لفظ سے مراد گناہ کی لغتش ہے اس کے علاوہ اگر حصت اور لغتش سے مراد بھی معانی ہوں جو اخراج میں ذکر کیے گئے ہیں تو لفظ لغتش ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ بلکہ صفات طور پر ہوں کہنا چاہیے تھا کہ «اللہ تعالیٰ نے ہر ہبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو گناہ سرزد ہونے دیتے ہیں۔»

ثانیاً، ہم یہ عرض کریں گے کہ بفرض محل اگر لغتش سے گناہ کی لغتش مرادی جائے۔ تو پھر بھی عبارت میں کم از کم اس بات کے لیے گنجائش موجود ہے کہ گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہو۔ اور «سرزد ہونے» سے مراد ہو اور خطا سرزد ہونا ہو۔ اس کے لیے سماق و ساق میں قرآن مجید موجود ہیں۔ وہ قرآن مجید چوک کے اندازہ میں جو ہو خطأ اور نسیان پر دلالت کرتے ہیں اسی صورت میں عبارت کے لئے یہ ہوں گے کہ «اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت اٹھا کر ایک دو صغیرہ گناہ سمجھا اور خطا سرزد ہونے دیتے ہیں۔» اس طرح پھر بھی یہ عقیدہ اپنی استنت کے مذکور کے خلاف نہیں رہتے گا۔ اور نہ یہ عقیدہ، عقائد اور اصول اسلامیہ کے خلاف قرار پائے گا۔ کیونکہ اپنی استنت والجماعت کا اس پراتفاق ہے کہ انبیاء سے سہوا در خطاً صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اور ان سے وہ مخصوص نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ سید آلوہی کی سابقہ عبارت میں اس کی تصریح گزرا چکی ہے۔ پس اس کو عقائد و اصول اسلامیہ کے خلاف قرار دینا ایک الیسی بات ہے جو پہلوے لیے تھیں نامابی فہم ہے۔

ابتدۂ اگر لغتش سے گناہ کی لغتش مرادی جائے۔ اور سرزد ہونے۔

سے حد اُسرز وہ نام راوی یا جائے تو پھر بھارت مور دل اقراض اور عمل تعمیل بن جائے گی اور مولانا مور دل دی پر صفت شیخ کا یہ اذام درست ثابت ہو گا کہ ذ اس بھارت میں عصمت الانبیاء کے انکار کر رہے ہیں۔

لیکن اس کے متعلق ہم یہ گزارش کریں گے کہ تنبیہات کی بھارت کو اس سے پر ہرگز عمل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس سے یہ بھارت ان تمام تصریحات کے خلاف ہو جائے گی جو مولانا مور دل دی کی دوسری تصانیف میں عصمت الانبیاء کے متعلق ملتی ہیں۔ اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک متكلم کے کلام میں اگر ایسے دل نظر پائے جائیں جن میں سے ایک محل اور دوسرا محل ہو تو محل دل نظر کو ایسے سمجھ لیا جائے گا جس کی دوسری جگہ تفصیل کی گئی ہو، تاکہ دونوں میں بلا وجہ مخالفت پیدا نہ ہو۔ اس کے لیے کتاب و سنت میں بہت سے نظائر مل سکتے ہیں۔ مگر ہم یہاں قرآن کریم سے صرف دو مشاہیں پیش کرنے پر اتفاقاً کرتے ہیں اُن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اصول اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔

### مثال اول

قرآن کریم میں ایک تمام پر ارشاد فرمایا گیا ہے:

**حُرْجَةٌ عَلَيْكُمْ أَمْبَثُتُهُ وَاللَّهُمَّ إِنِّي بُرُّ دَارِ جَانِرٍ، وَأَنْخُونَ دَوْلَوْنَ حِرَامَ كَيْسَرَ هَبِيْنَ<sup>۱</sup>**

یہاں پر دم دخون، اگرچہ بہم اور متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مگر دوسری جگہ قرآن ہی میں لفظ دم کو ”مسفوخا“ کی قید سے مقید کر کے لایا گیا ہے اور اس بہم کی تفصیل ہے اُذْ دَعْمًا مَسْفُوْخًا کے ساتھ کی گئی ہے۔ تو تمام علماء کا متفقہ فیصلہ

یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو سبھم اور مطلق دم ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہی دم  
مسفوح ہے جو دوسرا آیت میں "أَفَدَمًا مَسْفُوحًا" کے لفظ سے ذکر کیا گیا  
ہے۔ اور حوصلت کا حکم اسی دم مسفوح کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرا قسم کا دم اس میں  
داخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک متكلم کے کلام میں چب دو نقطہ محبل کو مفصل  
واقع ہوں تو محبل کو ایسے معنے پر حل کیا جائے گا جس کی دوسری وجہ تفضیل کی گئی ہو۔  
تاکہ ایک متكلم کے دو کلاموں میں بلا وجہ مخالفت پیدا نہ ہو۔

### مثال دوم

قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے متعلق ایک مقام میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے  
اپنے رب سے کسی موقع پر یہ درخواست کی کہ "يَجْعَلْ مِرْدَنَسَ كَيْفِيَتِ دَكَانِيَه"  
زبَتْ أَرْبَقَ كَيْفَتَ شَجَنِي الْمَوْقَىءَ اے میرے رب بچھے یہ دکا کہ تو کس طرح مردوں  
کو زندہ کروتیا ہے ؟ ۔ یہ ایک سوال تھا جس کا باعث اور سبب بظاہر معلوم نہ  
تھا۔ ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم نے سوال اس بنا پر کیا ہو کہ انہیں تماحل احیائے  
موتی پر نعمیں حاصل نہ ہوا ہو اور حصول ایقان کے لیے انہوں نے سوال کیا ہوا اس  
کے ساتھ یہ بھی اتحال تھا کہ حضرت ابراہیم کو قدرت عظیم کے دلائل سے احیائے  
موتی پر ایمان و ایقان تو پہلے سے حاصل ہو چکا ہو، مگر معاینہ اور مشاہدہ سے جو  
عنی نعمیں حاصل ہوتا ہے سوال اسی کے لیے کیا گیا ہو۔

ذکر رہ بالہ دونوں اتحالوں میں سے پہلے اتحال کی بنیاد پر حضرت ابراہیم  
علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا کہ: أَوْلَادُنُونَ هُوَ ابراہیم اسی الجھی تکمیل کر  
اس پر نعمیں و ایمان حاصل نہیں ہے ؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے دوسرے

اتھاں کی تصریح کرتے ہوئے عرض کیا کہ: بُلِيْ وَلِكُوْنَ لِيَطْمِئِنَ قَدْرِيْ - ایمان و یقین  
 تو ہے۔ مگر سوال اس لیے کہ رجاء ہیں کہ مشاہدہ عینی سے، اطمینان قلب نصیب  
 ہو جائے۔ پس جبکہ باعث سوال کے متعلق خود حضرت ابراہیم ہی نے یہ  
 وضاحت فرمائی کہ سوال کا باعث ایمان اور یقین کامل کا فقدان نہیں بلکہ مشاہدہ  
 عینی سے عین یقین کی تفصیل ہے تو معلوم ہوا کہ ارنی کیف تھی الموقنی میں  
 سوال کا باعث اور سبب پہلے سے یہی تھا کہ ایمان اور یقین کامل کا فقدان۔  
 اب اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس بات پر اصرار کرے گا کہ  
 ارنی کیف تھی الموقنی میں سوال کا منش اور سبب فقدان ایمان تھا اور سوال  
 اس پر کیا گیا تھا کہ اچھائے مرقی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاحال اصل  
 یقین اور ایمان حاصل نہیں ہوا تھا، تو وہ سخت غلطی کا مرکب قرار دیا جائے گا۔  
 بلکہ ابتدا بھی سے سوال کا اصل باعث اور سبب وہی قرار دیا جائے گا، جس کی  
 تصریح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں فرمائی ہے۔ اس مثال سے بھی یہ  
 اصل واضح ہو گیا کہ لفظ محبل اور میہم کے مختلف معانی میں سے صرف وہی معنے مراد  
 یہے جائیں گے جن کی دوسری جگہ تفصیل بیان کی گئی ہو۔

اس فائزون کے پیش نظر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان بھی لیں کہ تفہیمات  
 کی عبارت میں لفظ "لغزش" کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اس سے گناہ کبر و  
 کی لغزش مرادی جلتے اور "سرزاد ہونے" سے عمدًا سرزد ہونا مراد یا جلتے،  
 تب بھی چونکہ مولانا مودودی نے دوسری تصانیف میں انہیاں کے متعلق واضح لفظ  
 میں اپنا عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ "وہ گن ہوں سے مقصوم ہیں اور عصمت ان کی

خضوص صفت ہے۔۔۔ اس لیے باوجود گنجائش ہونے کے بعد تفہیمات کی عبارت کو ایسے منع پر ہرگز حمل نہیں کر سکتے جس سے یہ عبارت دوسری تمام تصریح کے خلاف ہو جائے۔ اور اپنی دوسری تصانیف اور تحریریں میں مولانا نے جو اپنا واضح عقیدہ عصمت بیان کیا ہے اس پر اس سے کوئی زد پڑے۔۔۔

اب ذیل میں مولانا مودودی کی وہ تصریحات پیش کی جاتی ہیں جن سے عصمت انہیاد کے متعلق مولانا کا عقیدہ اور مذکور معلوم کیا جاسکتا ہے۔۔۔ کسی صاحب نے تفہیمات کی زیر بحث عبارت کے متعلق مولانا مودودی سے یہ دریافت کر کے سوال کیا کہ:

وہ کیا انہیاد تمام معاصی سے مقصوم نہیں ہیں۔ اگر بھی سے نبوت کے ہوتے ہوئے عصمت اٹھ سکتی ہے۔ تو اس کی نبوت، اور تعلیمات نبوت پر اختلاف کامل کیسے کیا جاسکتا ہے؟

اس کے جواب میں مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے اُس سے ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جلتے کہ صاحب تفہیمات نے تفہیمات کی عبارت سے کیا منہ مراد ہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا ہے:

”انہیاد کی عصمت بلاشبہ ایک بنیادی چیز ہے اور ہم آپ سے بڑھ کر ان کے بھیجنے والے خدا نے اس امر کا اہتمام فرمایا ہے کہ ان کا اعتماد قائم ہو۔ لیکن اسی خدا نے اپنی کتاب پاک میں مقعدہ انہیاد کی ایسی نزشوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن پر گرفت یا تنبیہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ وہی خدا اپنی کتاب میں ہم کوہ اطمینان بھی دلاتا ہے کہ انہیاد کو

کبھی کسی پھر بھائی نفرش پر قائم نہیں رہنے دیا گی ہے بلکہ بروقت اس کی اصلاح کر دی گئی ہے یہی بات ہے جو علامتے اصول نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہے کہ نبی نے نفرش اور راستے کی علطاً صادر ہو سکتی ہے البتہ اس کا نفرش اور علطاً پر قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نکر انہر تعالیٰ نے اس کی اصلاح کا ذریعہ سلاخ طہر ہو اصول الشریعی ج ۱، ص ۳۶۰ و ج ۲، ص ۵۵-۹۱-۸۷۔ یہ حقیقت اگر آپ کے پیشی نظر ہے تو آپ بحمدِ ملکیں نگے کہ ان کی نفرشوں کے ذکر کرنے سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے احتمالوں ذریعہ برابر بھی خل واقع نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اس سے خدا اور نبی کے ذریعی طرح محل جاتا ہے اور اس خطرے کا امکان باقی نہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی تھیتوں کی طرف کوئی شخص الہیت کی صفات فسوب کرنے لگے ہے۔ ترجمان القرآن ج ۴، ص ۲۳۔ رمضان ۱۴۱۵، ۱۳

لیکن دوسرے سوال کے جواب میں مولانا موصوف نے تحریر فرمایا ہے:

”جماعت اسلامی تمام نہ رکان دین کے احترام اور ان کی علطاً کے اعراف کو ضروری سمجھتی ہے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو مخصوص نہیں سمجھتی ہے۔“ (د جواہر کیا جماعت اسلامی حق پر ہے؟ ص ۲۷)

محمد رجہ بالاد و تصریحات سے ”خصمت الانبیاء“ کے بارے میں صحیح لانا موروثی کا مسئلہ اور عقیدہ کا شکس فی نصیحت النہار و اسنخ ہو گیا وہ یہ کہ:

”انبیاء علیہم السلام مخصوص ہیں۔ ان کی خصمت کا عقیدہ اسلام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اس خصمت کا اہتمام

فرمایا ہے تاکہ ان کا اعتماد قائم ہو۔ نیز یہ حکمت ان کی مخصوص صفت ہے۔ کوئی بھی فرد یا شرکت کے ساتھ اس صفت میں شرک نہیں ہے اُن سے جو لفڑیں سرزد ہوئی ہیں، وہ ان کی حکمت پر اصلًا اثر انداز نہیں ہو سکتیں یہ۔

حکمت الائجیاد کے متعلق مولانا مودودی کا یہ مسلک اور عقیدہ، وہ مسلک اور عقیدہ ہے جو ابتداء سے تمام اہل السنۃ والجماعۃ کے مابین ایک متفق علیہ عقیدے کی حریت سے چلا آ رہا ہے۔ اور کتب فن میں بھی آج اسی عقیدے کی تصریحات پائی جاتی ہیں۔— مگر افسوس کہ حضرت شیخ مولانا سید حسین احمد صاحب علی نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی دعویٰ کو یہ جنبش قلمب ایک ایسے عقیدے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا فتنی صارور فرمایا جو پرے اہل السنۃ والجماعۃ کا متفق عقیدہ اور مسلم مسلک رکھے۔ غفران اللہ و تجاوز عن زلاتہ و تغمذہ کا پر حستہ و جعل الحجۃ متوافق۔ ۱ میں

### شق علی کا جائزہ

حضرت شیخ مولی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیمات سے چار سے اختلاف کی دوسری وجوہ یہ ہے کہ انہوں نے تفہیمات کی عبارت سے اخذ کر دہ تیجہ کے شق علی میں فرمایا ہے کہ:

”اس سے نبی پر اعتماد قائم اس لیے نہیں رہ سکتا کہ اس کے ہر حکم میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اس وقت کا ہو جس میں بھی سے حکمت و

خانہتِ اٹھائی گئی ہو۔

اس شق کے متعلق ہم بارب یہ گزارش کریں گے کہ تفہیمات کی عبارت میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انہیاد سے ایک دو نظر شیں سرزنشیں ہیں یہ پھر اسی عبارت کے متعلق جب مولانا سے سوال کیا گیا تو مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا کہ :

”انہیا رسول اللہؐ کو حضور مسیح علیہ السلام کو چھوٹی نظر شرپ بھی قائم نہیں رہنے دیا گیا ہے بلکہ بروقت اس کی اصلاح کی گئی ہے“

عبارت کے اس حاصل کے پیش نظر ہم حیران ہیں کہ انہیاد سے جب تمام عمر میں سرزنشیں ایک دو سے زائد نہیں ہیں اور وہ دو نظر شیں علم بھی ہیں اور ان کی اصلاح بھی بروقت کی گئی ہے۔ تو اس سے انہیاد کے باقی ماندہ تمام احکام اور فحیلوں میں یہ احتمال پیدا کہاں سے ہو گیا کہ وہ اس وقت کے ہوں جس میں نبیؐ سے حصہ و خانہتِ اٹھائی گئی ہو وہ ایک دو نظر شیں تو معلوم ہیں۔ آن کے موافق اور مواضع بھی متعدد ہیں۔ اور ان پر انہیاد و امتت، سب کو مطلع بھی کیا گیا ہے اور بروقت ان کی اصلاح بھی کی گئی ہے، تو نہ معلوم ان معلوم نظر شیوں اور متعین و معلوم مواضع کے علاوہ دوسرے تمام احکام نبیؐ میں یہ احتمال کہاں سے اور کس طرح پیدا ہوا کہ ان میں بھی انہیاد سے نظر شیں سرزنشیں ہوں یا ان سے حصہ و خانہتِ اٹھائی گئی ہو، تاکہ نبیؐ سے اعتماد اٹھ جائے اور اس کے تمام احکام اور فحیلے قابل اعتماد نہ رہیں۔ یہ احتمال اس وقت پیدا ہو سکتا تھا جبکہ تفہیمات کی عبارت میں انہیاد سے

عام لغزشوں کے سرزد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہوتا۔ اور مراضع بھی ان لغزشوں کے متفقین اور معلوم نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ اُن لغزشوں پر انبیاء و قائم بھی رہنے دیئے جاتے۔ اس اور بروقت ان کی اصلاح نہ کی گئی ہوتی تب یہ احتمال بے شک پیدا ہو سکتا تھا کہ انبیاء سے ہر حکم میں لغزش سرزد ہوتی ہو۔ اور ہر فضیلے کے وقت اُن سے خناخت و عصمت الٹھائی گئی ہو۔ مگر تفہیمات کی عبارت میں نہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا گیا ہے اور نہ اس سے یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ لہذا تفہیمات کی عبارت سے یہ تجویز اخذ کرنا ہرگز درست نہیں ہے کہ صاحب تفہیمات کا عقیدہ انبیاء و قائم السلام کے حق میں یہ ہے کہ ”وہ اُن کو گناہوں سے محفوظ نہیں مانتے ہیں“ یہ نیز رکھنا کہ اس عبارت کے پیش نظر کوئی معیارِ حق نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اس کے ہر فضیلہ اور حکم میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اس زمانے کا ہر جس میں نبی سے عصمت و خناخت الٹھائی گئی ہو۔ — صحیح استنباط اور مصیبہ اجتہاد نہیں ہے۔ بلکہ فلم کی ایک لغزش اور لازمہ بشیرت کا صد و رہ ہے جس سے کوئی بھی عالم بلکہ مجتہد بھی مقصوم اور محفوظ نہیں ہے، کو وہ بڑی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک تفہیمات کی عبارت میں عصمت انبیاء کے بارے میں مولانا مودودی کا پیش کردہ عقیدہ ہے یعنی وہ عقیدہ ہے۔ — جو تمام اہل السنّت و الجماعت کا عقیدہ رہا ہے۔ اور دونوں کے مابین سرموفر قہ نہیں ہے۔ — جو حضرات مولانا مودودی کو اس عبارت کے پیش نظر عصمت انبیاء کا منکر قرار دیتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے اس الزام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی صحیح اور مصنبوطاً و لیل نہیں ہے۔ اور جو کچھ اس بارے میں ملنے آیا ہے۔ اس میں جنگ اہل حدائق ہے۔

## شق تھے کا جائزہ

اس شق کا جائزہ لینے کے لیے کسی فریضیں کی ضرورت نہیں ہے۔ حرف اتنا کہہ دیا کافی ہے کہ اس شق کی بنیاد پر جنکہ اس الزام پر کبھی بھی کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی دونوں عصت اسلامی کے منکر ہیں جو پایہ ثبوت تک نہ پہنچ سکا۔ بلکہ تباہت ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی عصت الائیاد کے قائل ہیں اوسان کا مذکور یعنیہ وہی سلسلہ ہے جو اہل السنّت و الجماعت کا مذکور ہے:

اس لیے اس الزام پر مبنی دعویٰ ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے رہنماء کے اختلافات اصول میں نہ کہ فرقی اور مولانا مودودی اور جماعت اسلامی دونوں مسلمان ہیں میں، خود بخود غیر صحیح ثابت ہو گا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ اختلافات جو کچھ بھی میں فرقی ہیں ذکر اصول۔ اور مولانا مودودی نہ حرف یہ کہ ایک صحیح اعتقاد عالم اور مسلمان ہیں۔ بلکہ اسلام کے پیغمبر خاتم النبیوں علیہم السلام کے طریقہ کارکے معاقیتی دعوت حق کے ایک داعی بلکہ علمبردار بھی ہیں گو لوگ نہیں گروہی تصورات، پاؤ دہرے وجہ کی بنا پر گراہ اور راہ حق سے منحرف کیوں نہ بھیں اور قسم قسم کے فتوے ان پر کہوں نہ لگائیں۔

## باب دوم

# حضرت یوس علیہ السلام کا واقعہ

اصل مسائل میں سے جن مسائل میں مولانا مسعودی کی ذات گرامی کو مطہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ حضرت یونس کے واقعہ متعلق ہے تفسیر القرآن کی عبارت  
تفسیر القرآن ج ۲ ص ۳۱۲ - حاشیہ ۹۹ میں حضرت یونس علیہ کے واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا مسعودی نے لکھا ہے کہ:

”قرآن میں اس قدر کی طرف تین جگہ صرف اشارات کیے گئے ہیں کہنے  
تفصیل نہیں دی گئی ہے اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم کی  
خاص وجہ کی بنار پر خدا کے اس قانون سے مستثنی کی گئی کہ عذاب کا فیصلہ  
ہو جانے کے بعد کسی کا ایمان اس کے لیے نافع نہیں ہو سکتا تاہم قرآن کے  
اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر خدا کرنے سے آئی بات صاف  
معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فرمایہ رحمات کی ادا گئی ہیں کچھ کہتا ہیا  
ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قابل از وقت اپنا مستقر بھی  
چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آشور یونس نے آثار عذاب دیکھ کر تو یہ سیاست خار

کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مسافت کر دیا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ دستی کے جواصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مستقبل و فعده یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا۔ جب تک اس پر اپنی محبت پروری نہیں کر لینا پس جب نبی سے اواسط رسالت میں کو تاہی ہو گئی اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے بہٹ کے نتو انہیں کے انسان نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ اس پر تمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔ (انہی دلوں،

اس پر حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفونؒ کے ایک خلیفہ مجاز نے بھی

ذیل اقتراض کیا ہے:

### اعتراف

دیہاں مودودی صاحب نے حضرت یونسؐ کی طرف تین باتیں غسوب کی ہیں۔ (۱) ان سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کہتا ہیاں ہو گئیں۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود بے صبر ہو کر اپنے مقام سے بہٹ گئے۔ (۳) آپ قوم پر تمام حجت نہ کر سکے۔ حالانکہ یہ تینوں اتنا غلط ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا تھا جس کا حضرت یونسؐ کو علم ہوتا۔ پغیریے صبر ہو کر امتحان ٹاو سے نہیں ہٹتے بلکہ وہ صبر کا مل نہ رہتے ہیں۔ اگر وہ نبوت در رسالت کا فرضیہ ہی صحیح طور پر نہ ادا کر سکیں تو وہ مقصوم نہیں قرار دیتے جا سکتے۔ نیز اس سے انجیاں کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انجیار تمام حجت کے لیے نیچے جاتے

ہیں۔ خود قرآن مجید کا اعلان ہے: رَسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِّرِينَ لِتَلَوِّ  
سِيْكُوتَ بِنَاتِنَسْ وَجَهَهَ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ دینی پیغمبروں کو بشارت دینے اور  
عذاب سے ڈرانتے کے بیچ جیتا نہ ہے تاکہ ان کی بخشش کے بعد لوگوں کے  
لیے اللہ پر حجت کرنے کا موقع نہ رہے، لہذا مودودی صاحب کا یہ کہنا غلط  
ہے کہ تمام حجت کی قابلی شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے قوم خذاب  
سے بچ گئی۔ اہم دعویٰ جماعت کے عائد و تصریحات پر ایک تفہیدی نظر،  
اگر کہ چل کر اس کتاب کے ملکہ میں تحریر فرمایا گیا ہے:

”نفس کو تاہی اور لغزش تو نبی سے ہو سکتی ہے لیکن فرضیہ رسالت کی ادائیگی  
میں نبی سے کرتاہی کا ہونا محال ہے۔ اہل حق میں سے کسی مستند عالم نے نہیں  
بلکہ کیونکہ اس سے توان کی رسالت ہی تعریز بالله مشتبہ ہو جاتی ہے۔“

### اعتراض کا خلاصہ

ذکورہ اعتراض پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ درج ذیل  
چار احمد ہیں:

(۱) ”حضرت یونس علیہ السلام سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کرتاہی  
سرزد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبی سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا  
ہونا محال ہے۔ اور کسی بھی مستند عالم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بھی ہے۔“  
(۲) ”نبی سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کرتاہی کا ہونا جو اور  
گناہ بھی ہے جس سے وہ بالاتفاق مخصوص اور محفوظ ہیں۔ انہیاں کے بارے میں  
جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے اس قسم کی کوتاہی ہو سکتی ہے وہ حضرت الائیا

کے منکریں ہیں اور گروہ اپلی استفت سے خارج۔

(ج) "حضرت یونس علیہ السلام خدا کے متبرک رحمہ وقت سے قبل یعنی  
جو کہ اپنے مستقر سے نہیں ہٹے تھے کیونکہ پیغمبر یہ صبر ہو کر امتحان کا وہ سے  
نہیں ہٹتے۔ بلکہ وہ صبر کا مل کا نمونہ ہوتے ہیں"

(د) "مولانا مودودی کا یہ کہنا غلط ہے کہ قوم یونس پر تمام حجت کی  
خالی شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں۔ کیونکہ اس طرح بعثت کا حصر ہی  
فوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعثت کا مقصد قرآنی اعلان کے مطابق پس پڑا تم  
حجت کے دوسری کوئی تحریر نہیں ہے یہ **وَسَلَّمَ شَرِيفُونَ وَمُتَحَدِّذِينَ**  
**وَشَّلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حِجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ**"

یہ چار امور میں جو اعراض ذکر کی گئی ہیں ان قسم کے تمام اعراض کی  
کی اصل بنیاد چونکہ مولانا مودودی پر عملتے کرام کی طرف ہے یہ انہم ہے کہ نیا  
کے بارے میں مولانا مودودی کا تصور ناقص اور تمام ثبوت اور منصب رسالت  
کے بارے میں ان کا نظریہ غلط ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اعراض کا جواب  
دینے سے پہلے مقام ثبوت اور منصب رسالت کے بارے میں مولانا مودودی  
کا تصور اور نظریہ پیش کروں۔ کیونکہ بہت سے ازامات اس غلط فہمی کی نیا  
پر لگاتے گئے ہیں۔

مقام ثبوت اور منصب رسالت کے بارے میں مولانا مودودی کا پہلے تصور  
جو لوگ مولانا مودودی پر ہے ازاں لگاتے ہیں کہ مقام ثبوت اور منصب  
رسالت کے بارے میں ان کا تصور ناقص یا غلط قسم کا تصور ہے، اُن کے

متصل ہم صاف لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ یا تو ان بے چاروں نے مولانا مردودی کی  
وہ تھانیت اور کتا بیس بیس پڑھی ہیں جو اس قسم کے مضمایں پر مشتمل ہیں ۔ یا  
اگر پڑھی ہیں اور پھر بھی وہ اس طرح کے اتهامات اور اذامات لکھنے کی وجہ  
کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں خوف خداوندی کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ہے ۔ اور آخرت  
کی وجہ وہی کے احساس سے بھی ان کے دل خالی ہو چکے ہیں وہ وہ اس طرح کی  
وجہ کبھی نہ کرتے کیونکہ مقام نبوت اور منصب رسالت سے متعلق جو مضمایں ہوؤں  
کی مختلف تھانیت اور معتقد رکتا ہوں میں کوئی کوئی صفات پر بھی پہنچنے ملتے ہیں ۔  
ان کا اگر بغیر مطالعہ کیا جائے تو خدا ترس اور آخرت کی جوابیت کا احساس بختنے  
والے آدمی پر یہ حقیقت منکثت اور عیاں ہو جاتی ہے کہ مقام نبوت اور منصب  
رسالت کے متعلق مولانا مردودی کا تصور بہت بلند اور افضل ترین تصور ہے جس  
سے اوپر اکٹھا کر کی تصور منصب رسالت کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتا ۔ ذیل میں تفہیمات  
حصہ اول کے ایک مضمون سے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں ۔ ان پر فرمادک  
آپ ہجود فیصلہ فرمائیں کہ مقام نبوت اور منصب رسالت کے پارے میں مولانہ کے  
اس تصور سے زیادہ کوئی بلند اور اعلیٰ تصور ہو سکتا ہے ؟

تفہیمات حصہ اول میں عنوان "رسالت اور اس کے احکام" کے تحت غلام حمد  
پر دیز کے ایک طویل مراہی کے جواب میں مولانہ نے رسول کی حیثیت رسالت  
پر بحث کرتے ہوئے علماء کے مختلف تصورات اور تظریات پیش کیے ہیں اس  
کے بعد منصب رسالت کے متعلق اپنا تصور اس طرح پیش کیا ہے ۔  
درست کی حیثیت شخصی اور حیثیت رسالت اگرچہ اقتدار میں وہ

جگہ اگانے چیختیں ہیں مگر وجہ میں دو نوں ایک ہی ہیں۔ اور ان کے دلیل  
عمل اکثری فرقی ملکی ہیں ہے ”منصبِ رسالت“ دینی وی عہدوں کی طرح  
نہیں کہ عہدہ دار جب تک اپنے عہدہ کی کرسی پر بیٹھا ہے عہدہ دار ہے اور  
جب اس سے اترتا ہے تو ایک عام انسان ہے۔ بلکہ رسول جس وقت  
منصبِ رسالت پر سرفراز ہوتا ہے، اس وقت سے مرتنے دست تک وہ  
ہر وقت اور ہر آن میں رسول ہوتا ہے اور ما مُرد من اللہ۔ اور وہ کرنے  
فعل ایسا نہیں کر سکتا جو اس سلطنت کی پاکیتی کے خلاف ہو، جس کا وہ  
نمایندہ بننا کو بھیجا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے معاملات عام اس سے کہ وہ امام  
گی چیختت سے ہوں یا امیر کی چیختت سے، خاصی کی چیختت سے ہوں  
یا معلم اخلاق کی چیختت سے، ایک شہری کی چیختت سے ہوں یا ایک  
شہری، باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوست کی چیختت سے ہوں، سب  
پر اس کی چیختت رسالت اس طرح حادی ہوتی ہے کہ کسی حال میں ایک  
لڑکے یا بھی اس سے منفك نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنی خلوت  
میں جبوی کے پاس ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اسی طرح اللہ کا رسول  
ہوتا ہے جس طرح وہ مسجد میں نماز پڑھاتے وقت ہوتا ہے۔

زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی ہدایت سے  
کرتا ہے۔ اس پر ہر آن اللہ کی طرف سے سخت نگرانی قائم رہتی ہے،  
جس کے ماتحت وہ اپنی حدود کے اندر پتے پر مجبوڑ ہوتا ہے جو اللہ نے  
مقرر کر دی ہیں۔ اگر اس کے پاؤں کو ذرا سی لغوش ہوتی ہے تو اس کو

غور اُستبیہ کی جاتی ہے کیونکہ اس کی خدا عروض اس کی خلا نہیں بلکہ ایک بھروسی  
امتنان کی خطا ہے لہذا اس کا خلا اور غلطی سے محفوظ ہوتا لازم ہے تاکہ کھل جائے  
کے ساتھ اس کی پیری وی کی جاسکے اور اس کے قول فعل کو بالکل یہ سمجھیں  
کی تعلیم اور اسلامیت کا معیار قرار دیا جاسکے۔

نبوت کی حقیقت، مولانا کی نظر میں  
آگے چل کر حقیقت نبوت کے متعلق قرآن کریم کے بیانات کی روشنی میں ہوئی  
نے اپنا تصور یہ پیش کیا ہے:

”انہیا ملیهم السلام کے جو حادثت قرآن مجید میں بیان ہوئے  
ہیں، ان کو درکیجئے سے مجھ کو نبوت کی حقیقت یہ نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ  
تعالیٰ یکجا یک کسی را وہ پیٹتے کو پکڑ کر اپنی کتاب پہنچانے کے لیے ماہور کر  
دیتا ہے یا کسی شخص کو اس طور پر اپنی پیغامبری کے لیے مقرر کرتا ہے  
کہ وہ منجلہ اپنے زدہ سے کاروبار کے ایک پیغامبری کا کام بھی  
سر انجام دیا کرے۔ اس کے پر عکس میں وکھتنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے  
جب کسی قوم میں نبی بھیجننا چاہا ہے تو خاص طور پر ایک شخص کو اسی لیے پیدا  
کیا ہے کہ وہ نبوت ہی خدمت انجام دے۔ اس کے اندر انسانیت کی  
وہ بلند تری صفات اور وہ اعلیٰ درجہ کی فرشتی درود حال قوتیں و دلیلت  
کی ہیں جو اس اہم ترین منصب کو منسخہ کرنے کے لیے مزدوجی ہیں پیدائش  
ہنکے وقت سے خاص اپنی نگرانی میں اس کی تربیت اور نگرانی کی ہے۔  
نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی اس کو اخلاقی عیوب اور گراہیوں اور

خدا کل دیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کی پرورش ایسے حالات میں کی ہے جن میں اس کی استعداد نبوت ترقی کر کے فضیلت کی طرف بڑھتی رہی ہے۔ پھر جب وہ اپنے کال کر پہنچ گیا ہے۔ تو اس کو اپنے پاس سے علم اور قدرت فیصلہ اور فور پڑائیت عطا کر کے منصبِ نبوت پر ماضی کیا ہے۔ اس پر خدا کی طرف سے شدید نگرانی قائم رہی ہے کہ خداوند کرنے پر ہواستے نفس کے اتباع اور شیطانی وساوس سے اس کی سخت حفاظت کی جائی ہے۔ معاملات کو اس کی بشری حکم اور اس کے افسانی احتیار پڑھیں چھوڑا گیا ہے۔ بلکہ جہاں خدا کے مقرب یہی ہونے والے صفاتیم سے اس نے بال برا بر بھی جذب کی ہے، وہی اس کو نیک کر سیدھا کیا گیا ہے۔ سینکڑے اس کی پیدائش کا مقصد یہ یہ رہا ہے کہ خدا کے بندوں کو سوادِ اسیل اور صراطِ مستقیم پر پہنچانے۔ اگر وہ اس خدا سے سہرُ بھی ہٹتا قوامِ انسانی اس سے مُعدِ تکل جاتے یہ چکر کہہ رہا ہے اس کے لفظ نظر پر قرآن گواہ ہے۔

أَبْيَادٌ عَلَيْهِمُ الْتَّلَامُ كَغَيرِ مَحْمُولِ صَلَاتِيْتِيْسِ اَورِ پَاكِيْزِهِ قَطْرِتِيْ  
پَرِ اَبْيَادٌ عَلَيْهِمُ الْتَّلَامُ كَغَيرِ مَحْمُولِ قَابِيْتِيْرِنِ، اَورِ اَتْهَايِيْ پَاكِيْزِهِ فَطْرَتِيْرِنِ کَا ذَكْر  
کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا ہے:

اس طرح جن لوگوں کو سیدا کیا جاتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ غیر محسوبی قابلیتوں کے ساتھ وجود میں آتے ہیں۔ ان کی فطرت انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے

جو بات نکلتی ہے سیدھی سلسلتی ہے، غلط اندازی، اور کچھ بھی کی استعداد وہی  
ان میں نہیں ہوتی۔ وہ جیلی طور پر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بلا ارادہ اور  
بلا کسی خود و فکر کے محض حدس اور وجدان سے ان صحیح تاریخ پر پہنچ جائے  
ہیں جن پر دوسرے انسان غور و فکر کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتے۔

اُن کے علوم کسی نہیں، بلکہ جیلی و وہی ہوتے ہیں۔ حق اور باطل،  
صحیح اور غلط کا انتیاز ان کی عین سرشستی میں ودیعت کیا جاتا ہے۔  
وہ غلط راستا صحیح سونپتے، صحیح بولتے اور صحیح عمل کرتے ہیں۔

اس کی تحریک کے لیے آگے مولانا نے قرآن ہی سے مختلف مشاہد پیش  
کر کے پیشہ کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی صفات، کالات اور علوم میں عام  
انسانوں کی طرح ہرگز نہیں۔ بلکہ ان نے بد رجہا بہتر اور بہت اوپر مقام رکھتے ہیں۔  
انبیاء علیہم السلام پر خدا کی خصوصی نظر

پر انبیاء علیہم السلام پر خدا کی خصوصی نظر اور ان کی نگرانی کے متعلق تحریر فرمائے  
ہیں:

ماں کے بعد قرآن مجید ہم کرتا تا ہے کہ خدا نے انبیاء کو نہ صرف حکمت  
اور قویت فیصلہ اور غیر معمولی دانش و سبیش عطا کی ہے بلکہ اس کے ساتھ  
ہی وہ ہمیشہ ان پر نظر خاص بھی رکھتا ہے۔ غلطیوں سے ان کی خناکت بھی  
کرتا ہے۔ کہ اپیوں سے ان کو بچانا ہے، خواہ وہ انسانی اثرات کے تحت  
ہوں۔ یا شیطانی وساوس کے تحت ہوں یا خواری کے اپنے نفس سے پیدا  
ہوں۔ حقیقت کہ اگر بعض نے بشریت وہ اپنے اجتہاد میں بھی ضللی کرتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فوداً ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔

نبوت نبی کی انسانیت کا جو ہر ہے نہ کہ اس کی ذات پر عارض

پھر اس بات پر کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض ہوتی ہے اور اس کی بشریت و نبوت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، یا اس کی چیزیت ذاتی ہی چیزیت نبی ہے اور نبوت اس کی انسانیت کاملہ کا جو ہر ہے جو اپنالئے آفرینش سے متعدد نبوت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے، بحث کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا ہے۔

”نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کی ذات بشریہ پر نبوت عارض ہوتی ہے اور اس کے عروض کے بعد نبی کی بشریت اور اس کی نبوت دونوں

علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اس کی تملک کو و مخدوش شعبوں میں تقسیم کر کے مرد اس شعبہ کو اطاعت و اتباع کے لیے منتخب کر سکیں

جو نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید سے نبوت کی حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اگرچہ بشر ہے لاد ان تمام حدود سے محروم ہے جو حق تعالیٰ نے فطرت بشریہ کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن ان حدود کے اندر اس کی بشریت آخری اور انتہائی کامل و اکمل بشریت ہے۔ جس میں وہ تمام قوتیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہیں

جو زیادہ ایک انسان کو حاصل ہونی ممکن ہیں۔ اس کے اور کتابتی نظریت ہوتے ہیں کہ وہ بلا کسی خود و فکر کے محض اپنے وجود ان سے

اس الہام الہی کر رہا تا ہے جس کی طرف قالہ مہما فجورها و نقوتها میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی نظرت اتنی صبح ہوتی ہے کہ وہ کسی خارجی تسلیم

تریتیکے بغیر صرف اپنے میل طبیعی ہے جو کی راہ چھوڑ کر تعمیٰ کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا قلب اتنا سلیم ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملہ میں ہدایتِ الہی کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیتا ہے۔ یہی کامل و اکمل بشرت ہے جس کے ساتھ وہ صحیح معنون میں خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے علم کی مزید روشنی پا کر مراجی نیز بتتی ہے مصالح عامہ بشریت کے لیے تعلیمات اور احکام کا ہمیط قرار پاپی ہے اور اصطلاح میں رسالت و نبوت سے موسم ہوتی ہے۔

پہنچا یہ سمجھنا صحیح نہیں کہ نبوت ایک عرض ہے جو ایک خاص وقت میں نبی کی جوہر انسانیت پر عارض ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی انسانیت کامل کا جوہر ہے جو نبوت کی استعداد کے ساتھ پیدا کی جاتا ہے۔ اور فعلیت کی طرف ترقی کرتے آخراً نبوت بناؤ یا جاتا ہے۔ دراصل نبوت ایک پیدائشی چیز ہے۔ اور نبی کی حیثیت ذاتی ہی اس کی حیثیت نبوی ہے۔ فرق اگر ہے تو مرف اتنا ہے کہ قبل از بخشت اس کی حیثیت نبوی بالقول ہوتی ہے۔ اور بعد از بخشت بالفعل ہو جاتی ہے۔

انبیاء کی اجتہادی نظریں اور ان کی توجیہ سب سے اخیر میں انبیاء کی اجتہادی نظریں پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی نظریں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی تنبیہوں کا جذکر آیا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہرگز نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء علیہم السلام کا اتحاد اٹھ جائے بلکہ اس ذکر سے

مخصوصو یہ بتانے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کو ہوائے نفس کا اتباع کرنے میا  
اپنی راستے اور شیری اجتہاد پر چلنے کیلئے آزاد ہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے ان پر  
یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ اُس کی ہدایت پر کار بند رہیں۔ اور اپنی زندگی  
کے لئے چھوٹے چھوٹے کام میں بھی اس کی رضا کے خلاف عمل نہ کریں۔

پھر آگے پیل کر سمجھتے ہیں:

”منصب رسالت و نبوت پر ماحصل ہونے کی وجہ سے بنی کیلئے لازم  
ہے کہ اس کا اجتہاد بھی تھیک تھیک وحی الہی کے معاطاتی ہو۔ اگر وہ اپنے  
اجتہاد میں وحی ختنی کے اشارات کو نہ سمجھ کر مرضی الہی کے خلاف مال برابر بھی  
جنیش کرے تو وحی جلی سے اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔“

قرآن کریم کی جن آیتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اجتہادی الفاظوں  
کا ذکر آیا ہے اور جن سے بعض مگر اہل فرقہ نے یہ تجویہ اخذ کیا ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے بہرا نہیں تھے۔ ان کی تشریع کرتے ہوئے مولانا مسعودی  
نے فرمایا ہے:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کبھی بافضلتے بثیرت اجتہادی الفاظ  
بھوتی ہے، وحی جلی سے اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ  
جَاءَهُ الْأَخْمَنِي رَجُسْ، مَا كَانَ لِيَتَبَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَارِ  
عَقَادَةِ اللَّهِ عَنْكَ لَمَّا دَعَتْ لَهُمْ رَوْبَرْ، وَلَا تَصِلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ  
ئَاثَاتِ أَبَدًا رَتُوبَرْ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ حَرِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ  
رَتْحِيمْ، يَرْسِبَ أَتَيْنَ اسِ امْرِكِ شَهَادَتِ دِيَتِ ہِیں۔ لوگ ان آیات کو اس امر

کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی مصلی اللہ علیہ وسلم سے غلطیاں سزا درہ تو تھیں اور آپ غلطیوں سے مبرانہ تھے خصوصاً اہل قرآن کو قرآن آیات کے فرعیہ سے رسول کی غلطیاں پکڑنے میں خاص مزہ آتا ہے۔ لیکن دراصل یہ آیتیں یہ امر کا ثبوت ہیں کہ اپنے نبی کو غلطیوں سے بچانے اور ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ نے رکھی ہے۔ ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ حق تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ وہ برآمد راست اپنے نبی کی نگرانی کرتا ہے۔ (تفہیمات حج ۱۔ رسالت اور اس کے احکام)

### مندرجہ بالا آفتیات کا خلاصہ

مقام نبوت اور منصب رسالت کے متعلق بعض آفتیات میں ہونا معمولی نہ اپنا جو تصور پیش کیا ہے اور اس کے مختلف گروہوں کے متعلق جو اپنا نظر بیان کیا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(وَهُنَّیْ اگرچہ اپنی ذات کے لحاظ سے بشر ہوتا ہے مگر اس کی بشریت اپنی اعلیٰ ترین صفات، افضل ترین کیاں اور بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے دوسری انسانی بشریت کی مانند نہیں بلکہ اس سے بذریعہ افضل اور اکمل ہے۔

(رب) "نبوت و رسالت نبی کی بشریت میں رائل ہے۔ ابتدائی آفرینش سے مرتبے دم تک نبوت و رسالت اس کی بشریت سے منفك نہیں اور نہ اس کی جدالگانہ حیثیت ہے۔ بلکہ اس کی انسانیت و بشریت کا ایک تکمیل جو ہر ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ خالق رہتا ہے۔ اور استعداد نبوت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر فعلیت کی طرف ترقی کرتے کرنے کے آخر کار بالفعل نبوت و رسالت بنا

دیا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ نبی کی حیثیتِ ذاتی بھی حیثیتِ نبی ہے اور دونوں میں فرق صرف اعتباری ہے۔

درج ۲ نبی کے اندر انسانیت کی وہ بلند ترین صفات اور اعلیٰ درجہ کی وہ ذہنی اور روحانی قوتیں وہ دعیتِ رحمی جاتی ہیں، جو اس کے اہم ترین منصبِ راست سنپھانے کے لیے ضروری ہو گئی ہیں۔

درج ۳ نبی اپنی پیدائش کے وقت سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی میں زکر تربیت پاتا ہے حتیٰ کہ نبوت کے مندرجے سفر فرازِ بُونے سے پہلے بھی وہ اخلاقی عیوب، مگر اچھیں اور غلط کاریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

(س) ۴ اسی طرح منصبِ رسالت پر مأمور ہونے کے بعد بھی اس پر خدا کی طرف سے سخت نگرانی قائم رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہواستے نفس کے اتباع اور شیطانی وساوس سے پُری طرح محفوظ رہتا ہے اور جلوہِ حق سے اس کا قدم بال برابر بھی ہٹنے نہیں پاتا۔ اور جہاں کہیں خدا کے مقرر کردہ صراطِ مستقیم سے فروہ برابر خبیث کرتا ہے۔ وہیں اس کوڑک کر سیدھا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی خطا صرف اس کی خطا نہیں بلکہ پوری امت کی خطابی جاتی ہے۔

درج ۵ انہیاں علیہم السلام کی نظر تین انتہائی پاکیزہ اور صحیح ہوتی ہیں۔ حق کر کج بینی اور غلط انگلیشی کی ان میں استفادہ اسی نہیں ہوتی۔ وہ جیلی طور پر ایسے بناتے جاتے ہیں کہ یہاں کسی فور و فکر کے لمحنِ حدس اور وجدان سے ان صحیح تاریخ پر پہنچ جاتے ہیں جن پر دوسرے انسان غور و فکر کے بعد بھی

نہیں پہنچ سکتے ہیں

(خط) "ان کے علم کسی نہیں جکہ وہ کسی اور حیلی ہوتے ہیں۔ حق اور باطل میجھ اور غلط کا انتیاز ان کی صیغہ سرست میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ وہ فطرۃ صحیح سوچتے، صحیح پڑلتے اور صحیح عمل کرتے ہیں۔"

(خط) "ان سے جب کبھی تھقا صلتے بشرت اخیاری لغتشیں سرزد ہوئی ہیں، خدا کی طرف سے فوراً انہیں تنبیہ کی گئی ہے اور وحی جمل سے اس کی اصلاح کی گئی ہے، تاکہ وہ دامنا ہدایت الہی پر کاربند رہیں اور زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی رضاۓ الہی کے خلاف جمل نہ کریں۔ کیونکہ منصبِ رسالت پر مامور ہونے کا لازمی تھا ضایبی ہے کہ کرنی کا اختیار بھی ٹھیک ٹھیک وحی الہی کے مطابق ہو۔"

(خط) "قرآن کریم میں انبیاء کی بعض نظرشوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ان کا اعتماد کاٹھ جاتے۔ بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تبلیغ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر لئے نفس کے اتباع یا اپنی رائے اور شیری خواہ پر چلتے کے لیے آزاد نہیں چھوڑ رہے بلکہ اس نے ان پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ مرضی الہی کے خلاف بال برابر بھی جنیش نہ کریں تاکہ کامل اعتماد کے ساتھ ان کی پیر دی کی جاسکے۔ اور ان کے قول و فعل کو بالکل یہ اسلام کی تعلیم اور اسلامیات کا معیار قرار دیا جاسکے۔"

یہ ہے مقامِ ثبوت اور منصبِ رسالت کے متعلق مولانا مودودی کا تصور ایسا کوئی اللہ کا بندہ جس کا دل خوف نہداوندی، اور آخرت کی جوابیدی کے اساس سے

یکسر خالی نہ ہو چکا ہو۔ اور نہ وہ بہت ان تراشی و کھانے کی کارثوں اب سمجھ رہا ہو، یہ کچھ کی جرأت کر سکتا ہے کہ مقامِ نبوت اور منصبِ رساناست کے پارے میں مولانا مزدودی کا یہ تصور غلط یا ناقص اور گھٹیا درجہ کا تصور ہے ہے اگر مولانا مزدودی کے مفترضین حضرات اس تصور کو غلط یا ناقص اور گھٹیا درجہ کا تصور سمجھ رہے ہیں تو بولا کن کتب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں وہ اس تصور سے بڑھ کر اعلیٰ اور اکمل اور صحیح تصور پہنچیں کریں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مقامِ نبوت اور منصبِ رساناست کے پارے میں مولانا مزدودی کا یہ تصور غلط یا ناقص تصور ہے تو کیا آپ حضرات کے خیال میں سچ اور کامل تصور یہی ہو گا کہ انبیاء اور مقامِ شریعت اور منصبِ نبوت سے اٹھا کر مقامِ معبود و محبوب اور منصبِ الوراثت پر پہنچا یا جائے۔ اور جس شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے وہ مبیوت کیے گئے تھے ہم خود بھی اس شرک میں جتنا ہو جائیں۔ اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ تباہی اور بلاکست کے اس مرطہ میں خرق کر دوں یہی ؟ لعمری ان ہذا الشیع عجائب۔

ان تہبیدی مگر نیا دری گزار شاست کے بعد زیل میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے اقرارضات کا جواب ذکر کیا جاتا ہے۔

### اقرارضات کا جواب

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے اقرارحن کا جو خلاصہ ہم نے پہلے پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے جوار شادات فرمائے ہیں ہمارے نزدیک وہ سب کے سب غلط اور خلاف واقعہ ہیں۔ جن وجوہات کے پیش نظر ہم مولانا موصوف کے ارشادات کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اُن میں سے ایک

وچھری ہے کہ انہوں نے شقیق میں جو یہ فرمایا ہے کہ: "حضرت یونس سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ہونا محال ہے۔ اور کسی بھی مستند عالم نے یہ بات نہیں لکھی۔" یا شقیق بیٹ میں جو یہ فرمایا ہے کہ: "نبی سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ہونا جسم اور گناہ ہے جس سے وہ آنفانہ مخصوص میں۔ اور اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا حصہ الائیام کا منکر اور گردہ اہل استہانے سے خارج نہ ہے۔"

اور ریاشت حج میں یہ فرمایا ہے: کہ "حضرت یونس علیہ السلام خدا کے مقرر کردہ وقت سے پہلے یہ صبر کر کر اپنے مستقر سے نہیں ہٹئے تھے یہ سب باقیں بعض خوش فہمی پر مبنی ہیں۔" حجاج اور واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ واقعات اس کے برخلاف شہادت دیتے ہیں۔ چنانچہ ہرگز چل کر ریاست کی جانبے گا کہ واقعات اور حجاج سے ان باقیں کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح مولانا موصوف کے یہ ارشادات واقعات اور حجاج پر مبنی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ ارشادات عملتے صدف کی ان تصریحت کے بھی مطابق نہیں ہیں جو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کے متعلق اپنے تفسیری مظاہیں میں فرمائی ہیں۔ انہوں نے اپنے تفسیری مظاہیں میں وہ تمام باقی تسلیم کی ہیں جن سے یہاں مولانا قاضی منظہر حسین صاحب انکار فرمائے ہیں۔ اور تفسیری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے متعدد مواضع میں اس قصہ کی طرف جو اشارات کیے ہیں یا بعض ثابت شدہ روایات و احادیث میں اس قصہ کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں، مولانا موصوف کے یہ ارشادات ان کے ساتھ مل جاتی نہیں، بلکہ ان کے مخالفت ہیں۔ اس لیے ہم ان کے ارشادات کو نہ صحیح تسلیم کر سکتے

ہیں اور نہ ان کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں۔ ملود مولانا مودودی نے کے اس قول کو کہ:  
”حضرت یونس علیہ السلام سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہر کجی تھیں۔  
یا وہ قابل انتہت افراد خداوندی کے بخیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔  
کتاب و سنت اور تقدیر میں علمائے سلف کی تصریحات کے باطل مطابق لوم و اتفاق  
یکجیتے ہیں۔“ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ڈبے ڈبے مشاہیر  
علمائے امت اور اکابرین ایل استہ و انجامات نے یہ تفصیل رائے خالیہ کی  
ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک ایسی کوتاہی ضرور سرزد ہوئی تھی جن کا متعلق  
آپ کے فرضیہ رسالت کی ادائیگی کے مساوا دوسرا کسی چیز سے نہ تھا۔ اور اسی کی وجہ  
سے وہ ایک عصہ کے یہ مچھلی کے پیٹ میں بطور عتاب یا بطور سزا رکھے گئے تھے۔  
اس موضوع پر قدیم و جدید مفسرین نے جو کچھ بحث کیا ہے، اس کے چند اصطلاحات میلانا  
مودودی نے اپنی تفسیر میں آگے چل کر سورہ صافات، مشاہیر وہ میں پیش کیے ہیں۔

یہاں سب سے پہلے اس حاشیے کو نقل کر دینا مناسب ہو گا، اور وہ فوج ذیل ہے:  
”حضرت یونس کے اس قصتے کے متعلق سورہ یونس اور سورہ انبار کی  
تفسیر میں جو کچھ ہم نے بحث کیا ہے اس پر بعض لوگوں نے مقر اضافات کیے ہیں اس  
لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دوسرے مفسرین کے اقوال بھی نقل  
کر دیئے جائیں۔“

مشہور مفسر قادریہ سورہ یونس، آیت ۹۸ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”کوئی  
بستی ایسی ہیں گزدی ہے جو کفر کر کچکی ہو اور عذاب آ جانے کے بعد ایمان لائی  
ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گی ہو۔ اس سے مرد قوم یونس مستثنی ہے اپنوں نے

جب اپنے بنی کو تلاش کیا اور نہ پایا، اور محسوس کیا کہ خدا بقریب آگی ہے تو  
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ ڈال دی۔ رابن کثیر، جلد ۲، ص ۳۳۳۔

اسی آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں: «اس قوم کا قصہ یہ ہے کہ یونس  
علیہ السلام موصول کے علاقے میں نینوی کے لوگوں کی طرف نیچے گئے تھے۔ یہ  
کافروں شرک لوگ تھے۔ حضرت یونس نے ان کو اللہ وحدہ لا شرک پر ایمان  
لانے اور بتوں کی پستش چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ انہوں نے اذکار کیا اور  
جھٹکایا۔ حضرت یونس نے ان کو خبر دی کہ قبیرے دن ان پر خدا بقریب آجائیگا  
اور تمیرا دن آنسے سے پہلے اُدھی رات کو دہشتی سے نکل گئے۔ پھر دن کے  
وقت جب خدا بقریب اس قوم کے سروں پر پہنچ گیا۔ ... اور انہیں یقینی ہو گیا  
کہ حسب پلاک ہر جائی میں گے تو انہوں نے اپنے بنی کو تلاش کی، مگر نہ پایا۔ ایک خدا  
وہ اپنے بال پھوپھو اور جانوروں کو سے کر صحرا میں نکل آئئے اور ایمان و توبہ  
کا اعلہا کیا ... پس اللہ نے ان پر حکم کیا اور ان کی دعا قبول کری۔

(روح المعانی جلد ۱، ص ۱۷۰)

سورہ انبیاء آیت ۷۸ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں: «حضرت  
یونس کا اپنی قوم سے ناراضی ہو کر نکل جانا بھرت کا فعل تھا، مگر انہیں اس کا  
حکم نہیں دیا گیا تھا۔» روح المعانی جلد ۱، ص ۲۲۶۔ پھر دہ حضرت یونس کی دعا  
کے فقرہ اسی گنت مَنْ اَنْظَاهِيْنَ کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں: 『یعنی میں  
قصور و ارتجاع کے طریقے کے خلاف، حکم آنسے سے پہلے، بھرت کرنے میں  
جدی گز بیٹھا۔』 یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے اپنے گناہ کا اقرار

اور توبہ کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مسیبت کو دُور فرمائے ۔  
دریج المحتوى، ج ۱، ص ۲۸۷۔

مولانا اشرف علی صاحب تفانی کا حاشیہ اس آیت پر یہ ہے کہ زدہ  
اپنی قوم پر جب کہ وہ ایمان نہ لائی، خفا ہو کر چل دیئے اور قوم پر سے عذاب  
ٹھیں جانے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لیے چادر سے مکنہ کا تنال  
نہ کیا۔ (ربیان القرآن)

اسی آیت پر مولانا شیراحمد صاحب ختمی حاشیہ میں فرماتے ہیں: قوم کی حکمات بے خفا ہر کو غصے میں بھر سے ہوتے شہر سے نکل گئے، حکم الہی کا انتظام شکی اور وہ وحدہ کر گئے کہ تین دن کے بعد نفس پر عذاب آئے گا... اسی کنٹ مِنَ الظَّالِمِينَ، اپنی خلما کا احتراست کیا کہ بے شک میں نے جلدی کی کہ تیر سے حکم کا انتظام کیے بغیر بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کر راہو را۔

سورة حمانيات کی آیات بالا کی تشرییع میں امام رازی لکھتے ہیں: حضرت  
یونس کا قصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی قوم کو جس نے انہیں چھڑایا تھا  
بلک کرنے کا وحده فرمایا، پس کہے کہ یہ عذاب لا محالہ نازل ہونے والا ہے،  
اس میںے انہوں نے صبر نہ کیا اور قوم کو دعوت دینے کا کام چھڑ کر نکل گئے،  
حالانکہ ان پر واجب تھا کہ دعوت کا کام برابر جاری رکھتے، کیونکہ اس  
امر کا امکان باقی تھا کہ اللہ ان لوگوں کو بلک نہ کرے۔

تفسیر کبری، ج ۲، ص ۱۵۸

علامہ اکوئی اذابق الی افلاک المشخون پر بحثتے ہیں؛ ابق کے

اصل میں آتی سے فرار ہونے کے میں چوکہ حضرت یوسف پنے ربکے اونکے بغیر اپنی قوم سے بھاگ نکلے تھے اس لیے اس فقط کا اطلاق ان پر درست ہوا ہے پھر آنکے چل کر لجھتے ہیں؛ جب تیراون ہوا تو حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل گئے اب جوان کی قوم نے اس کو نہ پایا تو وہ پنے پڑے اور چھوٹے اور جانوروں سب کو لے کر نکلے، اونکے عذاب ان سے قریب تھا، پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور زاری کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ رفع المغافل، ج ۲۳، ص ۱۳۰۔

مولانا شیراحمد صاحب تو ہو میلیم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

آن میں تھا کہ خلاستے اجنبیاری سے حکم الہی کا استغفار کیے بغیر رستی سے نکل پڑے اور عذاب کے ون کی تعینت کر دی۔

پھر سورہ القلم کی آیت فاصبِ رُحْكُمَرِ تِبَكَ وَلَا تَنْكُنْ كَصَادِبِ  
الْحُوْنَتِ پر مولانا شیراحمد صاحب کا حاشیہ یہ ہے: یعنی محمل کے پیٹ میں جلنے والے پنگیر حضرت یوسف علیہ السلام، کی طرح مکنیوں کے معاملہ میں تنگ دلی اور مکبرہت کا اخہار نہ کیجیے۔ اور اسی آیت کے فقرہ و  
ہو مکنطوم پر حاشیہ تحریر کرتے ہوئے مولانا فرماتے ہیں: یعنی قوم کی حرف سے غصے میں جھرے ہوتے تھے، جبکہ اکثر تباہی عذاب کی دعا، بلکہ پیش  
گوئی کر دیجئے۔

ترجمہ القرآن، سورہ صافات حاشیہ میں

اب حضرت یوسف کے واقعہ اور اس کے متعلق علمائے سلف اور ائمۃ تفسیر کے بعض مزید احوال پیش کیے جاتے ہیں، جن سے اس دعویٰ کا ثبوت مل سکتا ہے

کہ ان سے کوتاہی کا صدور ہوا تھا۔

### اصل واقعہ کے متعلق رو مسلم باتیں

۱۔ واقعہ حضرت یونسؐ کے متعلق یہ پیغیر تو سب کے نزدیک سُلْطَن ہے کہ حضرت یونسؐ کی قوم پر خدا کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ لیکن قوم جب اپنے کفر سے توبہ کر کے باخلاص ایمان لائی تو خدا نے ان کا ایمان قبول فرمایا کہ عذاب کو ان پر سے اٹھایا۔  
 إِلَّا قَوْمٌ يُؤْنَى لَمَّا آمَنُوا كَشْفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجِنَّى فِي الْجَبَرُوتِ الْأَنْسَى  
 وَمَنْعَنَا هُمْ رَأَى حِينٌ۔ (یونسؐ)

۲، اس بات میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شبہ یا عتاب اور سرزنش کے لیے محضی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ اور ایک عرصہ تک وہاں قید و بند میں وہ پڑے رہے تھے۔ ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر یہاں خود بخوبی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ: آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ خدا نے اپنے سُلْطَن قانون رکھ کر ایمان لانا کسی کے لیے نافع نہیں ہے کہ خلاف قوم یونسؐ کا ایمان قبول فرمایا کہ عذاب کو ان پر سے اٹھایا اور قدر کے لیے یہ اضطراری ایمان نافع ثابت ہوا ہے نیز اس بات کا آخر سبب کیا تھا کہ:

”حضرت یونسؐ کو ایک عرصہ کے لیے محضی کے پیٹ میں رکھا گیا“ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا مودودی نے فرمایا ہے کہ ان دونوں باتوں کا تحقق اس لیے ہوتا کہ: ایک طرف حضرت یونسؐ سے فرضیہ رسالت کی اور ایگی میں کچھ کوتاہیا ہو گئی تھیں۔ اور دوسری طرف اذنِ خداوندی کے بغیر قبل از وقت وہ اپنا مستقر بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ لہذا خدا کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا بھی گوارا

نہ کہا۔ کیونکہ ان پر اقسامِ حقیقت کی قافی شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں یہ اور حضرت یونسؐ کو محیٰ ایک عرصہ تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا۔

مولانا کی یہ دلنوں باتیں کہ حضرت یونسؐ سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کرتا ہی ہو گئی تھی، اور وہ اذنِ خداوندی کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی باتیں نہیں ہیں جو صرف مولانا ہی کے ذہن کا اختراق ہو۔ بلکہ یہ دلنوں میں جو مولانا مودودی سے بہت پہلے ٹرے سے علمائے سلفؓ اور مشاہیر امت نے اپنی تصانیف میں بصراحت ذکر کی ہیں اور کسی نے آج تک ان کے متعلق یہ کہنے کی جرأت نہیں کی ہے کہ ان علماء نے حضرت یونسؐ کی ذمیں کی ہے یا ان کی شان میں گستاخی کی ہے یا وہ عصمت الانبیاء کے منکر ہو گئے ہیں۔ ذیل میں ان کے دو اقوال ملاحظہ فرمائیں جن میں یہ دلنوں باتیں بصراحت ذکر ہیں اور جو ہم کو معتبر فرائع سے واقعہ حضرت یونسؐ کے متعلق پہنچی ہیں۔

### امام بن حوری اور دروسے الملة تفسیر کی تصریحات

صاحب معالم التنزیل امام بن حوری رحمۃ اللہ علیہ، آیت: وَذَا النُّونَ أَذْهَبَ مَغَافِلًا کی تفسیر کرنے ہوئے لمحتے ہیں:

أَخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ الْفَخَوَّاثُ مَغَافِلًا لِّقَوْمِهِ وَهُوَ رَوَايَةُ الْعَوْفِ عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُونُسُ وَقَوْمُهُ يُسْكَنُونَ فِلَسْطِينَ فَغَزَّاهُمْ مَلَكٌ وَسَبَى مِنْهُمْ تَسْعَةً، اسْبَاطٌ فَأَوْجَى اللَّهُ إِلَى شَعِيمَارَانْبَئَ أَنَّ أَذْهَبَ إِلَى حَرْقَيلَ الْمَلَكِ وَقُتِلَ لَهُ يَوْجَهَ نَبِيَا قَوْيَا فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ فَمَنْ تَرَى؟ فَقَالَ يُونُسُ فَانْهَ

تحوی امین۔

فَدَعَ الْمُلْكَ بِيُونُسَ غَامِرًا إِنْ يَخْرُجْ فَقَالَ لَهُ يُونُسَ هَلْ  
أَمْرَكَ اللَّهُ بِأَخْرَاجِيْ قَالَ لَا۔ فَقَالَ هَلْ سَافَنِيْ؟ قَالَ لَا۔ قَالَ  
فَهُنَّا عِنْدِنِيْ أَبْنِيَا وَأَقْوِيَا رَغْفَالْحَوَاعِدِيْهِ فَخَرْجَ مِنْ بَيْنِهِمْ مَعَاصِيْ  
لِلْبَنِيْ وَلِلْمُلْكِ وَلِقَوْمِهِ أَهْدَى مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ، ح ۲۳ ص ۵۵ بجاش  
(خازن)

علامہ ارنے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے مبنیا کرنے کے لیے ہے  
کہ «معاشر» سے اپنی قوم پر حضرت یونسؑ کا غصباک ہوتا مراد ہے اس کو  
عوقی ہٹانے این عباس سے روایت کیا ہے۔ این عباس کہتے ہیں کہ حضرت یونسؑ  
بپھراپنی قوم کے نسلیں میں رہتے تھے پس انہی سے ایک بار شاہزادے جنگ  
کی اور ٹو خانہ اندر کو قید کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعاء بنی کوہوی  
بیسی کہ بار شاہزادے جنگ سے باکر کہو کہ ایک طاقتور بی کو حملہ آور بار شاہزادے  
جنگ کرنے کے لیے بھیج دے اور جنگ کے پاس جب حضرت شیعاء بنی کوہوی  
لے کر پہنچے تو جنگ میں حضرت شیعاء سے کہا کہ آپ کس کو مناسب خیال  
کرتے ہیں۔ حضرت شیعاء نے کہا کہ حضرت یونسؑ کو وہ طاقتور بھی ہیں اور  
امیں بھی۔ بار شاہزادے حضرت یونسؑ کو بلا کر کہا کہ تم جہاد کے لیے نکلو یونسؑ  
نے کہا کہ خدا نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ میں ہی جہاد کے لیے نکلن۔ اس نے  
کہا نہیں۔ پھر یونسؑ نے کہا کہ خدا نے نام میرزا نام لیا ہے وہ بار شاہزادے  
کہا نہیں۔ اس پر حضرت یونسؑ نے کہا کہ ربہاں دوسرے بھی تو طاقتور بھی

موجود ہیں۔ رانہیں کیوں نہ بھیجا جاتے، مگر انہوں نے یہ نہیں ہی پراصرہ  
کیا۔ پس وہ نبی، بادشاہ اور قوم سب پر غصہ ہو کر جہاد کے لیے نکلے۔“

### حضرت یونس کے غضب کی پہلی توجیہ

آیت کی تفسیر میں یہ پہلی توجیہ ہے جو امام صحاکؑ کی طرف منسوب ہے۔

اس میں ”مخاضاً“ سے امام صحاکؑ نے یہ معنی مراد ہے ہیں کہ ”حضرت یونس اپنی قوم پر غصہ ہوئے تھے“ اور سببِ غضب یہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کو حضرت شیعائیٰ اور مکہ خرقلیل کی وساطت سے خدا کا یہ حکم پیش کیا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو“ تو حضرت یونس نے حکم کی تعبیل میں پس روپیش کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے اس کام کے لیے خاص طور پر میراً تھا اب تو نہیں کیا ہے اور یہ خصوصی طور پر میراً ہے لیکہ تو آپ خاص میرانام کیوں لے رہے ہیں اور خاص مجھے اس کام کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں۔ در آں حاجیکہ بیان دوسرے بھی تو انہیاں مددجوی جو اس کام کو سزا نہام دینے کے لیے میری طرح موندھن ہیں۔“ اس طویل میں روپیش اور دلیت و فعل کرنے کے باوجود بھی جب ملک خرقلیل اور باقیاندہ انبیاء نے ان سے اصرار کیا کہ جو کچھ بھی ہو جہاد کے لیے خاص تم ہی کو نکل جانا پڑے گا۔“ تو حضرت یونس نے اس اصرار کو اپنے اوپر زیارتی سمجھ کر قوم پر غنیظ و غضب کا اخبار کیا اور بادیل ناخواستہ انتہائی بجوری سے جہاد کے لیے نکلے۔“

### قوم پر غنیظ و غضب کے لیے یہ سببِ معقول نہیں ہے

قوم پر حضرت یونس کے غنیظ و غضب کے لیے ابی عباس کی اس روایت میں جو سبب بیان کیا گیا ہے بظاہر وہ اپنے اندر زکوٰۃ محتقریت نہیں رکھتا۔ کیونکہ

حضرت یونس سے نکلنے کا اصرار اگر کیا گیا تھا تو ملک حرقیل، حضرت شعیاہ اور دوسرے انبیاء کی طرف سے کیا گیا تھا نہ کہ قوم کی طرف سے۔ یعنی کہ اس روایت میں قوم کا ذکر اصلًا نہیں ہے تو حضرت یونس میں اگر غصہ ہو سکتے تھے تو ملک حرقیل اور حضرت شعیاہ اور دوسرے انبیاء پر ہی غصہ ہو سکتے تھے نہ کہ قوم پر اپنے قوم پر غصہ ہونے کے لیے یہ کوئی معقول سبب نہیں ہے۔ اس لیے قوم پر حضرت یونس کے غضیناک ہونے کی اصل وجہ ہمارے نزدیک حضرت وہ ہے جو علامہ سید آلوسیؒ نے اپنی مشہور تفسیر روح المعانی حج، اصل ۳۸ میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے:

”ای غضبان علی قومہ لشدة شکیمتم و نمادی اصرارہم  
صح طول دعوتہ ایا هم“ احمد

وہ یعنی حضرت یونس اپنی قوم پر اس لیے غضیناک ہو کر نکلے کہ باوجود اس کے کہ وہ قوم کو زمانہ دراز سے دعوت حق پیش کرتے رہے۔ مگر قوم اپنی سختی جلیح اور استکداری کی وجہ سے کفر ہی پر مصروف ہی۔

اور ابن عباسؓ کی روایت میں جو غصب کے لیے سبب بیان کیا گیا ہے وہ دراصل ملک حرقیل پر غضیناک ہونے کا سبب ہے نہ کہ قوم پر غضیناک ہونے کا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سید آلوسیؒ نے ابن عباسؓ کی مذکورہ روایت کو ملک حرقیل پر غضیناک ہونے کے لیے بطور تعلیل ذکر کیا ہے۔ ذیل کی دوسری توجیہ میں اس کو ملاحظہ فرمائیں:

دوسری توجیہ اور سبب غصب

مد آیت مفاضباً کی تفسیر میں دوسری توجیہ وہ ہے جسے علامہ سید اکوئی نے  
دریج ذیل الفاظ میں ذکر کیا ہے:

وقبیل غضبان علی الملک حزقیل مقداروی عن اب  
عباس انه قال كان يونس و قومه يسكنون فلسطین فغراهم  
ملک و بی صنهم تسعۃ اسیاط فادحی اللہ الی شعیاء ان اذب  
الی حزقیل الملک و قل له یوچہ نبیا قوبیا ف تعالی لہ الملک  
فمن تنوی ؟ قال یونس فامتہ فتوی امین - الخ

(روح المعانی، ج ۷، ص ۸۳)

بعض نے کہا ہے کہ حضرت یونس بادشاہ حزقیل پر غصہ ہوتے تھے اس  
کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ حضرت یونس بصری پر قوم کے  
فلسطین میں رکا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ان سے جنگ کی اور خاندانوں  
کو قبیل کر کے لے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیاء  
نبی کو وحی بیسی کہ بادشاہ حزقیل سے جا کر کہو کہ حملہ آور بادشاہ سے جنگ  
کرنے کے لیے کسی طاقتور نبی کو بھجو۔ بادشاہ حزقیل نے حضرت شعیاء سے کہا  
کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت شعیاء نے کہا کہ اس کام  
کے لیے یونس نے بارہ موزوں ہے۔ کیونکہ وہ قری بھی ہے اور میں  
بھی یہ لخ

اس توجیہ کا ماحصل یہ ہے کہ ”مفاضباً“ سے حضرت یونس کا بادشاہ حزقیل

پر خفیت کا ہوتا مراد ہے اور سبب غصب وہ ہے جو ان عجائب کی سابقہ ریایات میں پہلی توجیہ کے ضمن میں جحوالہ امام بنوی ذکر کیا گیا ہے، یعنی بادشاہ حوقیل کا حضرت یونس پر بار بار یہ اصرار کر جنگ کے لیے تم پی کو نکلا پڑے گا۔

### تیسرا توجیہ

متعلقة آیت کی تفسیر میں تیسرا توجیہ وہ ہے جس کو بعض تقدیمیں انہر تفسیر سے امام بنوی اور دوسرے مفسرین نے درج ذیل الفاظ میں تقلیل کیا ہے:

وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزِّبَرِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَجَمَاعَةً ذَهِبَ  
عَنْ قَوْمِهِ مَعَاصِيًا لَرْتَهُ أَذْكَرْتُ الْعَذَابَ عَنْ قَوْمِهِ بَعْدَ  
مَا أُوعِدُهُمْ . . .

”در عروہ ابن زبیر، سعید بن جبیر اور ایک جماعت کی رائے میں حضرت یونس خدا پر غصہ ہو کر اپنی قوم کو چھوڑنے لئے اور خدا پر اس وجہ سے غصہ ہوئے تھے کہ حضرت یونس نے قوم کو نزول عذاب کی وجہی دی تھی۔ اور خدا نے ان پر سے عذاب کو اٹھایا۔“

وَقَالَ الْحَسْنُ إِنَّمَا عَاصِبُ رَبِّهِ عَزْ وَجْلُ مَنْ أَجْلَ اَنْهَ اَمْرَكَ  
بِالْمُسِيرِ إِلَى قَوْمِهِ لِيَنْذِرَهُمْ بَأْسَهُ وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَسَأَلَ  
رَبِّهِ اَنْ يَنْظُرَهُ لِيَتَأْهِبَ لِلشَّخْصِ مَمْأُولِيْهِ فَقَيْلَ لَهُ اَنَ الْأَمْرُ  
اسْعَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَأَلَ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى اَنْ يَأْخُذَ تَعْلَمَ بِلِيْسِهَا  
فَلَمْ يَنْظُرْ وَكَانَ فِي خَلْقَهِ خَيْرٌ قَدْ هُبَ مَعَاصِيًّا۔

”عن بصری کی رائے میں خدا پر غصہ ہوئے کی وجہی تھی کہ خدا نے ان کو

حکم کیا تھا کہ قوم کے پاس جا کر عذابِ الہی سے انہیں ڈرائیں۔ اور انہیں دعوتِ حق پیشی کریں۔ اس پر حضرت یونس نے درخواست پیش کر کے اپنے رب سے ہدایت مانگی تاکہ قوم کے پاس جانے کی تیاری کریں مگر جواب دیا گیا کہ معاملہ بُری جلدی کا ہے۔ اس میں ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ نے پھر درخواست کی کہ اتنی ہدایت تو روی جائے کہ میں جوستے پہن کر آؤں مگر اس کے لیے بھی ہدایت نہیں۔ چونکہ رہنمایت فرازج اور سخت طبع تھے اس لیے غصہ ہو کر چلے گئے۔

وقال وَهْبٌ بْنُ صَنْبَرَةَ أَنَّ يُونُسَ كَانَ عَبْدًا أَصَالِحًا وَأَنَّهُ كَانَ فِي خَلْقَهُ صَبِيقٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْقَالَ النَّبِيُّ تَسْخِيمٌ تَخْتَبَأْ تَفْسِيمَ الرَّبِيعِ تَحْتَ الْحَمْلِ الْثَقِيلِ فَقَدْ فَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخُرُوجٍ هَارِبًا صَنَعاً - فَلَذَا لَكَ أَخْرُجْهُ اللَّهُ أَمْنٌ أَوْ لِلْعَزْمٍ مِنَ الرَّسُولِ - وَقَالَ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّعَمُ - فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْ لَوْا العَزْمُ مِنَ الرَّسُولِ - وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْتِ - ۱۴

رمالِ التَّشْرِيفِ (ص ۲۵۶)

او روہبؑ نے کہا ہے کہ گویونس خدا کے نیک بندے تھے مگر فرازج او طبیعت میں شکی بھی تھی۔ جب ان پر نبوت کی ذمہ داریوں کا بو جھوڑا لگا۔ تو وہ اس کے نیچے اس طرح دیکھ گئے جس طرح اونٹ کا کمزور بچہ پھاری بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے نبوت کے اس بوجھ کو وہیں تماکر پھینک دیا اور بھاگ نکلے۔ اسی وجہ سے خدا نے ان کا نام بھی اولیہ العزم

پیغمبر دل کی فہرست سے نکال دیا۔

اور حضور صلیم سے فرمایا کہ اولو العزم پیغمبر دل کی طرح صبر کرو۔ اور  
پھری واسطے نبی (رسول) کی طرح مت بز۔ (یعنی اس کی طرح بے صبری نہ  
اختیار کرو)

### امکہ تفسیر کی تین توجیہات کا خلاصہ

پہلی توجیہ یہ ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم پر خفیناک ہوتے تھے۔ اور نقطہ معاضاً  
سے مراد قوم پر ہی خفیناک ہونا ہے یہی وہ توجیہ ہے جو ابن عباس سے برداشت حسن  
تعلیٰ کی گئی ہے۔ اور متقدیں امکہ تفسیر میں سے امام ضحاکؓ نے اس کو اختیار کیا ہے۔  
اور متأخرین میں سے علامہ شید آبادیؒ نے روح المعانی ج، اصل ۲ میں دوسری توجیہات  
پسas کو ترجیح دی ہے۔

دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت یونس بادشاہ وقت رخزقیل پر غصہ  
ہوتے تھے۔ کیونکہ اس نے حضرت یونس ہی کو جہاد کے لیے منتخب کیا تھا اور کہا تھا کہ  
تم ہی کو جہاد کے لیے مکنا پڑے گا۔ اس توجیہ پر ”معاضاً“ سے حضرت یونس کا بادشاہ  
وقت رخزقیل، پر خفیناک ہونا مراد ہو گا۔

تیسرا توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت یونس اپنے رب پر غصہ ہوتے تھے۔  
اور ”معاضاً“ کے ان کا یہی خفیناک ہونا مراد ہے۔ اسی معنی اور توجیہ پر مذکور آیت  
کہ پڑے پڑے مشاہیر علمائے امت محل کیا ہے جن میں عودہ ابن زبیر، عیین بن جبیر، حن  
بعریؓ، امام شعبیؓ اور وہب بن منتبہ جیسے جیال علم شامل ہیں۔ عبدالعزیز ابن عباس، اور  
ابن مسعود سے بھی یہی تفسیر منتقل ہے۔ روح المعانی ج، اصل ۲۴ میں اس بات کی تصریح

کی کشی ہے کہ عبد اللہ ابن مسعود نے بھی ہمیت کے پی مسئلہ بیان کیے ہیں کہ حضرت یونس  
علیہ السلام خدا پر غضبناک ہو کر چلے گئے تھے؟  
اوپر کی تینوں توجیہات میں یہ بات یہاں متعلقہ سے پاؤ جاتی ہے کہ حضرت یونس  
کو اپنے اس واقعہ میں غنیط و غضب لاحق ہوا تھا اس میں تینوں توجیہوں کے ماہین کوئی  
فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف رو باقوں میں ہے۔ ایک یہ کہ وہ کس پر غضبناک  
ہوتے تھے؟ دوسری یہ کہ غنیط و غضب کے اسباب کیا تھے؟ جہاں تک پہلی بات کا  
تعلق ہے وہ اوپر کی تین توجیہات سے واضح ہو چکی ہے۔ ہمیں اسباب غضب کی  
تشخیص تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

### سبب غضب

پہلی توجیہ میں حضرت یونس کے غنیط و غضب کے لیے علامہ سید آلوسیؒ کی عبارت  
میں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یونس اپنی قوم کو زمانہ درماز تک دعوتِ حق پیش  
کرتے رہے۔ لیکن قوم نے چونکہ اس سے کوئی اثر قبول نہ کی اور اشکار کی روشن پیغام  
و متصربی۔ اس لیے حضرت یونس ان پر غضبناک ہو کر چلے گئے۔ یہ موصوف نے یہ بھی صحیح  
فرمائی ہے کہ قوم سے حضرت یونس کا چلا جانا گر بطور بحیرت تھا لگہ خدا کی طرف سے وہ  
اس کے مجاز نہیں تھے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

اَيُغْضَبَانَ عَلَىٰ قَوْمَهُ لِشَدَّةِ شَكِيمَتِهِمْ وَتَمَادِيِ اَصْرَارِهِمْ  
مَعَ طَولِ دَعَوَتِهِ اِبَا اَهْمَمْ - وَكَانَ ذَهَابُهُمْ اِمْتِهِمْ هَجْرَةً عَنْهُمْ

لکنَه لِمَرْيَمْ بَدَاهْمَ

وَ حَضَرَتِ یُونُسَ قَوْمَهُ پَرَّاَسَ وَ جَرَّبَهُ غَضَبَنَاکَ ہَرَوَگَئَ کہ باوجود اس کے

کہ وہ ان کو زمانہ عذاب کرنے پیش کرتے رہے مگر قوم انتہائی سمجھنی کی وجہ سے  
کفری پیغمبر ہی۔ اس بنا پر وہ خصوص ہو کر پیش گئے قوم سے ان کا یہ چلا جانا  
اگرچہ بطور ثبوت تھا مگر وہ اس کے مجاز نہیں کیے گئے تھے ॥

دوسری توجیہ میں سبب غصب وہ بیان کیا گیا ہے جو ابن حبیش کی روایت  
میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت شیعہ علیہ السلام اور علک حزقیل  
کی طرف سے حضرت یونس پر یہ اصرار کیا گی کہ حکم چاونکہ بجا آمدی کیے باشد شاہ عالم  
سے آپ ہی کو جنگ کرن پڑے گی ॥ تو حضرت یونس نے بہت پس پیش اور سیست دعل  
کر کے یہ مخدوشت پیش کی کہ نہ خدا نے خاص طور پر میرا نام لیا ہے اور نہ خاص میرے جانے  
کا حکم کیا ہے تو آپ خواہ خواہ مجھے کیوں محبوک رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود جب ان  
کی کوئی مخدوشت تبول نہ ہوتی اور حضرت شیعہ اور علک حزقیل اپنے اصرار پر قائم رہے  
تو حضرت یونس ان کے اس اصرار کو اپنے اوپر زیادتی کر کر باشد شاہ حزقیل پر غصہ ناک  
ہوتے اور بادل ناخواستہ چہار کے نیں نکلے ॥

تیسرا توجیہ میں اپنے رت پر حضرت یونس کے غصبناک ہونے کے نیے تین اسباب  
بیان کیے گئے ہیں جو میں مختلف ائمہ تفسیر کی تفسیروں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اُن تین  
اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو چونکہ یہ حمل دی تھی  
کہ تم پر عذاب المی نازل ہو گا اور خدا نے اس کے باوجود قوم پر سے عذاب کو اٹھا کر  
حضرت یونس کو ایک گونہ قوم کے سامنے فلسطین بیان ثابت کر دیا۔ اس نیے حضرت  
یونس کو اپنے رب پر خفہہ آیا اور ناراضی ہو کر اپنی جگہ چوڑ کے یہی وہ سبب ہے جو  
عروہ ابن زبیر، صحید بن جبیر، اور سمعتؓ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ اور جو امام

بغويٰ کی دریج فیل عبارت میں مذکور ہے:

وَقَالَ عُرْبٌ وَّقَةً أَبْنَ الزَّبِيرِ وَسَعِيدُ بْنُ جَبَيرٍ وَّجَاتَهُ ذَهْبٌ عَنْ قَوْمٍ مَفَاضِيَ الْرِّتَبِ إِذْ كُشِّفَ عَنْ قَوْمِهِ الْعَذَابُ بَعْدَ مَا

أُوعِدُهُمْ - اه

- مدحورہ ابن زبیر، سعید بن جبیر اور ایک جماعت کی راستے پر ہے حضرت یونس اپنے رب پر خستہ ہو کر قوم کی اس وجہ سے چھوڑ گئے تھے کہ انہوں نے اپنی قوم کو نزول عذاب کی وعید ہنا تھی مگر خدا نے ان پر سے عذاب کو اٹھایا۔ خدا پر حضرت یونس کے غنیظ و غضب کے لیے دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یونس نے اپنے دعویٰ کام کے لیے تیاری کرنے کی غرض سے یہ درخواست پیش کی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے محبت ری جانتے تاکہ میں قوم کے پاس جاننے کے لیے ساز و سامان فراہم کروں، مگر یہ درخواست منظور نہ ہوتی۔ اس لیے وہ خدا سے نماز من ہو کر چلے گئے ہیں یہ وہ سبب ہے جو حسن بصری نے غنیظ و غضب کے لیے بیان کیا ہے۔ اور امام غنویؒ نے دریج فیل عبارت میں ذکر کیا ہے:-

وَقَالَ الْحَسْنُ إِنَّمَا غَاصِبُ رَبِّهِ عَنْ وَجْهِهِ مِنْ أَجْلِ

إِنَّهُ أَهْرَى بِالْمُسِيرِ إِلَى قَوْمِهِ لِيَتَذَرَّهُمْ بِأَسْهَدِ وَبِدُونِهِمْ

إِلَيْهِ فَسَأَلَ رَبِّهِ إِنِّي مُنْتَظَرٌ لِيَتَاهِبَ لِلشَّخْصِ مِنْ أَيْمَنِهِ

فَقَيلَ لَهُ أَنَّ الْأَهْرَى أَسْوَمُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ مَفَاضِيَ - الْمَغْ

وَ حَسَنُ بَصْرِي کہتے ہیں کہ حضرت یونسؑ اس وجہ سے خدا پر غصہ ہوئے

تھے کہ خدا نے انہیں قوم کے پاس جاننے کا حکم ریاتھا، تاکہ انہیں عذاب

اہمی سے ڈھان میں اور دھوتِ حق ان کو پیش کریں۔ اس پر حضرت یونس نے اپنے  
ربت سے سوال کیا کہ تھوڑی دیر کیلئے مجھے ہدایت دی جانسے تاکہ میں ان کے  
پاس چانسے کے لیے تیاری کروں۔ مگر خدا کی طرف سے جواب ملا کہ مخالف ہری  
جلدی کا ہے۔ ہدایت اس میں نہیں مل سکتی ہے اس پر وہ خصوصی ہو کر نکلے۔

اس غلط و غصب کے لیے تیرا بسب یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یونس چونکہ  
فطرۃ تنگدل اور رخت مراج واقع ہوتے تھے، لہذا جب ان پر نبوت کی ذمہ داریاں  
ٹائی گئیں، تو الحمد للہ کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے انہوں نے ذمہ داریوں کا بوجھوڑیں  
آتا کر کر چینکپ ریا۔ اور خدا سے ناراضی ہو کر چلے گئے ہیں اسی پر خدا نے ان کو اول اخزم  
پیغمبروں کے ذمہ سے بھی نکال دیا۔ یہ وہ سبب ہے جو وہب بن قبیل نے خدا  
پر حضرت یونس کے غلط و غصب کے لیے بیان کیا ہے۔ اور امام بخاریؓ نے درج ذیل  
الفاظ میں ذکر کیا ہے:

وَقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنْتَهِيَّهُ أَنَّ يَوْنُسَ كَانَ فِي خَلْقِهِ خَيْرٌ فِيمَا  
حَمَلَ عَلَيْهِ الْقَالَ النَّبِيُّهُ تَفَسَّحَ تَحْتَهُ تَفَسَّحَ الرَّبِيعُ تَحْتَ الْمَعْلِ  
الشَّقِيلِ—فَقَدْ فَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَخْرَجَ هَارِبًا—أَه-

وہ وہب بن منتہیہ نے کہا ہے کہ حضرت یونس کی طبیعت اور مراج  
میں شکل تھی۔ جب اُنی پر نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھہ ڈالا گیا تو وہ اس  
کے نیچے اس طرح دب گئے جس طرح اونٹ کا کمزور بچہ بخاریؓ بوجھے کے  
نیچے دب جاتا ہے۔ اس لیے اس کو وہیں آتا کر چینکپ ریا اور چاگ  
نکلے۔

کیا حضرت یونس کا جانا حکم الہی کے تحت تھا؟

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق حضرت یونس کے غضب اور اس کے اس بات سے تھا۔ آپ اس کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آیا حضرت یونس بے صبری کی وجہ سے اذنِ خداوندی کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے یا نہیں؟ اور کیا کسی مقتدر نے اس کو فرائضِ رسالت میں کو تماہی قرار دیا ہے یا نہیں۔ چہاں تک اپنے مستقر کو چھوڑ کر چلے جانے کا تعلق ہے، یہ قرآن کریم میں ایک منصوصی امر ہے جس سے انکار کے لیے کوئی گھاشیش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اور پربتینے مفسرین کے اقوال اس قدر کے متعلق نقل کیے گئے، ای سب میں تصریحاً اس امر کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یونس اپنی جگہ چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ رہا یہ امر کہ یہ نکل جانا خدا کے اذن سے تھا یا بغیر ادن کے وہ نکل گئے تھے، تو اس کے لیے میرے خیال میں صرف روح المعانی کی ایک عبارت نقل کرنا کافی ہوگی۔ جو پہلے بھی نقل کی گئی ہے وہ یہ کہ:

وَكَانَ ذَاهِبَهُ هَذَا مِنْهُمْ هُجِرَ نَزَاعُهُمْ نَكْتَهَ لَهُمْ يُوَهِّرُ بِهِ أَهْ

درج ۷ اصل ۸۳)

”حضرت یونس کا اپنی قوم سے چلا جانا اگرچہ بطور بحیرت تھا، لیکن ان کو خدا کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ملی تھی“

علامہ سید آلوسیؒ کی اس عبارت میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ حضرت یونس اپنے اس نکل جانے میں من جانب اللہ مامور اور مافون نہیں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اذنِ خداوندی کا انتظار نہ کرتے ہوئے ان کے نکل جانے کے لیے بے صبری کے علاوہ دوسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بے صبری ہی اس کی وجہ بن سکتی ہے اور

یہی اس کی وہ لغزش اور کوئا ہی تھی جس پر وہ بلن الموت کے تاریک جمل غانے میں ایک عرصہ تک قید و مبتک صورتیں برداشت کرتے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کی جو تاریخ بیان کی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح پڑھیے۔ اور خوب اس کی ودق گردانی کیجیے۔ مگر آپ کو کہیں بھی یہ نہیں سے گا کہ کتنی نبی اذن اور امر خداوندی کے بغیر اپنے مستقر کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اس کے بعد یہ ضرور آپ کو سے گا کہ جب کسی نبی کی اقتضیت پر نزولِ عذاب کا فیصلہ کیا گیا ہے ترنیا حکم خداوندی کا انتظار کرتے ہوئے اس وقت تک برابر صروفت تبلیغ رہے ہیں اور اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہٹتے ہیں جب تک ان کو انہی طرف سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ حضرت فرج علیہ السلام کو جب تک خدا کی طرف سے یہ حکم نہیں ملا تھا کہ دا صنع الفداء باعیتنا و وحینا ... حتیٰ اذ اجاد امننا و فار الم سور قلتا احمد فیہا من کل زوجین اثنین الکیر تو اس وقت تک دو برابر اپنے قوم میں رہ کر تبلیغ کرتے رہے اور کہیں بھی نہیں گئے۔

اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وقت تک برابر صروفت تبلیغ رہے جب تک ان کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ فاسد باہدث بقطعاً من اللیل الکیر۔ حضرت صدیع کریمی تاو قشیکہ بحرت کا حکم نہیں ملا تھا وہ برابر اہل مکہ میں رہتے ہوئے دینِ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور جب بحرت کی اجازت ملی تب آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف بحرت کی۔

بہر حال انبیاء کی تاریخ میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں پیش کی جاسکتی کہ کوئی نبی اذن خداوندی کے بغیر اپنے مستقر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ بجز حضرت یونسؑ کے کہ صرف وہ

اُذنِ خداوندی کے بغیر انی پی جگہ چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ حالانکہ ان پر یہ لازم تھا کہ وہ حکمِ خداوندی کا انتظار کرتے۔ اور حکمِ خداوندی آئنے تک تبلیغِ دین اور دعوتِ حق پیش کرنے میں برابر مصروف تھے اور مشغول رہتے۔ اسی چیز کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نہایت تصریح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ اسیابِ معصیت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وَالْأَقْرَبُ فِيهِ وِجْهُنَّ—الْأَوَّلُ أَنْ ذَنِيَّهُ كَانَ لَانِ اللَّهُ  
تَعَالَى وَعِدَّةً إِنْتَاجَ الْأَهْلَاكِ بِقُوَّمَهُ فَنَظَنَ أَنَّهُ نَازِلٌ لِّا مُحَاَلَةٍ  
فَلَا جُلُّ هُذَا النَّطَنٌ لَمْ يَصِرْ عَلَى دُعَائِهِمْ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ

أَنْ لَيَتَمَّ عَلَى الدِّعَاءِ—*رَتْفَسِيرِ كَبِيرِ حَجَّ*، ص ۱۵۱)

وہ معصیت کے وجہ میں دو وجہ زیادہ قریب ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس کا گناہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کی قوم پر عذاب نازل ہو گا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عذاب لا محالة نازل ہو گا۔ پس وہ اپنے اس خیال کی وجہ سے یہ صبر نہ کر سکے کہ قوم کو دعوتِ حق برابر دیتے رہیں۔ حالانکہ ان پر یہ واجب تھا کہ وہ دعوت پیش کرنے پر قائم رہتے۔“

یہ عبارت اس بارے میں صریح ہے کہ حضرت یونس پر یہ کام لازم لوسدا تھا کہ وہ قوم کو تبلیغ کر کے دعوتِ حق پیش کرنے پر تا اذنِ یحیت قائم رہتے۔ اور بیٹھے صبر ہو کر اپنا مقام نہ چھوڑتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ بے صبری کی وجہ سے اپنا مقام چھوڑ کر چلے گئے۔

اب مقرر نہیں حضرات بتایا ہیں کہ حضرت یونسؐ سے صبری کی وجہ سے اپنی جگہ سے  
بھٹکتے تھے یا نہیں؟ اور سے صبری کی وجہ سے اذن خداوندی کے بغیر ان کا چلا جانا تو راہی  
تمی یا نہیں اور حب اُن پر ہوا جب اور لازم تھا کہ وہ اپنی قوم میں رہ کر تبلیغ کرتے  
اور سے صبر ہو کر نہ چلے جاتے۔ تو ان کی یہ کوتاہی فرائض رسالت کی اور ایسکی متعلق  
بھٹکی یا نہیں؟ آب اگر ان باتوں کی وجہ سے مولا نامودودی کو عصمت اپنید کو انکر  
اور گردہ اہل السنۃ سے خارج قرار دیا جائے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پارے  
میں کیا راستے قائم کی جائے گی؟ یہ باتیں تو انہوں نے بھی لکھی ہیں۔

### سابقہ مباحثہ کے نتائج

حضرت یونسؐ کے ڈاکووں سے متعلق اور پرچور مباحثہ ذکر کیے گئے اور تفسیر  
آیت میں علمائے سلفؓ کے جوابوں میں کیے گئے، ان تمام سے جو امور بطور نتائج  
ثابت ہوتے ہیں ان کو ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کی روشنی میں یہ دلکھیں کے  
کہ آیا مولانا مودودی نے حضرت یونسؐ کے متعلق تفہیم القرآن میں جو کچھ لمحہ ہے  
وہ علمائے سلفؓ کی ان تصریحات کے موافق ہے یا مخالف۔

جو امور سابقہ مباحثہ سے بطور نتیجہ ثابت ہوتے ہیں یا جو کمزوریاں اور  
کوتاہیاں علمائے سلفؓ کے مذکورہ اقوال میں حضرت یونسؐ کی طرف صراحت  
فسوبہ ہوتی ہیں وہ یہ ہیں:

دن) "حضرت یونس علیہ السلام میں سختی مزاج اور غنگدی موجود تھی۔"

کان فی خلقہ ضيق۔

لب) "حضرت شیعیا نبی یا بادشاہ حرقیل کی دساطت سے جب ان کو

خدا کا پر حکم ہنپا کہ "جہاد کے لیے نکلو" تو انہوں نے تعلیل حکم میں بہت پس و پیش شروع کر دی۔ اور احتجاج کیا کہ: "هل امر لکھ انتہہ با خراجی؟ اور هل سماں؟ فہمنا انبیاء اقویاء غیری۔"

دیج، "دو بہت پس و پیش کرنے کے بعد ایک دوسرے بھی، یاد شاہ، اور اپنی قوم پر غضینا کہ ہو کر مجبوراً جہاد کے لیے نکلے" "فخر ج من بینم معاوضیاً للنبی وللذکر ولقومه"

رد، "ان کی قوم سے جب خدا نے عذاب کو اٹھایا اور وہ قوم کے سامنے بظاہر ایک گز نہ وحدہ خلافت ثابت ہوئے تو وہ خدا پر غصہ ہجر گئے" "ذھب عن قومه معاوضیاً لوریہ اذ کثت عیجم العذاب بعد ما اعدہم۔

رس، "جب ان کو خدا کی طرف سے دعوتِ حق پیش کرنے کی غرض سے قوم کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے خدا سے مہلت مانگی جب لہنیں چہلت نہ ملی تو خدا سے ناراضی ہو کر غصہ کی حالت میں نکلے"

رس، "حضرتِ یونس اگرچہ خدا کے نیک بندستھے مگر طبیعت کے لحاظ سے کمزور اور مزاح کے اعتبار سے سخت بھی واقع ہوئے تھے۔ جب ان پر نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھہ والاگی تو اٹھانے کی ملاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو میں آمار کر کھینچ دیا اور بجاگ نکلے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام او لو العزم سپنیروں کی فہرست سے نکال دیا" پہنچام باتیں سابقہ مباحثت میں علیائے مدعوٰ کے اقوال اور تفسیری عبارات

میں بالتصريح ذکر کی گئی ہیں ماس کے علاوہ علامہ سید آلوی اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہم کی عبارتوں میں فردی تین باتیں یہ بھی ہیں :

ذلیل حضرت یونس اذن خداوندی کے بغیر اپنے مقام چھوڑ کر پیٹے گئے تھے ॥ وَكَانَ ذَهَابَهُ هَذَا صِنْعُهُ هِجْرَةٌ عَنْهُمْ لَكَنَّهُ لَهُ دِيرَى يَدِهِ ॥

(روح المعانی)

(ب) حضرت یونس پر پیدا جب تھا کہ وہ اپنے مقام میں تبلیغ دیں اور دعوت حق پیش کرنے پر قائم و دائم رہتے اور اپنے مقام سے نہ ہٹتے ॥ راجح، لیکن وہ دعوت حق اور تبلیغ دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ یہ صبری کی وجہ سے یہ واجب کام چھوڑ کر پیٹے گئے ॥ فلَمَرِي صِبْرًا عَلَى دُعَاءِهِمْ - وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرِ عَلَى الدُّعَاءِ - تغیر کر پیر

(معجم، ص ۱۵۸)

**مولانا قاضی مظہر حسین خاں اور وہرے مقررین سے ایک سوال!**

کیا ان تصریحات کی روشنی میں ہم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، اور مولانا محمد عوادی کے دوسرے مقررین حضرات سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اور پر کی یہ تمام باتیں جو علمائے سلف اور ائمہ تغیر کی عبارتوں میں بصراحت ذکر کی گئی ہیں مکونا ہیں اور کمزوریاں ہیں یا نہیں؟ اور ان میں سے اکثر کا تعلق فرضیہ رسالت کی ادائیگی سے تھا یا نہیں؟ مثلاً اللہ کی عرفت سے حکم چہار ملنے پر حضرت یونس کا یہ پس و پیش اور اتجہد کر ہل امرِ اللہ با خراجی؟ اور ہل سبحانی؟ یا یہ کہ فہمنا انبیاء را قومیار غیری۔ اسی طرح اذن خداوندی کے بغیر اپنے محل سے یہے صبر سوکر ہٹنا۔ حالانکہ ان

پر فرض اور لازم ہی تھا کہ اپنی جگہ دعوت حق دینے اور تبلیغ دین کرنے پر قائم رہتے کیا  
یہ تمام چیزیں وہ کوتاہیاں نہیں ہیں جو فرضیہ رسالت کی ادائیگی سے متعلق ہیں؟ اور  
کیا یہ کمزوریاں اور کوتاہیاں حضرت یونسؑ کی طرف علمائے صفتؓ کی سابقہ عبارتوں  
میں بصیرات مسوب نہیں ہیں؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب اثبات میں ہو تو یقیناً  
اثبات میں ہے، تو پھر جواب مولانا قاضی نظیر حسین صاحب اور درسرے معتبر صنیع  
حضرات کے ان اعتراضات میں کیا وزن رہ جاتا ہے کہ:

”حضرت یونسؑ سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہوتی  
ہے، کیونکہ ہبی سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ہونا محال ہے۔“  
”اور کسی بھی مستند عالم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں سمجھی ہے۔“

کیا یہ تمام علمائے صفتؓ اور انہی تفسیر آپ کے نزدیک مستند علماء نہیں ہیں  
جہنوں نے حضرت یونسؑ کی طرف مذکورہ بالا تمام کوتاہیاں اور کمزوریاں مسوب کی  
ہیں؟ اور جب آپ کے نزدیک اس قسم کی کوتاہی محال ہے تو مذکورہ انہی تفسیر  
اور علمائے صفتؓ نے کس طرح حضرت یونسؑ سے نحال قسم کی کوتاہیوں کا صادر  
ہونا تسلیم کر لیا اور انکی طرف ان کوتاہیوں کی نسبت کر دی؟

پھر آپ کا یہ ارشاد کہ: ہبی سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ہونا جرم اور  
گناہ ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کا اختیار رکھتے ہیں، وہ حصت انبیاء کے منکر اور گناہ  
ابل اہلست سے خارج ہیں۔ کس طرح صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ جبکہ عروہ ابن ذہب رضی اللہ  
بن جبڑہ حسن بصری اور درہبیب بن منبهہ جیسے حباب علم اور اساطین امت اس کے برعکس  
اس بات کے قابل ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوتاہیاں نہ صرف یہ کہ انبیاء علیهم السلام

سے ہر سکتی ہیں بلکہ ہوتی ہیں ہے اور علامہ آلوسی اور امام رازی رجہہ اللہ تعالیٰ اسی کے  
قابل نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک یہ سب حضرات عصمت انبیاء کے محکماد  
گروہ اپلیست نت سے خارج ہیں؟ — نیز آپ کے اس اعتراض میں بھی کوئی جان  
نہیں ہے کہ: «حضرت یونسؑ خدا کے مقرر کردہ وقت سے قبل بے صبری کی وجہ سے نت فر  
سے نہیں ہٹتے تھے» یہ کیونکہ اگر وہ وقت سے قبل بے صبری کی وجہ سے نہیں ہٹتے تو  
امام حنز الدین رازیؑ یہ کس طرح کہتے ہیں: *فلا جل هذالظن لحربي صبر على*  
*دعائهم و كان الواجب عليه ان ليس في على الدعا عما يضر قرآن كلامه كي اس*  
*ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ فاصحیو بالحکم رتبہ ولا تکن کصاحب الخویت ہے پانے*  
*رب کے حکم کا انتظار کرو۔ اور محضی والے پسمندر یونسؑ کی طرح مت ہو۔» بہر حال یہ  
حقیقت بجا تے خود مسلم ہے کہ علمائے سلفؓ اور ائمۃ تفسیر نے حضرت یونسؑ کے متعلق  
یہ تسلیم کیا ہے کہ ان سے کرتا ہیاں ہوتی تھیں اور ان کا تعلق فرضیہ رسالت کی اور ایگی  
کے سوا کسی چیز سے نہ تھا تو مولانا مودودی کا یہ کہنا کہ: حضرت یونسؑ سے فرضیہ رسالت  
کی اور ایگی میں کوتا ہیاں ہو گئی تھیں۔ علمائے سلفؓ کی تصریحات کے باتكل مطابق  
ہے نہ کہ فنا لفت۔*

### کیا انصاف کا تعااضد یہی ہے؟

ہماری سمجھ سے یہ بات یقیناً بالاتر ہے کہ آج وقت کے یعنی تنگ نظر حضرات  
جب مولانا مودودی کی تصانیف میں ہمیں سی بات اپنی رائے اور نظریہ کے خلاف  
دیکھتے ہیں تو ان کے اسلوب خانے مولانا کے خلاف حرکت میں آجائتے ہیں اور کفر، منق  
اور ضلالت کے فتووال کی گولہ باری سے ان کے ذمہ بی دار الافتخار گونج اٹھتے ہیں اور

مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو کبھی توہین انہیاد کا مجرم ٹھیرا شے ہیں اور کبھی عصمت  
الانہیاد کے منکر۔ لیکن جب وہی یاتمی دوسروں کی عبارتوں میں بھی ہوئی طبقی ہیں تو ان  
کی قدر میں نگاہ ہیں نہ ان کی گراہی پڑپتی ہیں، وہ ان کو توہین انہیاد کے مجرم ٹھیرا  
سکتے ہیں اور نہ ان کو عصمت الانہیاد کے منکر قرار دے سکتے ہیں، بلکہ ان کی عبارتوں  
میں دو راز کا رہا یہیں گھر لیتے ہیں تاکہ وہ اغتراب کا صور دنہ بن سکیں۔ کیا انہیات کا تمام  
یہی ہے؟ آخر ان حضرات کے پاس کوئی معقول دلیل ہے جن کی بنا پر ایک یہی جرم کی  
پاداش میں مولانا مودودی کو تو گردون ندفی سمجھتے ہیں۔ اور بعض دوسرے علماء کو لائق  
احترام تصور کرتے ہیں؟ فَهَلْ عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمٍ فَيُخْرِجُوهُنَا؟ أَمْ يَتَّبِعُونَ  
**آهَوَآءَهُمْ تَحْمِيلُونَ مَيْلًا عَظِيمًا؟**

نبی سے کوتاہی کا ہونا جرم اور گناہ نہیں ہے

درست بات یہ ہے کہ ان حضرات نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا ہے کہ نبی  
سے کوتاہی یا اجتہادی نظرشوں کا سزدہ پیونا، گزوہ رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی  
سے متعلق کیوں نہ ہو، نہ کوئی جرم ہے اور نہ گناہ۔ بلکہ یہ پیشہ کے لوازمات ہیں جن سے  
انہیا علیہم السلام مقصوم نہیں ہیں، نہ انہیاد کی طرف اس طرح کی کوتاہیوں کی نسبت کرنے  
سے انسان عصمت الانہیاد کا منکر گردانا جاسکتا ہے کیونکہ یہ بات تماں ایں است  
کے زدیک مسئلہ ہے کہ زلات، تقصیرات اور خطاؤں سے انہیا علیہم السلام مقصوم  
و محض نظر نہیں ہیں۔ ان کی عصمت اگر ہے تو گناہوں سے ہے، نہ کہ زلات اور کوتاہیوں  
سے۔ چنانچہ مسئلہ عصمت الانہیاد میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ لہذا مولانا مودودی  
نے اگر حضرت یونس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ: ان سے فرائض رسالت کی ادائیگی

میں کرتا ہیاں ہرگئی تھیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مولانا مودودی کو گردہ اہل السنۃ سے خارج کیا جائے یا ان کو عصمت الانبیاء کا منکر قرار دیا جائے بلکہ یہ وہی بات ہے جو متقدِر میں علمائے تفسیر کرتے چلے آئے ہیں۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ اس فاقہ میں اگر حضرت یونس علیہ السلام سے کوئی کرتا ہی سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ یا اس کا تعلق رسالت کے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی سے نہ ہوتا تو حضرت یونس کو بغیر کسی قصور اور کرتا ہی کے جس کا تعلق اس کے منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی سے ہو، کیونکہ محض کے پیٹ میں ڈالا جاتا۔ اور اگر وہ نیز و تقدیر میں ذریعہ سے معاف نہ مانگتے تو قیامت تک محض کے پیٹ میں ڈپرے رہتے ہو مولانا کان من المُسْتَحِين للدِّيْن فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الْجِهَنَّمَ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف متعدد نکز فرمیدی اور کرتا ہیوں کی نسبت پائی جاتی ہے جس سے انکار کرنا برا مشکل امر ہے۔

اب اگر ان کرتا ہیوں کی نسبت کرنے سے عردو این زبیر، سعید بن جبیر، حسن بصری۔ شعبی اور وہب بن منبه اور ابن عباسؓ و ابن مسعود رضی اللہ عنہم الجیعینؓ جیسے اکابرین اقتضت تو یہی انبیاء کے مجرم نہیں ظیہرے ہیں اور رحمتِ انبیاء کے منکر قرار پڑتے ہیں۔ تو آخر ایک مولانا مودودی ان کرتا ہیوں کی نسبت کرنے سے کیوں نہیں انبیاء کے مجرم یا عصمت الانبیاء کے منکر قرار پائیں؟ وہ نہ پھر جن لوگوں نے حضرت یونسؓ کی طرف ذنب کی نسبت کی ہے۔ وہ تو بطریق اولیٰ عصمت انبیاء کے منکر اور تو یہی انبیاء کے مجرم قرار پائیں گے۔

کیا علامہ آلوسیٰ اور امام مجاہد بھی عصمتِ انبیاء کے منکر ہیں؟  
 اس طرح علامہ سید آلوسیٰ بھی تو ہی انبیاء کے فرکب اور عصمتِ انبیاء کے  
 منکر نہیں گے۔ کیونکہ انہوں نے بھی یہاں ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت یونسؑ  
 کی طرف "زنب" (گناہ) کی نسبت کی ہے۔ چنانچہ آیت اُنی کہتُ مَنْ حَمَلَ الظُّنُوبَ  
 کی تفسیر میں وہ بحثتے ہیں:

وَهُذَا اعْتِرافٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَنْبِهِ وَأَظْهَارَ تُوبَتِهِ  
 لِيُفَرِّجَ عَنْهُ كَرْبَتِهِ۔ اهـ (رج، ۱۷)

حضرت یونسؑ کا یہ قول اپنے گناہ کا اقرار اور توبہ کا اظہار ہے تاکہ  
 اس کی درجہ سے ان کی تکفیف دُور ہو جائے۔

اگر امام مجاہدؓ بھی تو ہی انبیاء کے فرکب اور عصمتِ انبیاء کے منکر نہیں گے  
 کیونکہ انہوں نے بھی قصہ حضرت یونسؑ سے متعلق آیت: وَهُوَ مُلِيمٌ کی تفسیر  
 "ذنب" کے ساتھ کہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَهُوَ مُلِيمٌ کی تفسیر میں  
 فرماتے ہیں: قَالَ مُجَاهِدٌ مَذْنُوبٌ لِمَ جَاءَهُ ذَنْبٌ فَكَہا ہے کہ ملیم کے معنے گنہگار کے  
 ہیں: (رج ۱۲ ص ۳۸۰)

لیکن اگر مفترض ہے حضرات کے نزدیک امام مجاہدؓ اور علامہ سید آلوسیٰ زنب  
 اور گناہ کی نسبت کرنے پر نہ تو ہی انبیاء کے فرکب ہرئے ہیں اور نہ عصمتِ انبیاء  
 کے منکر۔ تو مولانا مودودی کو بھی کوتاہیوں کی نسبت کرنے پر نہ تو ہی انبیاء کے فرکب  
 قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ عصمتِ انبیاء کا منکر، کیونکہ نبیؐ سے کوتاہی کا ہونا جو  
 اور گناہ نہیں ہے۔

## ایک اشکال اور اس کے جوابات

مکن ہے مولانا مردودی کے مقررین حضرات ہمارے مندرجہ بالا معرفت  
پر بیہ اشکال پیش کریں کہ ائمۃ تفسیر کے اقوال اور عبارات میں حضرت یونسؑ کی مفر  
جو خند کرتا ہیاں غسوبؑ کی کوئی بھی ان میں سے بعض کرتا ہیوں کی نسبت کو مخفی  
علماء تفسیر نے صحیح تسلیم نہیں کیا ہے بلکہ غلط قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید  
آل الحسینؑ کی درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

وَقَبِيلٌ مُعَاذِنْبًا لِلرَّوْيَهِ - وَحَكَى فِي هَذِهِ الْمُغَاضِبَهِ كَيْفِيَاتُ وَ  
تَعْقِيبِ ذَالِكَ فِي الْبَحْرِ بَانَهُ بِجَبِ اطْرَاحِ هَذَا الْقَوْلِ أَذْ

لَا يَنْاسِبُ ذَالِكَ بِمَنْصَبِ النَّبِيَّةِ أَهْرَانٍ، اصْلَفَ

وَبَعْضُ أَئِمَّةِ تفسیر نے معاذنْبؑ سے خدا پر غضبناک ہونما رادیا ہے۔  
پھر اس میں بہت سی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ مگر محمد بن حیثمؓ میں اس کو رد کر کے  
کہا گیا ہے کہ یہ توجیہ اس میں غلط ہے کہ یہ معنے شان انبیاء اور منصب  
نبوت کے ساتھ مناسب نہیں (بلکہ بہت فروتنہ میں ہے)

وہ میر کر صحابہ رضا شاہزادہ تابعینؓ کے اقوال میں بھی حضرت یونسؑ کی طرف اس بات  
کی نسبت پائی جاتی ہے کہ "وَهُنَّا پر غضبناک ہوئے تھے۔" تو اس کے لیے صاحب بحر  
حیثمؓ نے یہ تاویل پیش کی ہے کہ ان کی عبارتیں میں اگر معاذنْبؑ کے معنی مخاضیاً لرتہ  
بیان کیے گئے ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ "وَهُنَّا پر غضبناک ہوئے تھے" بلکہ مراد یہ  
ہے کہ "قوم پر خدا کی رضا کے لیے غصہ ہوئے تھے" یعنی درجہ میں لام معاذنْبؑ  
کا صدر نہیں بلکہ تعلیل کے لیے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وَيُبَيِّنُ أَن يَأْوِلَ الْمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِن الصَّدَارَ كَالْحَسْنُ وَ  
الشَّعْبِيُّ وَابْن جُبَيرٍ وَغَيْرِهِمْ مِن الْتَّابِعِينَ وَابْن حَسْدُورُ  
مِن الصَّحَافَةِ بَانِ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلَهُمْ "لِرَبِّهِ" لِأَجْلِ رِبِّهِ  
وَحُمْيَةِ لِدِينِهِ - فَاللَّام لَامِ الْعَلَةِ لَا لَامُ الْمُوَصَّلَةِ لِلْمَقْوُلِ  
يَهٌ" ۖ ۗ اَهٌ رَوْحَ المَعَانِي (ج ۷، اص ۸۳)

در حسن بصریٰ، امام شعبیٰ، ابن جبیر اور دوسرا تے تابعین یا احمد بن عبد اللہ  
ابن سحوڑ سے جو یہ توجیہ منقول ہے کہ "معاضاً" کے معنی "منعاضاً" رہتہ  
ہیں تو مناسب یہ ہے کہ اس میں یہ تاویل کی جائے کہ لرتبہ میں لام تعذیل  
کے لیے ہے نہ کہ منعاضاً کا صدر ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضرت  
یونسؐ غصہ تراپی قوم پر پوئے تھے مگر غرض خدا کی رضا جوئی اور دین کی  
حیاتی تھی نہ کہ کچھ اور۔"

اوخر خود علامہ سید اکو سیؒ نے بھی اس نسبت کو یہودیوں کا خود ساختہ زخم قرار دیا  
ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

وَكَوْنُ الْمَرْاد مَعْاضاً لِرَبِّهِ عَنْ دِجلٍ مَفْتَحِي فَرَعْمَ الْيَهُودِ فَإِنْ  
زَعْمُوا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرَهُ أَن يَذْهِبَ إِلَى نَيْنُوِي وَيَنْذِرَ أَهْلَهَا  
فَهَرَبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْ وَلَا يَخْفِي أَنْ مَثْلَ هَذَا الْهَرَبُ حَمَّاجِلٌ  
عَنْهُ الْأَنْجِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْيَهُودُ قَوْمٌ بَحْتٌ" ۖ ۗ اَهٌ  
روح المَعَانِي (ج ۷، اص ۸۵)

دیکھیں کہ "معاضاً" سے مراد خدا پر غصہ بننا کہ ہونا ہے نہ کہ یہود کا مصتاً۔

سہرود کہتے ہیں کہ حضرت یونسؐ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی میتوں کے پاس جا کر خداوب  
الہی سے ڈر لئے کا حکم کیا تھا۔ مگر وہ حکم کی تعیل نہ کرتے ہوئے بجا گئے۔  
لیکن یہ حقیقت کبھی سے پوشیدہ نہیں کہ تعیلِ حکم سے بجاگ جانا انبیاء کی شایع  
شان نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقام بند ہے۔ اور یہ پروائی بہتان تراش  
قوم ہیں۔“

خلاصہ یہ کہ حضرت یونسؐ کی طرف اس بات کی نسبت صحیح نہیں ہے کہ وہ  
خدا پر غصہ ہوئے تھے اور نہ معاشرہ سے خدا پر اس کا غضبناک ہزما مراد ہے۔ اور  
سلطگی کی عبارتوں میں جو حضرت یونسؐ کی طرف اس کی نسبت پائی جاتی ہے تو وہ مغل  
ہیں۔ لہذا سلطگی کی ذکر کردہ عبارتوں سے اس بات کی تائید نہیں ہو سکتی۔ کہ حضرت یونسؐ  
سے فرعیہ رسالت کی ادائیگی میں فی الواقع کو تباہیاں ہو گئی تھیں یہ جیسا کہ مولانا مودودی  
کہہ رہے ہیں۔

### جوابِ اول

اس اشکال کے مختلف اور متعدد جوابات دیئے جاسکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے  
کہ ہم پہلے بالتفصیل عرض کرچکے ہیں کہ آپت متعلقہ تفسیر میں علماء تفسیر سے ہیں  
تجھیات منقول ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت یونسؐ اپنی قوم پر غصہ ہوئے تھے۔ دوسرا  
یہ کہ باوشاہ وقت خرقل پر غصہ ہوئے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے رب پر غصہ ہوئے  
تھے۔ یہ تینوں تجویبات صاحب روح المعانی اور دوسرے بہت سے مفسرین  
کی تفسیروں میں صاف طور پر ذکر کورہیں۔ صاحب بحر محبہ اور علامہ سید آلوسیؒ نے اگر  
روکیا ہے تو صرف تیسرا تجویہ رکھا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی اور دوسری

توجیہ اُن کے نزدیک بھی صحیح ہیں جس طرح کہ دوسرے الٰہ تفسیر نے ان کو صحیح تسلیم کی ہے۔ امام بغوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیری توجیہ کی تردید اور پہلی اور دوسری توجیہ کو صحیح تسلیم کرنے کے متعلق تحریر فرمایا ہے:

وَالسَّارِيَاتُ الْمُتَقْدِمَةُ أَوْلَى بِالْجَاهِ الْأَنْبِيَا وَمِنْ أَنَّهُ ذَهِبَ  
مَعَهُنَّا لِقَوْمَهُ أَوْ لِلْمَلَكِ۔ اهـ (معالم التنزيل)

وہ پہلی دو تاویلیں شانِ انبیاء کے ساتھ زیادہ مناسب ہیں وہ یہ کہ  
حضرت یونسؐ قوم یا باشاد وقت پر خدا نے ہو کر چند گھنٹے تھے ॥

اور جب یہ دونوں توجیہیں صحیح ثابت ہو گئیں تو ان کی تفصیلات میں اسباب غصب کی تشخیص کے بارے میں ابن عباسؓ سے جو روایات پہلے ذکر ہو چکی ہیں کیا اس بات کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ حضرت یونسؐ سے فرضیہ رسالت کی ادائیگی میں کوئا ہی سہولت نہیں ہے آخر حضرت شعبا علیہ السلام کے ذریعہ جہاد کا حکم ملنے پر حضرت یونسؐ کا یہ فرمانا گکہ کیا خداونے خاص میرا نام یا ہے یہ یا خاص میرے نکلنے کا حکم کیا ہے ؟ اور کیا یہاں دوسرے انبیاء نہیں جو جہاد کے لیے جائیں ؟ اور یہ کہ "مجھے اکیلا کیوں مجبور کیا جاتا ہے ؟" — اور یہاں خداوندی کے بغیر اپنا مشترق چھوڑ کر بھاگنا ۔ جیسا کہ روح المعانی ج، اصل ۸ میں مذکور ہے۔ اور قرآن کریم کے العاطل اذائق الی الغلک المشحون میں بھی مفترج ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی ظاہری شکل و صورت کے اقتدار سے تخلیل حکم میں پس و پشت کرنا، اور کوئا یہاں نہیں ہیں ؟ اور اُن نام روایات میں صریح ہے پر حضرت یونسؐ کی طرف منسوب نہیں کی گئی ہیں جو اس قصہ کی تفصیلات اور اسباب غصب کی تشخیص کے بارے میں تعلیل کی گئی ہیں ؟ نیز ان تمام کوئا ہیوں کا تعلق فرانچی رسالت

کی ادائیگی سے نہیں ہے بلکہ حکمِ جہاد کی تعمیل ان کے فرائضِ رسالت میں داخل نہیں تھی۔ اور یہ نام باتیں جو حضرت یونس نے اس موقع پر کہی تھیں اس کی ادائیگی میں کوتاہبیاں نہیں تھیں؟ اگر ان نام سوالوں کا جواب اثبات میں ہو، اور تیناً اثبات میں ہے تو اس سے بڑھ کر اس بات کے ثبوت کے لیے کہ «حضرت یونس سے فرائضِ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہبیاں ہو گئی تھیں؟ اور کیا دلیل پیش کرنی چاہیے؟»

### جواب ووم

دوسرے جواب یہ ہے کہ صاحب بحر محظوظ اور علام راولسی نے جو تبریزی توجیہ کی ویدکا اس سے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآنی نظرِ معاضباً میں سے معاضباً لوتیہ مرا دینا اور یہ کہنا کہ «معاضباً» میں حضرت یونس کی طرف جو غنیظ و غصب نسبت کیا گیا ہے اس سے قرآن کی مراد یہ ہے کہ حضرت یونس خدا پر غصبناک ہوئے تھے؟ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ شانِ انہیاں کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اور کلام اس میں نہیں ہے نہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس غنیظ و غصب سے خدا پر ہی حضرت یونس کا غصبناک ہونا مراد ہے کلام صرف اس میں ہے اور اسی کا ہم دعویٰ بھی کرو ہے ہم کہ عملائے ملک اور امیر تفسیر نے «معاضباً لوتیہ» کی تفسیر «معاضباً لوتیہ» کے ساتھ کی ہے، گو قرآن کریم کی مراد نہ ہو۔ اور ممکنہ تفسیرِ عملائے ملک ہی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا پر غصہ ہوئے تھے۔ اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو کبھی نہیں جھپٹایا جا سکتا اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ملک کے اقوال میں «معاضباً لوتیہ» کی تفسیر میں «معاضباً لوتیہ» کے معنی صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں جس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ علمائے ملک اور امیر تفسیر نے حضرت یونس کی فرضیہ اس بات

کی نسبت صحیح تسلیم کی ہے کہ وہ اپنے رہب پر غصہ ہوتے تھے، اگرچہ مخالف ہیا ہو کے لیے تفسیر کی حیثیت سے علامہ آلوسی اور صاحب بحر محیط اسے تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآنی نعمت "معاوضیاً" کی پر مراوینی ہے کیونکہ یہ شان انبیاء علیهم السلام کے خلاف ہے۔

وہاں پر کہ صاحب بحر محیط نے سلفت کے اس قول میں پر تاویل کی ہے کہ "معاوضیاً لرتبہ" میں لام تعذیل کے لیے ہے نہ کہ معاوضیاً کا صدر ہے اور معاوضیاً لرتبہ کے منتهی سلفت کے نزدیک یہ ہیں کہ حضرت یونس غصہ تو اپنی قوم پر پھرست تھے گرفرض اس میں خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی تھی اور دین حق کی جیبت بالہذا سلفت کی حیات میں بھی حضرت یونس کی طرف خدا پر غصہ ہوتے کی نسبت ثابت نہ ہوئی، تو اس کے متعلق یہ صفات لطفوں میں یہ کہتے ہیں کہ سلفت کی حیات توں میں اس تاویل کے لیے ادنیٰ سی گنجائش نہیں مل سکتی۔ اور یہ آن کے کلام میں تاویل نہیں بلکہ توجیہ الكلام بنا لای رضی بھے قائل ہی ہے۔

آخر سوچنے کی بات ہے کہ معاوضیاً لرتبہ میں اگر سلفت کے نزدیک لام تعذیل کے لیے ہونے کے صدر معاوضیاً کا۔ اور مراد ان کی یہ ہو کہ حضرت یونس کو غصہ تو قوم پر آیا تھا مگر اس غصہ کی وجہ خدا کی رضا جوئی تھی۔ جیسا کہ صاحب بحر محیط کہتے ہیں تو پھر ان کے کلام میں اس غصہ کے لیے "لرتبہ" کے سوار دہر سے اس باب کیوں بیان کیے گئے ہیں اور اس باب بھی وہ جو خاص خدا پر غصہ بنائی ہوئی کے ہی اس باب ہو سکتے ہیں یہ مثلاً: عربہ ابن زبیر، سعید بن جعفر وغیرہ کے قول میں معاوضیاً لرتبہ کے لیے سبب یہ بیان کیا گیا ہے:

ذہب عن قومه معاوضیاً لرتبہ اذ کشف عنہم العذاب لما

اوعدهم - اہ

وَحَذَرَتْ يُونُسٌ خَدَارِ غَضْبِنَاكَ هُوَ كَرْ قَومَ كُو اسْ بِيْسَهْ چَمُورْ كَرْ جَلْجَهْ كَهْ تَخَهْ  
كَرْ اسْ نَهْ قَومَ سَهْ خَدَابَهْ كَاهْ عَدَهْ كَيَا تَحَا - اوَرْ خَدَانَهْ خَدَابَهْ كَوَانَ پَرْ سَهْ  
الْحَمَالِيَاكَ

اوَرْ حَسَنَ بَصَرِيَّ کَے قول میں معااضِبَ الْرَّبِّیَّہ کے لیے جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ  
امام بَغْرَیْ کے الفاظ میں یہ ہے :

إِنَّمَا عَاصَبَ رَبَّهُ لِأَجْلِ إِنَّهُ أَهْرَبَ بِالْمُسِيرِ إِلَى قَوْمَهُ لِيَنْتَهِمْ  
بِأَسْهَدِ وَيَدِ عَوْهَمِ إِلَيْهِ فَشَأْلَ رَبَّهُ أَنْ يُنِظِّرَهُ لِيَتَاهِبَ لِلشَّعُورِ  
إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُنِظِّرْ فَذَهَبَ معااضِبَ اہ

وَحَذَرَتْ يُونُسٌ اسْ وجہ سے خَدَارِ غَضْبِنَاکَ هُوَ تَخَهْ کَهْ خَدَانَهْ اسْ کَوْ  
قَومَ کَے پَاسْ جَا کرْ عَذَابَ الْهَنِیَّ سَهْ ڈَرَانَهْ اوَرْ دَعَوَتْ پَشِّنَ کَرَنَهْ کَا حَکْمَ کَیَا  
تَحَا - پَسْ اسْ نَهْ تَيَارِی کَرَنَهْ کَے لیے مَهْبَتْ مانگی جو اُسَهْ نَهْ مَلِی - اسْ بِيْسَهْ  
اپنے رب پر وہ غَضْبِنَاکَ هُوَ کَرْ جَلْجَهْ کَهْ

کیا کئی اللَّهُ کا بندہ ان عبارات پر نظر کر کر یہ کچھ کی جرأت کر سکتا ہے کہ  
معااضِبَ الْرَّبِّیَّہ میں لام تعلیل کے لیے ہے او غَضْبَ سے آن کے اس قول میں قوم  
ہی پر غَضْبَ مراد ہے۔ لیکن اس غَضْبَ کی وجہ خدا کی رضا جوئی کتھی او رہیں کی جھیت!  
ماشا و کلا۔ بلکہ یہ عبارات صاف تبلارہی ہیں کہ سلفتؒ نے یہ وجوہات او رہا ب  
خَدَارِ غَضْبِنَاکَ ہونے کے لیے بیان کیے ہیں نہ کہ خدا کی رضا جوئی کی غرض سے قوم پر غَضْبِنَاکَ  
ہونے کے لیے۔ لہذا سلفتؒ کی عبارتوں میں یہ تاویل کوئی صیغہ تاویل یا توجیہ نہیں بلکہ

توجیہ البکلام بحال ایرضی یہ ماثلہ ہے۔

### جواب سوم

اُسکا مذکور کا تیرا جواب یہ ہے یا جاسکتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ عمل سے سلف کی عبارتوں میں صریح طور پر حضرت یونسؐ کی طرف بعض کو تاہمین کی نسبت کی گئی ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں اس فرض کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، ان چیزوں کی غور کرتے ہیں تو ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونسؐ سے کچھ نہ کچھ کو تاہمیاں ہو گئی تھیں اور ان کا تعلق بھی فرضیہ رسالت کی ادائیگی سے تھا۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو بطور عذاب یا بغرض مسرامد بطن الحوت“ کے نگ و تار کی جیل خانے میں ڈال کر ایک برات تک رہاں رکھا جانا۔ اور اگر وہ نسبی تقدیریں کے ذریعہ تو اس تماشہ پر کوئی معافی نہ مانگتے تو قیامت تک اسی جیل خانے میں پڑے رہتے گلو لا اندہ کان من المسبحین للبیث نق بطنہ الی یوم رسعنون“ قرآن کریم میں چار مختلف مقامات پر اس فرض کی طرف اشارات کیے گئے ہیں پوری تفصیل اگرچہ کسی ایک مقام میں بھی نہیں بیان کی گئی ہے تاہم اس کے بعض اہم حصے مزدود نقل کیے گئے ہیں۔ ذیل میں آن آیات کو سہ ذکر کرتے ہیں جن میں یہ اہم حصے نقل کیے گئے ہیں۔

۱۔ سوہہ یونسؐ میں قوم یونسؐ پر سے عذاب الٹھائیں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيْبَةً أَمْتَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونِسٌ  
لَا أَمْتَنُوا أَكْشَفُنَا عَنْهُمْ عَذَابُ الْخَزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

متعنا هم لی حبیت - دریں

”پس کیوں نہ ہوئی کری بستی کہ ایمان لاتی۔ پھر کام آماں کو ایمان دتا۔  
مگر یونس کی قوم جب وہ ایمان لاتی، تو اٹھایا ہم نے ان پر سے ذلت  
نما عذاب۔ دنیا کی زندگانی میں اور نفع پہنچایا ہم نے ان کو ایک وقت  
رمیتین اتک“

اس آیت میں اگرچہ اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت یونس سے کچھ  
کوتاہی ہو گئی تھی۔ مگر یہ بات تو اس میں بصراحت ذکر کی گئی ہے کہ جب قوم یونس  
ایمان لاتی تو ایمان ان کے حق میں نفع بخش ثابت ہوا اور عذاب کو ان پر سے اٹھا  
لیا گیا۔

اس مضمون پر جب ہم خود کرتے ہیں تو مسلم ہوتا ہے کہ قوم یونس کے ساتھ یہ  
معاملہ نزول عذاب کے حاصم قانون کے خلاف کیا گیا تھا کیونکہ اس قانون کی یہیک  
مسئلہ رفعہ یہ ہے کہ آثار عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتا۔  
وَ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ ذَفَّاً إِيمَانَهَا لَمْ  
تَكُنْ آمِنَةً مِنْ قَبْلِ

اسی قانون کے تحت جب فرعون آثار عذاب دیکھ کر ایمان لایا اور کہا کہ:  
آمِنَةٌ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُنِي أَمِنَتْ بِهِ بِنْوَاسُ أَشَيْلَ  
وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

وہیں نے اب یہ مان لیا کہ اس خدا کے سوا روزہ سرا کوئی معیود نہیں۔  
جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیکے ہیں اور یہی مسلمانوں میں سے ہوں۔

تو یہ ایمان اس کے حق میں نفع بخش ثابت نہ ہو جائے اور نہ فرق ہو سکے بجات  
نصیب ہوئی بلکہ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہٹا،  
الآن وقد تھیت قبیل و کنت من المضدین؟

۱۰۷۳ اب تو ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے رپورٹی عمر ناظر مان رہا اور  
تحا تو فساد پھیلانے والوں میں سے ہے؟

پس اگر قوم یونیٹ کے اس استشاد کے لیے وجہی الحیثیت یہی ہو کہ حضرت یونیٹ  
اذن خداوندی کے بغیر اپنا مستقر چھوڑ کر چلے گئے تھے اور حکم خداوندی کا انتظار نہ  
کرتے ہوئے از خود اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے جس کی وجہ سے رسول خدا ہی کے لیے  
قوم پر جو تمام محبت کر لیتا خردی تھا وہ پورا نہ ہوا تھا تو پھر اس آیت سے یہ بات  
بھی اشارۃ ثابت ہو گی کہ:

حضرت یونس علیہ السلام کا بے صیری کی وجہ سے اذن خداوندی کے بغیر اپنا  
مستقر چھوڑ کر جانا اگرچہ فی الحیثیت ایک گونہ بھرت کی غرض سے تھا۔ مگر چونکہ خدا کی  
طرف سے تاحال ان کو اس کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے ان کے مخصوص جبل کے  
پیش نظر، یہ ان کی ایک ایسی لغوش لور کرتا ہی شمار ہو گی جو ان کے فرائضِ رسالت کی  
اوائیگی میں کوتاہی سمجھی جاتے گی۔ کیونکہ ان کے ذمہ باریہ لازم تھا کہ وہ حکم خداوندی  
آنے تک تبلیغ دین، اور دعوتِ حق کے فرضیہ کی ادائیگی پر قائم رہتے۔ اور اس سے  
پہلے بطور خود اپنی جگہ سے نہ ہستے جیسا کہ امام فخر الدین برندی کی تصریح اس کے  
متعلق پہلے گزر چکی ہے۔ اور علامہ تید آریؒ نے بھی آیت اُنی کُنتْ حِتَّتْ | خطِ پیغمبر  
کے تحت اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

وَهَذَا اعْتِواْتُ مِنْهُ عَلِيٌّ دَالسَّلَامُ بِذِيْنِهِ وَأَظْهَرَ لِتَوْبَةِ  
لِيَضْرِجَ عَنْهُ كَوْبَتَهُ أَهْرَاجٌ، [اص ۳]

”بِير قول حضرت یونسؑ کی طرف سے اپنے گاہ کا اقرار اور توبہ کا انہار  
ہے تاکہ ان سے ان کی تکلیف نذر کی جائے ہے۔“

۴۔ سورہ انہیاء میں ارشاد ہے:

وَذَا السَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَلَمَّا آتَنَاهُنَّ لَكُنْ تَقْدِيرَ عَنْكُمْ  
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ آتَنَّ لَأَنَّهُ إِلَّا أَنْتَ سَجَانُكَ إِنِّي لَكُنْ مِنْ  
الظَّالِمِينَ فَإِنَّمَا يَعْصِمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَّالِكَ سَجِيْ  
الْمُؤْمِنِينَ۔ [الانہیاء]

”اور محصل والے کو جب وہ غصہ ہو کر چلا گیا پھر سمجھا کہ نہ پکر سکیں گے  
ہم اس کو۔ پھر کارا اندوہروں میں کہ تھیں ہے کوئی حاکم سوائے تیرے تو  
بے عیسیٰ ہے۔ تحقیق میں تھا گنہگاروں میں سے پھر سُن لی ہم نے اس کی  
پکار اور نجات دی اس کو اس گھنٹن سے اور یوں ہی ہم نجات دیتے ہیں  
ایمان والوں کو۔“

۵۔ سورہ الصافات میں ہے:

قَاتَ بُوْنَسَ لِكَنَ الرُّسِلِينَ إِذَا يَقُولُونَ إِلَى الْفُلُكِ الْمُشْحُونِ  
قَاتَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ قَاتَتْهُمُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ  
مُلُوكًا آتَهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَحْيِينَ تَلَبَّثَ فِي بُطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ  
يُبَعَثُونَ۔ [الصافات]

۱۔ اور تحقیق یونس ہے رسولیں ہی سے جب بھاگ کر پہنچا اس بھری  
کشتی میں۔ پھر قرعدڑ لوایا تو نکلا خطاوار پیز نگل لیا اس کو محصلی نے دکنیا کی  
وہ اندازم زدہ تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ دو یا دو کرتا تھا پاک ذات کو،  
تو زمپنا اسی کے پیش میں جس دلکش کر نہ کرے پھر ہم مُردے ॥

۲۔ اور سورہ قلم میں ہے:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَنْكُنْ لِصَاحِبِ الْجُوُرِتِ إِذْ نَادَنِي  
وَهُوَ مَكْفُظُونُ - لَوْلَا أَنْ ثَدَّا رَكَهُ بِعَمَدَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ لَكُنْدَ  
بِالْعَدَآدِ وَهُوَ حَذَّ مُؤْمِنُ -

۳۔ اب استقلال سے راہ رکھتے رہو اپنے رب کے حکم کی اورست ہو  
محصل والے زینبیر جیسے۔ جبکہ پکارا اس نے اور وہ خصہ میں بھرا تھا۔ اگر  
ذہنیت تا اس کو احسان اس کے رب کا، تو پیش کیا گیا ہی تھا پیشیل میدان میں  
در آن حالیکہ وہ خدمت کر رہ تھا ॥

یہ آیات صاف تبلاری ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو چند دن یا ایک عرصہ تک  
محصل کے پیش میں جو بطور قید رہنا پڑتا تھا، یہ کسی بغرض اور کہتا ہی سزا دہوٹے بغیر  
نہ تھا، بلکہ بغرض اور کہتا ہی کا ہی نتیجہ تھا یہ بات بھی ان آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ  
اس سے بے صبری کی بھی ایک کوتا ہی ہو گئی تھی۔ چنانچہ سورہ قلم کی آیت سے واضح ہے  
اور یہ کو تماہیں لا محالہ رسالت کے فرائض اور ذہن دار یوں سے ہی متعلق تھیں۔ ورنہ  
ان کو تماہیوں پر اس کو محصل کے پیش میں ڈال کر ایک عرصہ تک قید کر رکھنے کی آخری ضرورت  
تھی۔ پھر قید دہندے ہی ایسی کہ اگر وہ تسبیح و تقدیس میں سرورقت مشغول رہ کر معافی نہ

لذگت تو قیامت کے لیے بلن الموت کے تنگ و تاریک جل خانے میں پرے رہتے ؟ اس لیے  
ماننا پڑتا ہے کہ مولانا محمد عوادی کا یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فرمائی رسالت  
کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ باطل و بست اور قرآنی تعلیم کے سو فی صد طلاق  
ہے۔

### نبیا علیہم السلام کا صحیح مقام

اقتنو پر حضرات نبیا علیہم السلام کا احترام اور تعظیم بیشک فرض اور لازم  
بکھر جزو ایمان ہے۔ امداد کی شان میں معمولی قسم کی تربیت اور گستاخی بھی جب عدا ہو  
تو انسان کو دوسرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ لیکن اسلام نے پر چیز کے لیے ایک  
حد مقرر کی ہے جس سے تجاوز اسلام کی نظر میں محمود نہیں ہے۔ نبیا علیہم السلام کی  
تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ان کی قسمیم و احترام میں ناجائز حد تک غلوکر کے ان  
کو مقام بشریت اور درجہ انسانیت سے اٹھا کر مقام اُورتیت پر پہنچائیں۔ اور جو  
بشری کوتاہیاں ان سے بتقاہنائے بشریت سر زندہ ہیں ہیں اور قرآن و حدیث میں  
بالقریع مذکور بھی ہیں یا ان پر قرآن و حدیث دونوں قطعی دلائل کرتے ہیں ان سے بھم  
انکار کر بیٹھن۔ اور اس طرح قرآن و حدیث ہی سے انکار کرنے کا خطرہ مولیں۔

اس طرح کا غلوکر نہ کے لیے اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے لہوی  
سے اہل کتاب کی پوری امت شرک میں بدلہ ہوئی تھی۔ اور آج سے تقریباً چوڑہ سو  
سال پہلے قرآن کریم نے اپنے اعلان کے ذریعہ سے غلوکاریہ دروازہ پیشہ کے  
لیے بندگر کے رکھ دیا ہے کہ : قل یا هل ایکاَب لَا تَغْلُو افْ دِينِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا  
عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِيقَ۔ اسی کی تشریع کرتے ہوئے حضور

نے فرمایا ہے کہ : لَا تطْرُوْنِي كَمَا اطْرَتِ النَّصَارَىٰ الْمُسِيْحُ ابْنُ هُرَيْمٍ ” میرے  
خی میں مبالغہ آئیز مرح سرائی نہ کرو جس طرح کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے  
حق میں کرتے رہے ہیں ۔ ” اہذا مولانا مودودی کے اس کچھ میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ  
حضرت یونسؐ سے فرضیہ رسالت کی اوایل میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں ۔ ” کیونکہ یہ وہی  
بات ہے جو ان تمام آیات سے معلوم ہوتی ہے جو قرآن کریم کے مختلف متعامات میں اس  
قصہ کے متعلق مازل ہوتی ہیں اور سلف صالحینؐ کی تفسیری عبارتوں میں بھی یہ بات  
پاس تصریح ذکر ہو چکی ہے ۔

### حضرت یونس علیہ السلام اور حدیث رسول ﷺ

اس کے علاوہ قرآن کریم سے قلع نظر جب ہم اس معاملہ میں حدیث رسول ﷺ کی طرف  
رجوع کرتے ہیں تو بعض حقائق حدیث کی تصانیف میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں جن سے  
حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان سے بعض  
کوتاہیاں ضرور محرر ہوتی تھیں ۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر میں درج ذیل روایتیں  
جو رسمیت پذیر نقل کی ہیں :

۱۔ قَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ مِنَ الْبَحْرِ الْأَخْفَرِ حَوْتًا

يُشَقِ الْبَحَارِ حَتَّىٰ جَاءَ رَفِيقَنِّي يُونِسَ حِينَ الْقِيَ نَفْسَهُ مِنْ

السَّفِينَةِ فَأَوْجَى اللَّهُ لِي ذَالِكَ الْحَوْتَ إِنْ لَا تَأْكُلَ لَهُ لَحْمًاٌ وَ

لَا تَمْشِمْ لَهُ عَظِيمًا فَإِنْ يُوْنِسَ لَمْ يَسْتَكِرْ رَزْقًا وَلَا نَمَاءً بِطْنَكَ

تَكُونُ لَهُ سِجْنًا ۔ اه

۲۔ اب مسحور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ” بحر اخفر“ سے ایک مچھلی کو

حکم کرنے کے بیچا۔ جو دریافت کو حیرتی ہوئی حضرت یونس کے پاس آپ پریس  
نگل لیا اس کو جبکہ ڈال دیا اس نے اپنے آپ کو کشتی سے پس حکم کیا۔  
 تعالیٰ نے محصل کو کہ نہ کھاؤ یونس کا گوشت نہ اور نہ توڑو اس کی کوئی ہدایت  
کیونکہ یونس تہاری خواک نہیں۔ جبکہ حیرلائپٹ اس کے پیسے جیل خانہ ہے  
جس میں وہ ایک وقت تک رہے گا۔

۶۔ درودی محدث اصحاب عن محدثہ عن عبد اللہ ابن

رافع مولیٰ ام سلیمانہ قال سمعت ابا هریرہ کا یقتوں قال رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد اللہ جس یونس فی بطن  
الحوت اوحی اللہ الی الحوت ان خذ و لا تختدش لہ لحوار لا  
نكس لہ عظماً... و سیم فی بطن الحوت فسمعت الملائکة  
تبییحه فقلوا بارثنا انا نسمع صوتاً صنیعاً بارض غریبة  
قال ذالک عبدی یونس عصانی فجستہ فی بطن الحوت  
فی البحر رواه ابن حجریر۔ اہد رابن کثیر (۲ ص ۱۹۳-۱۹۷)

محمد بن انتہ نے ایک حدیث کے ذریعہ سے عبد اللہ ابن رافع سے یہ  
روایت کی ہے کہ میں نے ابوہریرہؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت  
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: «جب المتنے الیہ کیا کہ یونس  
کو محصل کلائیت میں ایک عرصہ کے لیے بذریعے تو اس نے ایک محصل کریں  
حکم کیا کہ یونسؑ کو بکڑ تو لو، مگر اس کے گوشت کو زخمی نہ کرو اور نہ اس کی ہدایت  
توڑو۔» حضرت یونسؑ نے محصل کے پیٹ میں جا کر تسبیح طریقہ شروع کر دی

تو ملائکت نے اس کی تسبیح سُن کر بارگاہِ الہی میں یہ عرض کیا کہ خدا یا اب ہم ایک انجی  
زمین میں کمزوری ایک آواز سُن رہے ہیں دیکھ کر ہے؟، اللہ نے جواب دیا:  
یہ سیرامندہ روشنی ہے۔ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے جس کی پاداش  
میں میں نے محفل کے پڑی میں اُسے دریا میں نہ کر رکھا ہے۔“

ابن جریر نے جس مسند سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے اس میں محمد بن الحنفی کے بعد  
ایک راوی بہم ذکر کیا گیا ہے جو شیخ ہے محمد بن الحنفی کا۔ اس بیان ہے مسکتا تھا کہ اس بہم  
راوی کی وجہ سے حدیث کے ثبوت سے انکار کیا جاتا۔ اس بنا پر ابن کثیر نے اس کے متعلق  
آنکھے چل کر کہا کہ:

در رواۃ البزار فی مسند، صن طریق محمد ابن الحنفی عن

عبدالله ابن رافع عن ابی هريرة فذ کر خود۔ اهارج ۲ ص ۱۹۶-۱۹۷

و بناءً عَلَى اس حدیث کو اپنی مسند میں محمد بن الحنفی کے طریقہ سے عبد اللہ  
ابن رافع سے عن ابی هریرہ روایت کر کے ابن جریر کی روایت کی مانند ذکر  
کیا ہے۔“

الغرض بزار کی روایت میں محمد بن الحنفی اور عبد اللہ ابن رافع کے درمیان دلیل بہم  
کا ذکر نہیں کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر کی روایت میں محمد بن الحنفی کو  
عبد اللہ ابن رافع کے درمیان جو جل بہم ذکر کیا گیا ہے وہ مزید فی متصل الاصناف  
کے قبیل سے ہے۔ اور یہ ثبوت حدیث کے لیے مختصر نہیں ہے۔ اس بنا پر ثبوت حدیث  
سے انکار کرنا یا اس پر حضوف کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔

## روایات مذکورہ کا ماحصل

مندرجہ بالا درج موقوت و مرفوع روایتوں سے جو امور بطور ماحصل ثابت ہوتے ہیں وہ درج ذیل تین امور ہیں:

۱۔ «حضرت یونسؐ کو ایک عرصہ تک پھیل کے پیٹ میں بطور قید رکھا گی تھا اور یہ «بطن الحوت» ان کے لیے ایک جیل خانہ مقرر کیا گیا تھا۔» یہ بات موقوت اور مرفوع درج موقوت کی روایتوں میں بصر احت ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ موقوت روایت میں لفظ و انتہا بطنک تکون لہ بھنا سے اور مرفوع میں لفظ فجستہ فی بطن الحوت سے ظاہر ہے۔

۲۔ «بطن الحوت» کے تنگ و تاریک جیل خانے میں حضرت یونسؐ کو ایک عرصہ کے لیے بند کر کے رکھنا ایک ایسی نافرمانی یا کوتاہی کی پاداش میں تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے متعلق تھی۔

اس کا ثبوت درج ذیل الفاظ سے واضح ہے جو مرفوع روایت میں آئے ہیں ذالک عبدی یوسفؐ عصانی فجستہ فی بطن الحوت۔ ۱۴

۳۔ «بطن الحوت» کے اس تنگ و تاریک جیل خانے سے حضرت یونسؐ کی رہائی کا حکم اس وقت صادر کیا گیا تھا جبکہ اس نے اپنی نافرمانی یا کوتاہی کا اعتراض کر کے بذریعہ تسبیح معافی مانگ لی۔ اور فرشتوں نے بھی اس کی رہائی کے لیے سفارش کر دی۔

اس کا ثبوت بھی حدیث مرفع کے ایک جملہ سے واضح ہے جو مانظہ ان کثیرؓ نے اس کے اخیر میں اس طرح ذکر کیا ہے:

قال فشفعوالله عند ذلك فامر الله الخوت فعذبه

ف الساحل - ۱۴ رابی کثیر - ج ۲ ص ۱۹۱ - ۱۹۲

و حضور نے فرمایا فرشتوں نے اس وقت اس کے سفارش کر دی پس اللہ نے عصی کو حکم کیا۔ لہو اس نے دیباکے کتابے اس کو ٹال دیا۔ آپ بتائیے کہ حضور کے ان ارشادات کی روشنی میں مولانا مودودی کا یہ کہنا کہ: «حضرت یونس سے فرانصیز رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں» ورنہ یہ یاد ہیں؟

بہر حال قرآن و حدیث کی تصریحات و اشارات اور علمائے سلف کی تفسیری عبارات کو سامنے رکھ کر اس بات سے انکار کرنا بڑا مشکل ہے کہ «حضرت یونس سے فرانصیز رسالت کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو گئی تھیں» جن کا تعلق لامحالہ آن کے فرانصیز رسالت کی ادائیگی سے تھا۔ اور سلفؓ کی عبارتوں میں یہ کوتاہیاں حضرت یونس کی طرف ہری طور پر شوب بھی ہوئی ہیں۔ تو اگر اس نسبت کی وجہ سے ہمارے اسلام نہ تربیت ان بیانوں کے ملکبہ قرار پاتے ہوں، اور حضرت الانبیاء کے حکمر، تو مولانا مودودی بھی اس نسبت کی وجہ سے نہ تربیت ان بیانوں کے ملکبہ قرار پاسکتے ہیں اور نہ حضرت الانبیاء کے منکر۔

یہاں تک جو کچھ معرفات پیش کیے گئے، ان سب کا تعلق مولانا قاضی نجفی ہے صاحب کے اختراض کے ان شقوق اور مخالفات سے تھا، جن میں یہ دھوی کیا گیا ہے کہ ان بیان علیم اسلام سے فرانصیز رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کا ہر نامحال ہے اور حضرت یونس سے اس ستم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی۔ اور جو لوگ اس قسم کا خذیدہ رکھتے

پی، وہ عصت الابیاد کے منکر ہیں۔<sup>۲</sup>

اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اعراض کی آخری شق پر بحث کریں، اور یہ معلوم کریں کہ آیا جناب مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے اسی شق میں تفہیم القرآن کی عبارت پر جو اعراض کیا ہے وہ اس پر واردِ بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر وارد نہیں تو کیوں نہ  
ذیل میں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

### اعراض کی آخری شق اور اس کا جواب

محترم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے اعراض کی آخری شق جس کو مذکور شد اعراض میں نہ رہ کے ہنوان سے ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ: «مودودی صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ قوم یونیٹ پر اتمامِ محبت کی قانونی شرعاً نظر پروری نہیں ہوتی تھیں یہ کیونکہ اس طرح بعثت کا مقصد ہی خوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعثت کا مقصد قرآنی اعلان کے مطابق بجز اتمامِ محبت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔» **رسلاً مُبَشِّرٰ بِغُنْيٰ وَ مُتَذَرِّبٰ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى أَنْهٰءِ جُجَّةٍ بَعْدَ الرَّسُولِ۔** الائمه

ہمارے نزدیک یہ اعراض مولانا مودودی کی اصل عبارت پر اصلاح و ارتقیہ اور اگر محترم قاضی صاحب قرآن کریم ہی سے «مشدہ اتمامِ محبت» کی تفصیل پر معلوم کر کے پھر مولانا مودودی کی عبارت پر غور کرتے تو شاید وہ اس طرح کے اعراضات کرنے اور سوالاتِ اٹھانے کی جو امت نہ کرتے۔ اور نہ قرآنی آیات کو اس طرح کے نئے معنے اور بے محل استدلالات کے نئے استعمال نہ کرتے۔ اس کے یہ مودودی سے کہم ہے کہ قرآن کریم سے «مشدہ اتمامِ محبت» کی حقیر تحریج پیش کریں۔ پھر اسی کی روشنی میں یہ معلوم کریں کہ مولانا مودودی کی اصل عبارت پر محترم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے

کا اختراض دار و ہو سکتا ہے یا نہیں۔

### مسئلہ انتہامِ محبت کی مختصر تشریح

قرآن کریم کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف نبیوں کو جو سزا میں بصورتِ عذاب دی گئی ہیں یا وہ عذاب کیستھی قرآنی گئی ہیں، آسمانی شرائی اور الہامی کتب کی رو سے وہ سزا اور عذاب دو قسم کا ہے۔

ایک قسم کا عذاب رسم ہے، جو قوموں پر ان کی نافرمانی اور خدائی قوانین سے بخارت احتیاک کرنے کی پارادیش میں دنیا میں نازل ہوا ہے۔ اس عذاب کو قرآن کی صلطانی میں عذاب الحیوۃ والدنیا یعنی دنیوی عذاب کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا نام حبدیدہ اصطلاح میں "مکافاتِ عمل" بھی ہے۔

دوسری قسم کا وہ عذاب ہے جو دنیوی زندگی کے اختتام پر عالم آخرت میں انسان کو فاسد عقائد اور سیاست الاحمال کے پدر لئے دیا جاتا ہے۔ اس عذاب کی ابتداء حلم بزرخ میں عذابِ قبر سے ہوتی ہے اور اس کی آخری کڑی عالمِ حشر میں عذابِ جہنم ہے جو کفار کے حق میں داثم اور ابدمی ہے۔ اور گنہگارِ مُون بندوں کے حق میں محدود و ادمر قوت۔ قرآن کریم میں اس عذاب کو "عذابِ الآخرة" کہا گیا ہے۔ اور اسی کا نام عربِ عام میں "عذابِ آخر دی" ہے۔

یہ بھی قرآن کریم کے مطابعہ سے واضح ہے اور انسانی تاریخ اس پر تطبی شہادت دیتی ہے کہ جب کبھی نافرمان قوموں کو خدا نے دنیا میں عذابِ دنیا چاہا ہے تو اس سے پہلے ان کے پاس اپنا ایک نبی اور رسول بھی بھیجا ہے تاکہ انہیں راوی حق و رحماتے اور

اُس راست پر چلتے اور گھاڑن ہونے سے دیکے جس پر چلتے کا آخری انجام بلکہ اور تباہی ہو۔ اس طرح اگر ہر بی اور سول نے اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور حق و باطل کے درمیان واضح طور پر خطا ایسا زیکر کر انہیں اپنی طرح آگاہ کر دیا کہ اگر صحیح روئی اختیار کر کے حق اور صداقت کی پیروی کر دے گے تو ہماری بھی کامیابی ہو جائے اور ہمارا سے پٹک کر جب خدا کے پاس چاہو گے تو ہماری بھی ابدي آرام دراحت کا وہ مگر تمہیں ملے گا جس کا نام جنت ہے۔

لیکن اس کے برخلاف اگر تم نے خلط روئی اختیار کیا اور حق و صداقت کی بجائے باطل کی پیروی اختیار کی تو ہماری بھی تباہی اور بلکہ اور جب یہاں سے پٹک کر خدا کے پاس چاہو گے تو ہماری بھی تم کو ابدی رنج و غم کا وہ مگر ملے گا جس کا نہیں ہے۔ یہ چہہ دو اقسامِ جنت جو بخشت انبیاء کا مقصد رہا ہے اور جس کے بغیر خدا نے ہماری زندگی میں بھی کسی کو خذاب نہیں دیا ہے۔ اور عالم آخرت میں بھی اس اقسامِ جنت کے بغیر کسی کو خذاب نہیں دیا جائے گا۔

### خذابِ دنیوی کے یہے ایک قانونی شرط

راذِ خداو مری کے بغیر نہ ہٹا،

اس قدر اقسامِ جنت تو دوسری قسم کے خذاب کے یہے مزدوی ہے، خواہ دو خذابِ اخروی ہو یا دنیوی۔ لیکن ترکیم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جن قومیں کو خذاب دیا گیا ہے، اُن میں پندرہ اور بی آخري وقت پنکہ کو کرتیلیخ دی اور دھوستِ حق پیش کرنے کے کام میں معروف اور مشغول بھی رہے ہیں اور یادِ قتنیک اُندر کی طرف سے انہیں نکلنے کا حکم نہیں ملا ہے وہ اپنی جگہ سے بطورِ خود نہیں ہٹے ہیں۔

وہ اپنی بیگہ اس وقت چھوڑ کر چلے ہیں جب انہیں خدا کی طرف سے اون اور اجازت ملے ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو کر رسانے آجاتی ہے کہ دنیا میں کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے قانونی طور پر اتمام محبت اس منع کر کے کافی نہیں ہے کہ پیغمبر ان کو مرت دھوت دین پیش کریں اور فرانسیں تبلیغ ادا کریں۔ بلکہ ضروری ہے کہ وہ اس پر آخریم حکم قائم بھی رہے اور حب تک من جانب اللہ تک جانے کا حکم نہ آئے بلکہ خود اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ جب یہ شرط پوری ہوگی تب جا کر اتمام محبت کی قانونی شرائط پوری ہو جائیں گی اور قوم پر عذاب بھی نازل ہو گا۔ یہ جو کچھ عرض کر دیا گیا اس پر ان قوموں کی تاریخی شہادت دے رہی ہیں جو دنیا میں عذابِ الہی سے تباہ ہو چکی ہیں۔ دل میں چند قوموں کے واقعات توضیح مقدمہ کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جاتے کہ دنیا میں ایک قوم پر زندگی عذاب کے لیے جو اتمام محبت ضروری ہے اس میں ایک قانونی شرط کی جیشیت سے یہ ابر ہجی ضروری ہے کہ پیغمبر ان کی تبلیغ پر حکم خداوندی آنے تک قائم رہے۔ اور اذنِ خداوندی کے بغیر ان پا مستقر چھوڑ کر نہ چلے

## قوم فوج پر عذاب

زرعِ انسانی کی تاریخ میں سب سے پہلے جو قوم ایک تباہ کو عذاب سے روپا رہوئی وہ قوم فوج تھی۔ اس قوم کو حضرت فرج علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا اور تبلیغ کے فرانسیں کی ادائیگی میں قومی مہولی دعیقہ بھی فروگز اشتہری۔ دن رات علامیہ اور خصیہ دلوں طریقوں سے سمجھایا اور اپنی اصلاحی کوششوں کو سارے نو سو برس تک برابر جاری رکھا۔ مگر قوم اپنی تاریخی اور اتسکار کی روشنی سے باز نہ گئی۔ بلکہ اللہ اُس پر مصروف ہی۔ حضرت فرج علیہ کے ایمان سے نا امید اور سرکشی سے

تنگ آگئے قرآن کے حق میں بددعا کردی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور  
 ایک عالمگیر طوفان نے اگر قوم کو تباہ کر دیا۔ پہلا اتفاقات قرآن کریم میں باتفصیل  
 نہ کو رہی۔ مگر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت نوح اپنی کال پر شیان  
 اور قوم کی انتہائی سرکشی اور طغیان کی وجہ سے تنگ اگر اپنا مقام چھوڑ کر کہیں چلے  
 گئے تھے اور حکم خداوندی کا انہوں نے انتظار نہ کیا تھا۔ بلکہ اس کے بر عکس قرآن کریم  
 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب قوم کی تباہی اور بیکاری کا وقت قریب آگیا تو حضرت  
 نوح کو خدا کی طرف سے کشتی بنانے کا حکم ہو گیا۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت  
 نوح کو یہ حکم ہوا کہ: فاسدك فیها من کل فوجین اثنین الآیہ۔ جو بنی اسراء  
 اگرچہ بحیرت نہ تھا لیکن معنوی لحاظ سے بحیرت سے کچھ کم بھی نہ تھا۔ جب حکم خداوندی  
 سے کشتی تیار ہو گئی اور وہ سب کے سب اسی میں بلیخود گئے اور اللہ کے حکم سے کشتی  
 چل پڑی تو بخات صرف اپنی کوئی جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ اور  
 باقیہ اندھہ قوم سب کی سب بیکاری اور تباہ ہو گئی۔ اس قوم پر چو عذاب نائل ہوا  
 اور سب لوگ تباہ ہو گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نزولِ عذاب کے لیے جس تمام محبت  
 کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی تھی اور قانونی شرائط تمام کی تمام پوری ہو چکی تھیں۔  
 یہ نکرے حضرت نوح از ابتدای انتہا مصروف تبلیغ بھی رہے اور اون خداوندی کے  
 بغیر انہوں نے اپنا مستقر بھی نہ چھوڑا، بلکہ حکم آنے تک ہٹک رکتے  
 ہوئے دعوتِ حق اور تبلیغ دین پر قائم رہے اس لیے عذابِ الہی نے اگر سب کو  
 تباہ کر دیا۔ اور کسی کو بخات نہ ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی قوم پر  
 نزولِ عذاب کے لیے جو تمام محبت ضروری ہے، اس کے پورا ہونے کے لیے

شرط یہ ہے کہ نبی اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی پر اخیر تک قائم رہے اور حکم خلافتی کے بغیر اپنے مقام سے نہ رہئے۔

### فراعنہ مصرا پر عذاب

اسی طرح کا معاملہ مصر کے فراعنہ کو بھی پیش آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت مارون علیہ السلام کو جب منصبِ رسالت پر سرفراز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس بیجا۔ اور دونوں بھائیوں نے پیغامِ الہی کو پہنچایا۔ اس وقت سے آخری وقت تک وہ دونوں برادر مصروف تبلیغ رہے۔ اور شرک دہست پرستی سے پوری قوم کو منع کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے مناظر بھی کیے اور مجنزے بھی دکھانے۔ وعظ اور نصیحت بھی کرتے رہے۔ اور عذاب اپنی کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوششیں کی گئیں۔ مگر فرعونی حکومت کے ارباب اقتدار اپنے کفر اور استثکبار سے باز نہ گئے۔ اور ظالمانہ سلوک اور ہمچانہ حرکات پر مصروف رہے۔ جب اُن کی اس روشن سے وہ تک آگئے اور یہی اسرائیل پر کیے گئے مسلمان کو دیکھتے دیکھنے بیدر پشاں ہو گئے تو ان کے حق میں بدروحاکی اور زبردست عذاب کے لیے یہ درخواست پیش کر دی کہ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَعْلَمُ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زُبْدَةً وَ أَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... رَبِّنَا إِنَّكَ عَنِ سَيِّئِاتِنَا رَبِّنَا اطْمِسْ عَلَى آمْوَالِهِمْ وَ اسْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور یہ۔ یہ سب کچھ ہوا مگر حضرت موسیٰ اور حضرت مارون علیہما السلام اذن خداوندی کے بغیر غصہ یا ناراضی ہو کر کہیں بھی نہیں پیدا گئے اور نہ بے صبری کی وجہ سے اپنے مقام سے بہٹ گئے بلکہ آخری وقت تک

دھوت سخی اور تبلیغ دین پر قائم رہے۔ جب قوم پر نزول عذاب کی فانوی شرائط پر ہو گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بُرا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رے کر راتوں رات تخلیق کیا۔ فاسد بعیادی لیلا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے : وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ آتُّ أَسْرِيَ بِعِيَادِيٍ لَّيْلًا۔ پس روز بھائی بنی اسرائیل کو لیکر مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ہمراہ ان کا تعاقب کیا۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچے تو قاربِ مطلق نے حضرت موسیٰ دہاروں کو بنی اسرائیل سخت نجات بخشی اور فرعون کو بیوہ اپنی فوج کے دریا میں غرق کر دala۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جب تک حضرت موسیٰ کو نکلنے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ وہ برابر اپنے کام میں باوجود اسہائی تکلیفوں اور اذیتوں کے مصروف رہے۔ اس لیے فراعنة مصر پر نزول عذاب کی جو فانوی شرائط تھیں وہ پُردی ہو گئیں۔ اور عذاب خداوندی نے آگر انہیں تباہ کر دیا۔

اس واقعہ سے بھی معلوم ہوگا کہ نزول عذاب کے لیے جو اقسامِ محبتِ خودی ہے وہ صرف اس بات سے پُر انہیں ہو سکتا کہ نبی قوم میں صبورت ہو کر حق کی دعوت پیش کرے اور دین کی صرف تبلیغ کر دے۔ بلکہ اس اقسامِ محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی آخری وقت تک تبلیغ دین پر قائم بھی رہے اور حکم خداوندی کے بغیر اپنے مستقر سے ہٹے بھی نہیں۔

### قومِ نوٹ پر عذاب

قسمِ نوٹ پر بھی جو عذاب نازل کیا گیا تھا، وہ بھی اس وقت نازل کیا گیا تھا، جبکہ اس پر اقسامِ محبت اس معنی کر کے پُر اہٹا کہ حضرت نوٹ ابتداء سے آخر وقت تک

ہر طرح سے اس کو سمجھاتے رہے اور عذابِ الہی سے ڈلاتے رہے اور باوجود اس  
بات کے کہ قوم ان کی انتہائی بے عزتی اور بے حرمتی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہاں تک  
کہ خود ان کے گھر میں آتے ہوئے مہاقوں کی بھی عزت محفوظ نہ تھی۔ مگر ان تک م  
صیبتوں اور راذبتوں کے باوجود بھی حضرت لُوط علیہ السلام ان کو دعوتِ حق دینے  
اور دین کی تبلیغ کرنے پر آخری وقت تک قائم رہے اور تماوق تکیدہ انہیں یہ حکم اللہ کی  
طریق سے نہیں ملا تھا کہ: فَاسْرِ باهَدْكَ بِقَطْعٍ مِنَ الدَّلِيلِ - وہ باقاعدہ اپنے  
کام میں مصروف و مشغول رہے اور اذنِ خداوندی کے بغیر اپنی جگہ سے نہ رہئے چونکہ  
قوم پر اس سے وہ تمامِ محبت پُورا ہو گیا جو نزولِ عذاب کے لیے ضروری تھا اس  
لیے عذابِ الہی نے آگر انہیں بھی نہیں دے دیا۔

بہر حال قرآن کریم نے دنیا کی معذب قوموں کی جو تاریخ بیان کی ہے اس سے  
یہ حقیقت اپنی طرح متنکشافت اور عیاں ہو جاتی ہے کہ عذابِ دنیوی کے لیے جو نام  
محبت ضروری ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ نبی آخری وقت تک قوم میں رہ کر دعوت  
حق پیش کر کے تبلیغ دین پر قائم رہیں اور اذنِ خداوندی کے بغیر اپنی جگہ سے ہرگز نہیں  
چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اس قسم کا تمامِ محبت پُورا نہیں ہو سکتا تھا اس  
لیے خدا نے اس پر سے عذاب کو اٹھایا۔

اور اخروی عذاب کے لیے جو تمامِ محبت ضروری ہے وہ صرف بعضتِ رسولؐ  
سے پُورا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جس قوم کے پاس بھی خدا نے اپنا کوئی نبی اور رسول ہمجا  
ہے اور قوم اس پر ایمان نہیں لائی ہے اس پر عذابِ جہنم کے لیے تمامِ محبت پُورا ہو  
چکا ہے اور قیامت کے روز اس سے ضرور عذابِ جہنم دیا جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے

جو قرآن کی مختلف اور متعدد آیتوں میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً دعا کناً مُعَذِّبِینَ  
حَتَّى تَبَعَّثَ رَسُولًا۔ الْآیہ وغیرہ من الآیات۔ اب مشکلہ آنام جحت کی اس مختصر  
تشریح کی روشنی میں ہم مولانا حاضری مظہر حسین صاحب کے اعتراض پر نظر ڈالتے ہیں  
کہ وہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن والی عبارت پر وا رد ہوتا ہے یا نہیں۔ بلکہ  
زدیک یہ اعتراض مولانا مودودی کی عبارت پر اسلام اور نہیں ہوتا۔ کیونکہ مولانا نے اپنی  
عبارت میں یہ تصریح کی ہے کہ :

وَاللَّهُ تَعَالَى كُسْيَ قَوْمٍ كَوْسَ وَقْتٍ تِكْ عَذَابٌ نَّبِيْنِ وَتِيَا جِبْرِيلُ اسْ پَر  
اپنی جحت پر ری نہیں کرتیا۔ پس جب نبی سے ادا شے رسات میں کوتا ہی  
بوجگھی اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گئے  
تلہ اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوا را نیکا کیونکہ اس پر  
آنام جحت کی قانونی شرط پوری نہیں ہوئی تھیں ۔

جو فرگ عقل کی بصیرت، اور انکھوں کی بصارت سے محروم نہ ہو سکے ہوں وہ  
اس عبارت پر نظر ڈال کر باری تامل یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں عذاب سے مراد عذاب  
ذیبوی ہے اور اس کے لیے مولانا کے زدیک یہ ضروری ہے کہ آنام جحت اس معنی میں  
ہو جپکا ہر کہ نبی دین کی بلیخ پر تما آخر قائم رہا ہو اور بطور خود اپنی جگہ سے نہ ہٹا ہو۔ بلکہ  
ازن اور حکمہ خداوندی تک انتظار کرتے ہوئے صبر کرتا رہا ہو۔ چونکہ حضرت یونس  
نے ایسا نہ کیا، بلکہ ازن خداوندی کے بغیر بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گئے اس لیے  
آنام جحت کی قانونی شرط پوری نہ ہوئی تو عذاب بھی مل گیا۔ اب اس پر یہ اعتراض  
کرنا کہ ”نبی“ کی بخشش کا مقصد ہی آنام جحت ہے۔ اگر یہ پورا نہ ہٹا ہو تو بعثت

ہی بیکارگئی۔ اپنے اندر کیا معمولیت رکھتا ہے؟ ہم نے پہلے مسئلہ اقسامِ حجت کی تشریح میں پڑھا تھا کہ جو اقسامِ حجت بنیٰ کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور جو بنیٰ کی بعثت سے لازماً پورا ہو جانا چاہیے، وہ اقسامِ حجت وہ ہے جو عذابِ اخروی کے لیے ضروری اور شرط کے درجہ میں ہے اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اور تبلیغِ دین سے پورا ہو چکا تھا۔ وہ اقسامِ حجت اجودیا میں کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے ضروری اور شرط کے درجہ میں ہے۔ وہ صرف بعثت اور تبلیغِ دین سے پورا نہیں ہوتا۔ جب تک بنیٰ اس پر تما آخراً قائم اور والئم بھی نہ رہے اور اذنِ خداوندی کے بغیر اپنے جگہ سے ہٹے بھی نہیں۔ اور یہ اقسامِ حجت ظاہر ہے کہ قوم یونس پر پورا نہیں ہوا تھا۔ رہی آیت کریمہ "وَمُسْلَامٌ مُّبَشِّرٌ بِنَيٰ وَمُنْذِرٌ بِنَيٰ لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ" بعدَ الرُّسُلِ! تو اس میں بعثت سے مراد وہ حجت بازی ہے جو قیامت کے روزِ کفار کریں گے جبکہ انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے انبیاء اور رسول اس لیے مجھے ہیں تاکہ قیامت کے دن جب کفر اور شرک کی وجہ سے لوگوں کو عذابِ جہنم دیا جائے تو اس وقت وہ یہ احتجاج نہ کر سکیں گے؛ ہمیں جہنم کا عذاب کیوں دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس دنیا میں کوئی بشیر و نذر نہیں آیا تھا۔ صاحادنامن بشیر ولا نذیر۔ تو یہ اقسامِ حجت جو انبیاء کے نفسِ بعثت سے پورا ہوتا ہے۔ اور آیت کریمہ میں نہ کوئی ہے، اس سے مراد عذابِ اخروی کے لیے اقسامِ حجت ہے نہ کہ دنیوی کے لیے اور اس سے مولانا نے قوم یونس کے بارے میں انکار نہیں کیا ہے مولانا نے جس اقسامِ حجت کے پورا ہونے سے انکار کیا ہے وہ دنیوی عذاب کے لیے اقسامِ حجت ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآنِ کریم سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ

اس تمامِ جبعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر قبل از حکم خداوندی اپنی جگہ سے نہ بٹ جائیں تو اس پر مقررین حضرات کا برافروخت ہونا انتہائی غیر معمولی ہے۔

مروانہ مودودی نے اس مسئلے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ اپنی جگہ پر اگرچہ بالکل صحیح و صائب اور بے غبار ہے، تاہم ان کی سلامتی طبع کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر القرآن جلد دوم کے تازہ ایڈیشن میں سورہ یوسف کے مذیعے کو یون پبل دیا ہے اور اس میں سے یہ فقرہ حذف کر دیا ہے کہ "حضرت یونس نے فرضیۃ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں" اس کے بجائے انہوں نے یہ عبارت درج کر دی ہے کہ:

وہ بات مہیٰ صحیح معلوم ہوتی ہے جو مفسرین قرآن نے بیان کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی لحاظ کے بغیر اپنا مستقر حجور کر چلے گئے تھے۔

اگر میر سے یہ بزرگ مقررین حضرات بُرانہ مائن تو یعنی ان کی خدمت میں بہ عن کر دنچا کر کیا یہ بھی وینِ اسلام کی کوئی مغاید خدمت ہے یا خدا کے نزدیک کا بڑا عذاب ہے کہ گردہی تعصیات کی بنابرآٹ ایک ایسے شخص کے پیچے ٹپکئے ہیں اور زبردستی سے اس کے موہوم عیوب اور کنز دیوب کو اچھاں اچھاں کر دنیا کے سامنے ایک حقیقت اور امرِ داقعہ کی حیثیت سے ٹھہرا چڑھا کر پیش کرتے رہتے ہیں، جس کی پُرسی زندگی دینِ حق کی سر بلندی کے لیے وقت رہی ہے اور اقامتِ دین کے اہم فرضیہ کی ادائیگی کے لیے اپنے مجاہدات کا رنماں اور سرفوشانہ سرگرمیوں کی بدولت اس نے پُرسی اسلامی دنیا میں اپنے لیے ممتاز مقام پیدا کیا ہے یہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ

دوسروں کے عیوب اور کمزوریوں کو دنیا کے سامنے اچھا اچھا کر پیش کرنا اور عامہ خاص میں پھیلاتے رہنا کپاں کی نیکی اور خدمت دین ہے جو بخوبیوں کی طرح گندگیوں میں بیٹھ کر بچرا نہیں پھیلانے رہنا کا خیر اور عمل ثواب نہیں ہے۔ ابھم تر چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عیوب اور کمزوریوں کو دوڑ کرے نہ کر دوسروں کی عیوب جوئی سے لطف اندر نہ کرتا ہے۔ ایسے انسانوں کے مختلف ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:

— شر العوی بسادی الناس مشتعل

مثل الذباب يداعی سو صبح العلل

”خلق خدا میں ہی سے بزرگ وہ ہیں جو دوسروں کی عیوب جوئی میں اس طرح مشغول رہتے ہیں جس طرح بھیاں کہ جیشیہ گندگی کی تلاش میں مشغول اور مصروف رہتی ہیں۔“

آخر اپل دین کے لیے کرنے کا کام صرف یہی رہ گیا کہ ایک دوسرے کی عیوب جوئی میں اس طرح مشغول رہیں کہ گریا اور دسرا کوئی کام کرنے کا یہاں ہے ہی نہیں؟

فان كنت لا تدرى فتلوك مھیبة

وإن كنت تدرى فالمھيبة اعظم

## باب سوم

# حضرت علیہ السلام کا رفع جہانی

### اور اس کی تصریح فی القرآن

یہ مشکلہ بھی اُن زراعی اور اصولی مسائل میں رکھا گیا ہے جن کے باوجود میں بعض علمی حلقوں کی طرف سے مولانا مودودی کو مطعون اور متهم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفہیم القرآن، ج ۱ ص ۲۱، حاشیہ ۱۹۵ میں حضرت علیہ السلام کے رفع جہانی کے متعلق مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ:

”قرآن کی روح سے زیادہ مطابقت اگر کوئی طرزِ عمل رکھتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ رفع جہانی کی تصریح سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اور موت کی تصریح سے بھی بلکہ میر علیہ السلام کے اٹھائے جانے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کا ایک غیر معمولی ظہور سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت کہ اسی طرح محمل چھوڑ دیا جائے جس طرح خود اللہ تعالیٰ نے محمل چھوڑ دیا ہے۔“

اسی حاشیہ ۱۹۵ میں مولانا نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے:

”قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم درج کے ساتھ کر رہے  
ہیں سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا اور نہ یہ صفات کہتا ہے کہ انہوں نے  
زمین پر طبعی موت پائی۔ اور صرف ان کی روح الٹھائی گئی۔ اس لیے قرآن  
کی بنیاد پر نہ تو ان یہیں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نعمت کی جا سکتی ہے اور نہ  
اشہات“

تفہیم القرآن کی مندرجہ بالا دو نوں عبارتوں پر مولانا مودودی کے مخالفین حضرات  
کی طرف سے روشن کے اعتراضات کیے گئے ہیں۔

### تفہیم القرآن کی عبارت پر پہلا اعتراض

پہلا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ ان دو نوں عبارتوں میں قرآن کریم کی بنیاد پر حضرت  
علیہ السلام کے جسمانی ربیع سے انکار کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح کے جسمانی  
ربیع پر پُردی انتہا کا اجماع ہو چکا ہے، اور تمام امت میں متواتر تحریکیں کی گیا ہیں۔  
ایسے متواتر اور اجماعی مسائل سے انکار کرنے کسی مومن کے شاید شان نہیں ہے اور  
نہ کوئی شخص ایسے متواتر مسائل سے انکار کرتے ہوئے مسلمان رہ سکتا ہے۔

### دوسرा اعتراض

اور دوسرا اعتراض ان عبارات کے مضمون پر یہ کیا گیا ہے کہ مذکورہ عبارتوں کے  
مختصر میں اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ربیع جسمانی سے انکار تو نہیں کیا گیا ہے  
مگر اس کی تصریح فی القرآن سے انکار ضرور کیا گیا ہے۔ حالانکہ جس طرح اس مسئلہ کا  
یہ جزو قطعی اور یقینی اور متواترات میں شمار کیا گیا ہے کہ ”حضرت مسیح کے ربیع  
جسمانی ثابت ہے“ اسی طرح اس کا یہ جز بھی یقینی اور متواترات میں شمار کیا گیا ہے

کہ حضرت مسیح کے لیے رفع جمافی کا ثبوت مصروف فی القرآن ہے۔" لہذا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا چاہزہ نہیں۔ اور نہ ان میں سے کسی ایک کو قرآن کی روشنی سے بھل قرار دیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔ یہ وہ اخراجات ہیں جو مختلف حضرات کی طرف سے الفاظ کے تصور سے بہت اختلاف کے ساتھ تعمیم القرآن کی مندرجہ پاہ عبارتوں پر کیے گئے ہیں۔ یہم چاہتے ہیں کہ ذیل میں دونوں اخراجات کا جواب عرض کریں۔

ہمیں یہ کہتے ہوئے صفات فرمایا جائے کہ دور حاضر کے حالتے کرام میں یعنی حضرات ایسے گھس آئے ہیں جن میں شخص و عناد اور حسد کی بیماری، وباً امر من کی طرح پہلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس تدریشگ دل اور مولانا مودودی کے حق میں متخصص واقع ہوئے ہیں کہ مولانا مودودی کی تصانیف میں جو ہمیں عبارتیں انہیں نظر آتی ہیں کوئی نہ کہی کہ میراں میں یہ حضرات نکال ہی میتے ہیں اور اگر بالفرض کوئی کہیں تظرف آئے تو از خود رہاں کیڑے ڈالنے کی بہترین خدمت انجام لے رہے ہیں۔ حدیہ ہے کہ اگر مولانا نے اپنے کسی مضمون میں کوئی بات بدلاں بھی ہات کی ہو تو یہ حضرات اس کے متعلق بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ مولانا نے اس سے انکار کیا ہے اور ان کی عجیب چیز نہ گاہیں کبھی دلائل کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان جب ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں سورطیں یا شخص و عناد اور حسد کی بیماری میں بتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ توصیت ہی نصیب نہیں ہو سکتی کہ اس کی بات کی مل تریک پہنچ سکے یا اس کی حقیقت اور اصل مراد معلوم کر سکے۔ چونکہ سورطیں اور شخص و

عند کی اس بیماری میں وہ حضرات بھی بتلا ہو چکے ہیں جو مولانا مودودی کے ساتھ حد رکھتے ہیں، اس لیے وہ مولانا کی ہر صحیح بات کو غلط سمجھ رہے ہیں حتیٰ کہ کوئی مشدہ اگر دلائل اور براہین سے بھی مولانا ثابت کر چکے ہوں تب بھی یہ حضرات اس میں مولانا مودودی کو منکر ثابت کر دکھانے کے لیے اپنی چوتھی کا زور دھکار ہے ہیں۔ یہاں دیکھیے، مولانا مودودی نے اپنے تفسیری حاشیہ میں ذریجت مشدہ کے متعلق پُردی قوت کے ساتھ قرآن کریم کے سیاق و سبق سے متعدد دلائل پیش کر کے پثابت کر دیا ہے کہ "حضرت مسیح علیہ السلام جسم و روح سمیت آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اگرچہ قرآن میں لفظ جسم و روح کی تصریح نہیں کی گئی ہے، مگر قرآن کے اندازیہاں اور اس کے سیاق و سبق سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ رفع، رفعِ جسمی ہی ہو سکتا ہے نہ کہ رفعِ موعِ یا رفعِ دریافت یا مگر پھر بھی انسان کے دشمن حضرات یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس عبارت میں رفعِ جسمی سے انکار کیا ہے۔ حالانکہ مولانا نے انکار نہیں بلکہ قرآنی دلائل سے اُسے ثابت کر دیا ہے۔ — اس کے ثبوت کے لیے ذیل میں تفہیم القرآن کی عبارت میں تشریح نقل کی جاتی ہے۔ اس سے آپ خود بخود یہ معلوم کر سکیں گے کہ مولانا مودودی نے رفعِ جسمی سے انکار نہیں کیا ہے بلکہ قرآنی دلائل سے اُسے ثابت کیا ہے۔

### تفہیم القرآن کی عبارت

مولانا مودودی نے تفہیم القرآن حج اس ۲۰۰۳ء، سورہ نباد کی آیت وَمَا فَتَلَوْهُ يَعْيَنَا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیہ ۱۹۵ میں

فرمایا ہے:

”وَيَرَى اسْمَاعِيلَ كَمَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مُحَمَّدَ كَمَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يُبَشِّرُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنًا مُّكَفَّرًا“  
 میں جنم اور صراحت کے ساتھ جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح  
 کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو  
 اپنی طرف اٹھایا۔“

رمایہ سوال کہ اٹھائیںے کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس کے متعلق کوئی تفصیل  
 قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے۔ قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو  
 جسم و روح سمیت کرہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا۔ اور نہ  
 یہی صفات کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی اور حضرت ان کی  
 روح اٹھائی گئی۔ اس لیے قرآن کی بنیاد پر نہ قرآن میں سے کسی ایک کی  
 قطعی نفعی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات؟“

تشریح: یہ اس عبارت کا ابتدائی حصہ ہے جو تفہیم القرآن میں بیاں ذکر  
 کی گئی ہے۔ عبارت کے اس حصہ میں مولانا نے چار چیزوں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے  
 پہلی دو چیزوں کو مصروف فی القرآن کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ”حضرت مسیح کو قتل کرنے  
 میں یہودی کامیاب نہیں ہوتے“ اور دوسری یہ کہ ”اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی  
 طرف اٹھایا“ اور آخری دو چیزوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ قرآن میں ان کی تصریح  
 نہیں کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ”حضرت مسیح کو جسم و روح سمیت کرہ زمین سے اٹھا کر  
 آسمانوں پر لے جایا گیا ہے“ اور دوسری یہ کہ ”انہوں نے زمین پر طبعی موت پائی  
 ہے“۔ لہذا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ”قرآن کریم کی بنیاد پر نہ رفع جہانی کا ثبوت قطعی ہے  
 اور نہ اس کی نفعی۔ اسی طرح قرآن کی بنیاد پر نہ حضرت مسیح کی موت قطعی ہے اور

نہ اس کی نفی ۴۶

اس عبارت پر اگر کوئی شخص اقتراض کرنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ اقتراض کر سکتا ہے کہ اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ "قرآن کی بنیاد پر رفع جسمانی کا ثبوت قطعی نہیں ہے" اور اس کے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ "قرآن میں اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے" حالانکہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن سے کسی چیز کے قطعی ثبوت کے بیان صرف یہ ایک طریقہ نہیں کہ وہ قرآن میں مصروف ہو۔ بلکہ اگر سیاق و ساق میں اس کے ثبوت کے بیانے قطعی دلائل موجود ہوں۔ یاد دسری آیاتِ قرآن سے اس کے ثبوت پر قطعی استدلالات قائم کیے جاسکتے ہوں، تو اس صورت میں بھی وہ چیز قرآن سے قطعی الشہوت ہی تسلیم کی جائے گی اگرچہ قرآن میں اس کی تصریح نہ کی گئی ہو۔ اور یہاں رفع جسمانی کے ثبوت پر قرآن کے سیاق و ساق میں ایسے دلائل پائے جاتے ہیں جن سے رفع جسمانی قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن کی بنیاد پر نہ قرآن میں سے کسی ایسے کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ اثبات۔ صحیح نہیں ہے۔ — لیکن اس عبارت میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ مولانا نے رفع جسمانی کے نفسِ ثبوت من القرآن سے انکار کیا ہے کہ ان پر یہ الزم رکھنا مادرست تسلیم کیا جائے کہ وہ قرآن سے رفع جسمانی کے نفسِ ثبوت کے منکر ہیں۔ بلکہ ان کی عبارت میں غور کرنے کے بعد یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن سے رفع جسمانی کا ثبوت مانتے ہیں۔ انکار اگر وہ کر رہے ہیں تو صرف اس بات سے کر رہے ہیں کہ "قرآن میں فقط جسم و روح کی تصریح کی گئی ہے" یعنی رفع جسمانی استدلال قرآن سے ثابت ہے، البتہ اس کی تصریح فی القرآن نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ "قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ

ان کو جسم و دماغ سمیت کرہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں لے گیا۔ اور نہ یہی صفات کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر طبیعی مرتوں پاتی۔ اس عبارت میں انکار صرف تصریح سے کیا گیا ہے، نہ کہ رفع جہانی کے نفسِ ثبوت سے۔

### ایک دھم کا ازالہ

لیکن پھر بھی اگر اس سے کوئی ترجمہ پرست آدمی یہ تو جنم کرنے کے شاید مولانا کا مقصد اس عبارت سے کہ مذکور قرآن جسم و دماغ کی تصریح نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے کہ قرآن سے جہانی رفع ثابت نہیں ہے اور مولانا خود رفع جہانی کے قائل نہیں ہیں تو اس دھم کے ازالہ کے لیے مولانا کی اگلی عبارت کافی ہے۔ اور اغلب یہی ہے کہ مولانا اگلی عبارت کو اس بے بنیاد دھم اور توہین کے ازالہ کی غرض سے ملکیں اُنکہہ کر لائے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”لیکن قرآن کے انداز بیان پر خود کرنے سے یہ بات نمایاں طور پر محسوسی بھتی ہے کہ انہلٹے جانے کی نوعیت و کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، بہر حال حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ العذر کوئی ایسا معاملہ مزدوج کیا ہے جو غیر معمول نوعیت کا ہے۔“

اس عبارت میں یہ بات توصیات طور پر بیان کی گئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انہلٹے جانے کا معاملہ غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ لیکن غیر معمولی نوعیت کا یہ معاملہ آخر ہے کیا ہے تو اس کے متعلق عبارت اپنادا میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آئے والی عبارت میں مولانا نے معاملہ کے غیر معمولی پن کے انہلٹے کے بیچے جو تین چیزوں بطور فرقان پیش کی ہیں۔ ان سے یہ بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ معاملہ مولانا کے نزدیک رفع جہانی ہی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں:

۱۰ اس خیر معمول پن کا انہصار تین چیزوں سے ہوتا ہے ایک یہ کہ صیادوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم درج سمت اٹھاتے جانے کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا۔ اور ان اسباب میں سے تھا جن کی بنار پر ایک بہت بڑا گردہ الہتیت مسیح کا قابل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے صرف یہ کہ اس کی صاف صفات تردید نہیں کی۔ بلکہ بعدینہ رہی ”رفع“ کا فقط استعمال کیا جو صیانی اس واقعہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کتاب میں کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کسی خیال کی تردید کرنا چاہتی ہو اور پھر بھی اسی زبان استعمال کے جو اس خیال کو فریڈ تقویت پہنچانے والی ہو۔

**مزید تشریح :** جو لوگ اپنے دلوں میں انصاف اور خوبی خداوندی رکھتے ہیں اور فطرۃ متصب واقع نہیں ہوئے ہیں اگر وہ اس عبارت پر تھوڑا سا غور فکر کریں گے تو نہایت آنسافی کے ساتھ وہ یہ فہمہ کریں گے کہ اس خیر معمولی نوعیت کے معاملہ سے مولا محاودہ کی مراد صرف رفع جما فی ہے اور اس کے مساوی دوسری کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ اولاً تو اس ہیے کہ مولانے حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع کو خیر معمولی نوعیت کا معاملہ فرار دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خیر معمولی نوعیت کا رفع بجز رفع جما فی کے دوڑا کرنے سے چھو سکتا۔ کیونکہ رفع کی عقلی قسمیں یہاں تین ہو سکتی ہیں۔ ایک رفع صبح۔ دوسری رفع درجات۔ اور تیسرا قسم رفع الجسد والروح معاً۔ پہلی اور دوسری قسم کو خیر معمولی کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ یہ دونوں قسمیں حضرت آدمؑ کے ہدیتے کر نزول قرآن کے زمانے تک نوع انسافی کے افراد میں معمول خداوندی رہی ہیں۔ اور قیامت تک یہ دونوں قسمیں جاری رہیں گی۔ البتہ تیسرا قسم کا رفع جو جسم

روح درخواست کے ساتھ ہو۔ یہ ایک ایسا رفع ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے قبل اور  
ادم کے کسی فرد کے لیے ثابت نہیں ہوا ہے اور نہ یہ رفع معمول خداوندی ہی رہا ہے۔  
تو غیر معمولی نوعیت کا رفع صرف یہی رفع ہو سکتا ہے۔ نہ کہ رفع روح یا رفع درجات۔  
پس جبکہ مولانا مردوی نے اپنی تفسیری جماعت کی ابتداء میں صفات طور پر یہ  
کہہ دیا کہ قرآن نے جسم اور صراحت کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک  
چیز حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ہے ۔ اور بھر صریح لفظوں میں یہ کہ دیا کہ یہ  
رفع غیر معمولی نوعیت کا رفع ہے ۔ اور غیر معمولی نوعیت کا رفع صرف رفع جماعتی  
ہے، نہ کہ رفع روح یا رفع درجات۔ تو اس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا  
ہے کہ بہاں میں رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں قرآنی رفع سے مراد صرف رفع جماعتی ہے  
نہ کہ دوسری قسم کا رفع ۔۔۔۔۔ مگر چونکہ قرآن کے الفاظ میں جسم درج کی تصریح  
نہیں پائی جاتی اس سے مولانا نے انتہائی احتیاط کی بنا پر یہ کہا کہ: رفع جماعتی کی  
تصریح فی القرآن سے اجتناب کیا جائے ۔ تاکہ قرآن کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت  
لازم نہ آئے جو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن سے  
رفع جماعتی ثابت نہیں ہے۔ یا میں رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں رفع جماعتی کے علاوہ کوئی  
اوہ قسم کا رفع مراد ہے۔ یا مولانا خود رفع جماعتی کے قائل نہیں ہیں۔

تائیا: اس غیر معمولی نوعیت کے معاملہ سے مولانا کا رفع جماعتی سمجھنا اس لیے  
بھی ظاہر ہے کہ اس معاملہ کے غیر معمولی پن کے لیے مولانا نے جو دلیل اور قرینہ بیان  
کیا ہے، اس سے بھی صافت طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بہاں غیر معمولی نوعیت کے  
معاملہ سے مولانا کی مراد صرف رفع جماعتی ہے، نہ کہ رفع روح یا رفع درجات۔

وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں رفع جہانی کا عقیدہ پہلے سے عیسائیوں میں موجود تھا۔ اور ایک بڑے گروہ نے ان کو اللہ اس عقیدے کی بنیاد پر قرار دیا تھا کہ وہ جسم دردح صمیت آسمانوں پر اٹھاتے گئے ہیں۔ اب اگر یہ عقیدہ قائم الواقع خلط ہوتا اور رفع جہانی سرے سے ثابت ہی نہ ہوتا تو قرآن مجید صریح فظوں میں اس کی تردید کرتا ہے کہ رفعہ اللہ الیہ کے انفاظ استعمال کر کے ان کے رفع جہانی کے خلط عقیدے کی تائید کرنا۔ اور اسے مزید تقویت پہنچا دیتا۔ کیونکہ یہ بات قرآن مجید کی شان سے انہی ایسے بعید ہے کہ وہ کسی خیال کی تردید کرنا چاہتا ہو اور پھر بھی انفاظ اس کے لیے وہ استعمال کرے جس سے تردید کی جائے اس خیال خلط کی تائید حاصل ہو۔ اور اسے مزید تقویت پہنچے۔

پس جبکہ قرآن نے وہی انفاظ استعمال کیے، جو عیسائی لوگ اس معاملہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو معلم ہوا کہ عیسائیوں کے رفع جہانی کا عقیدہ خلط اور بنیاد نہیں بلکہ جو اسے خود صحیح ہے اور حضرت مسیح جسم دردح صمیت آسمانوں پر اٹھاتے گئے ہیں۔ الغرض امولانا کی عبارت اس بارے میں بیان لہ صریح گئے ہے کہ حضرت مسیح کے لیے جو رفع ایجاد اثابت کیا گیا ہے، اس سے مراد رفع جہانی ہی ہو سکتا ہے۔ نہ کہ دوسرا قسم کا رفع۔ اور کوئی بھی نقطہ اس عبارت میں ایسا نہیں مل سکتا۔ جس سے یہ تبیجہ نکالا جائے کہ مولانا مودودی رفع جہانی کے ثبوت سے انکار کر رہے ہیں۔

ٹائٹل۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جو غیر معمولی نویت کا رفع مولانا کی عبارت میں ثابت کیا گیا ہے، اس سے مراد رفع جہانی اس لیے ظاہر ہے کہ ہم

پہلے بیان کرچکے ہیں کہ رفع کی عقل قبیل میں ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک رفع درجہ دوسری  
رفع درجات اور تکمیری رفع الجسد والروح۔ ان میں سے پہلی دو قسموں کو تو مولانا  
نے صاف لفظوں میں آیت کا محل نہیں فرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مل رفعہ  
اللہ الیہ میں رفع درجہ یا رفع درجات ہرگز مراد نہیں ہیں۔ پس اگر اس غیر معمولی  
 نوعیت کے رفع سے جو حضرت مسیح کے لیے ثابت کیا گیا ہے مراد رفع جماںی بھی  
 نہ ہو تو نہ معلوم وہ غیر معمولی نوعیت کا رفع اور ہو گا کیا؟ اس لیے ماننا پڑتا  
 کہ یہاں غیر معمولی نوعیت کے معاملہ اور رفع سے مراد صرف رفع جماںی ہے، نہ کہ  
 دوسری قسم کا رفع۔ چنانچہ آگے کی عبارت میں اس کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے:

وَ دُوْسِرَةٍ يَقُولُ أَنَّ كَمِيرَسَعِيْرَ عَلَيْهِ اسْلَامَ كَمَا إِلْحَانَاهُ وَ سِيَاهِيْ إِلْحَانَاهَا  
يَا نَاهَاهُ تَنَاهَا، جِسِيَا كَمَهْرَنَهْ وَ الْأَدَنَيَا سَهْ إِلْحَانَاهَا جَاهَاهَا ہے۔ یا اگر اس رفع  
 سے مراد حضن درجات کی بلندی ہوتی جیسے حضرت اور میں کے متعلق فرملا  
 گیا ہے: وَ رَفْعَنَاهُ مَكَانًا عَدِيًّا، تو اس قسموں کو بیان کرنے کا انداز یہ  
 نہ ہوتا جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے زیارہ منست  
 الفاطمیہ ہو سکتے تھے کہ: یعنی انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے  
 اس کو زندہ بخالیا اور بھیطجی موت دی۔ یہودیوں نے اس کو ذمیل کرنا  
 چاہا تھا مگر اللہ نے اس کو بلند درجہ عطا کی۔

دنیبرے یہ کہ اگر یہ رفع و سیاہی معمولی قسم کا رفع ہوتا جیسے ہم معاو  
 میں کسی مرنے والے کو کہتے ہیں کہ ”ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا“ تو اس کا  
 ذکر کرنے کے بعد یہ خقرہ بالکل غیر موزون تھا کہ ”اللہ ذیر و مست طاقت“

رکنے والا اور حکیم ہے یہ تو مرف کسی ایسے معاملے کے بعد ہی موزول  
مناسب ہو سکتا ہے جس میں اللہ کی قوت قاہرہ اور اس کی حکمت کا خیر  
سموں ظہور ہو جاؤ ہو۔

**تشریح :** پھر سے نزدیک ایک منصف مزاج اور حقیقت پسند آدمی کے لیے یہ عبارت جس میں غیر معمولی پن کے الہام کے لیے دو قرینے بیان کیے گئے۔ اس پانچ  
میں بالکل صریح یا بنترو صریح کے ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پار سے میں قرآن  
نے بل رفعہ اللہ اپنے میں جس رفع کا ذکر کیا ہے اور جس کو مولانا مودودی نے  
غیر معمولی قسم کا رفع قرار دیا ہے۔ اس سے مراد نہ رفع روح ہے اور نہ رفع درجات۔  
یکہ ایک ایسا رفع مراد ہے جس میں خدا کی قوت قاہرہ اور حکمت بالغہ کا غیر معمولی  
ظہور ہوا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا رفع جو غیر معمولی قسم کا ہو اور جس میں خدا کی قوت  
قاہرہ اور حکمت بالغہ کا غیر معمولی ظہور ہوا ہو، رفع جماں کے سواد و سراکنی  
رفع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ تفہیم القرآن میں غیر معمولی قسم کے رفع  
سے مراد صرف رفع جماں ہو گا نہ کہ دوسری قسم کا رفع۔

بہر حال مولانا نے اگرچہ اس عبارت میں یہ تصریح تو نہیں کی ہے کہ حضرت  
مسیح کے لیے قرآن نے جو رفع کا فقط استعمال کیا ہے اس سے مراد رفع جماں ہے  
مگر عبارت کے سیاق و سبق میں تاکمل کرنے سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے  
کہ مولانا کے نزدیک یہاں رفع سے مراد صرف رفع جماں ہے۔ اور دوسری قسم کا  
رفع اصلًا مراد نہیں ہے۔ یکہ اگلی عبارت میں تو ایک قسم کی تصریح پائی جاتی ہے  
اس بات کی کہ مولانا کے نزدیک یہاں رفع سے مراد رفع جماں ہے۔ چنانچہ

قادر یا نبیوں کے استدلالات بکے جواب میں مولانا نے فرمایا ہے:

”اس کے جواب میں قرآن سے اگر کوئی دلیل پیش کی جا سکتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صنیعِ قیامت کا فقط استعمال کیا ہے درکوئع ۴، لیکن جیسا کہ وہاں ہم حاشیہ میں واضح کرچکے ہیں، پر فقط طبعی مرثیہ کے معنی میں صریح نہیں ہے، بلکہ قبض روح اور قبض روح جسم دونوں پروپریات کر سکتا ہے۔ لہذا یہ اُن قرائیں کو ساقط کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے جو جم نے اور پریان کیے ہیں۔“

### قادر یا نبی اور اس کا جواب

”بعض لوگ ز قادر یا نبی (جن کو مسیح کی طبی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے) سوال کرتے ہیں کہ ”تو فی“ کا فقط قبض روح جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظریہ بھی ہے؟ لیکن جب قبض روح جسم کا واقعہ تام روح انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک وفہ آیا ہو تو اس معنی پر فقط کے استعمال کے نظیر پوچھنا محض ایک بے معنی بات ہے۔ وہ کہنا یہ چاہیے کہ آیا اصل لغت میں اس استعمال کی گواہش ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ماننا پڑے گا کہ قرآن نے روح جسمانی کے عقیدہ کی صاف صاف تزوید کرنے کے بجائے یہ فقط استعمال کر کے ان قرائیں میں ایک اور قرآن کا اضافہ کر دیا ہے جن سے اس عقیدے کو اٹھی مدد ملتی ہے۔ وہ شکوئی وجہ نہ تھی کہ وہ موت کے صریح نقطہ کو چھوڑ کر وفات کے محتمل الممکنین نقطہ کو ایسے موقع پر استعمال کرنا جہاں

رفیع جہانی کا عقیدہ پہلے سے موجود تھا اور ایک فاسد اعتقاد یعنی الوہیت  
مسیح کے اعتقاد کا موجب بن رہا تھا۔ ”تفہیم القرآن“ رج ۱ ص ۳۴۰ (۲۲۷)

**فشریح:** مولانا نے اس عبارت میں قادریانیت کے استدلال اور سوال کا جو  
جواب دیا ہے اس میں صفات طور پر اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ”متوفیک  
میں لفظ توفی سے مراد قبضی روح و جسم ہے۔ اور تمام نوع انسانی کی تاریخ میں قبضی  
روح و جسم“ کا یہ واقعہ صرف ایک دفعہ پیش آیا ہے جس سے مراد صرف حضرت  
مسیح علیہ السلام ہی ہیں، لہذا قادریانیوں کا اس کے لیے نظر لو چنان غواہ بے معنی  
بات ہے۔ ”هم صیران ہیں کہ ایسی صریح عبادات کے باوجود بھی بعض متقصب قسم کے  
لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی حضرت علیہ السلام کے لیے رفع جہانی کے  
بوست سے انکار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں ہم صرف یہی کہیں گے کہ خداون  
کے دلوں کو تعصیب اور فتنہ پسندی سے پاک کرے اور صیح بات کو اپنے اصل  
رنگ میں سمجھنے کی توفیقی بخشنے۔ آمین۔

یہاں تک جو کچھ معروضات پیش کیے گئے، ان کا تعلق اس اعتراض کے جواب  
سے تھا کہ مولانا مودودی نے رفع جہانی کا انکار کیا ہے۔ رجاہیہ اعتراض کہ  
”تفہیم القرآن“ کی عبارت میں گورفع جہانی سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ مگر اس کی تصریح  
نے القرآن سے تو انکار ضرور کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کی تصریح بھی قرآن مجید سے ثابت  
ہے۔ اور جبکہ قرآن سے اس کی تصریح ناملت ہو گئی تو قرآن کی رو سے اس کو محیل قرار  
دنیا، جس طرح کہ مولانا مودودی نے قرار دیا ہے، صیح نہیں ہے۔“  
تو اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مذکور

اصل حقیقت واضح کی جائے۔ پھر اس کی شرعی حیثیت متعین کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ رفع جسمانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور مولانا مودودی نے اس مسئلہ کے متعلق اپنی جو تحقیق پیش کی ہے۔ وہ مسئلہ کی شرعی حیثیت کے ساتھ موافق ہے یا مخالف۔

### رفع جسمانی کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت

جہاں تک رفع جسمانی کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے، ہم پورے دُرُوق کے ساتھ بھتے ہیں کہ قرآن و حدیث، اجماع امت اور اخفاری تواتر اقتضت کی روشنی میں اس مسئلہ کی جو کچھ حقیقت اور شرعی حیثیت متعین کی جاسکتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی یہودیوں نے قتل کیا ہے اور نہ ان کو صلیب دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم و روح سمیت آسانوں پر اٹھایا ہے اور جب وہجاں ظاہر ہو جائے کہ اس وقت آسانوں سے نزول فرمائے وہجاں کو قتل کر دیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ کی حیثیت سے اسلامی شریعت کے مطابق حکم اور فیصلے کر دیں گے۔

مسئلہ کی اس حقیقت اور اس کی اس شرعی حیثیت پر قرآن و حدیث دلانت کرتے ہیں اور اسی پر پوری امت کا اجماع بھی ہے۔ اور جدید نبوی سے آج تک اس کی یہ شرعی حیثیت متواتر بھی چلی آئی ہے۔ رہایہ کہ رفع جسمانی قرآن کریم کی کسی آیت میں معترض بھی ہے اور قرآن ہی نے یہ تصریح کی ہے کہ «حضرت مسیح علیہ السلام جسم و روح سمیت آسانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں۔» تو اس پر نہ امت کا اجماع ہوا ہے، نہ اس طرح کی کوئی تصریح قرآن کریم میں کہیں پائی جاتی ہے۔ اور نہ اس آج تک کرنی قابل معلوم ہوا ہے۔ اجماع اور متواتر قرآن کا رہا۔ اس طرح کی کوئی تصریح

اگر قرآن میں کہیں آئی ہوتی تو لازمی طور پر قرآن میں کرنی آئیت بھی ایسی ملتی جس کے انفصال  
یہ ہوتے کہ : ان اللہ قادر فع غیبی حیثاً بحسب دل المحتوى الی استمام۔ اور اس  
طرح کے انفصال کی کوئی آئیت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ نہ آج تک کرنی عالم ایسا معلوم  
ہوا ہے جس نے یہ کہنے کی جرأت کی ہو کہ ”قرآن میں فقط جسم و دروح کی تصریح کی گئی ہے“  
کیونکہ اس طرح کی جرأت کرنے کے معنی صفات یہی ہیں کہ قرآن میں کوئی آئیت ایسی بھی  
ہے جو آج تک پوری امت کو نظر نہیں آئی ہے۔ الغرض : حضرت مسیح علیہ السلام  
کے رفع جہانی پر توانی متفق ہے۔ اور آج تک عہد زبادی سے یہ رفع متواتر تبھی چلا  
آیا ہے۔ رہی اس پر قرآن کریم کی تصریح، تو یہ ثابت ہے اور نہ اس پر امت کا اجماع  
منعقد ہو سکا ہے۔

### ایک ضروری وضاحت

لیکن یہ واضح رہے کہ قرآن میں الگ جو فقط جسم و دروح کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ مگر اس  
کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن رفع جہانی پر ولایت بھی نہیں کرتا، یا اس کی ولایت  
میں قطعیت نہیں پائی جاتی۔ نہیں اور ہرگز نہیں۔ قرآن کی ولایت رفع جہانی پر بالکل  
قطعی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم میں وفصل ذکر کیے گئے ہیں۔  
ایک قتل ہے اور وہ ترا رفع۔ قتل کا فعل تو حضرت مسیح کے جسم و دروح دونوں  
کے عبور سے نفی کیا گیا ہے کیونکہ فما قتلواہ میں صنیر کا مر جمع حضرت مسیح کی  
ذات ہے جو نامہ ہے جسم و دروح کے مجموعہ کا، تو آگے بیل رفعہ اللہ میں اس کے  
یہے جو ایجاداً امریع ثابت کیا گیا ہے۔ وہ بھی اس کی ذات (مجموعہ جسم و دروح) کے  
ثبت ہو گا۔ اس طرح گو لفظ جسم و دروح کی تصریح اس آئیت میں موجود نہیں، تمازج

آیت کی دلالت جسمانی رفع پر قطعی رہے گی۔

دوسری وجہ یہ ہی ہے کہ قرآن کے سیاق و سبق اور انداز بیان سے بھی قرآن کی دلالت رفع جسمانی پر قطعی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ان دلائل سے معلوم ہوا ہے جو اور تفہیم القرآن کی عبارت میں مرلانا نے غیر معمول پن کے اخبار کے لیے بطور قرآن پیش کیے ہیں اور جن کا خلاصہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ ہذا قرآن میں لفظ جسم و روح کی تصریح ذکر نہ سے مسئلہ کی تقطیعیت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ متواترہ المعنی احادیث بھی رفع جسمانی کے ثبوت پر قطعی طور پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بیسے مسئلہ بہر حال قطعی ہے نہ کہ غلطی۔ بالخصوص جبکہ اس پر اجماع امتت بھی ہو چکا ہو اور عہد نبوی سے آج تک متواتر صحی چلا آیا ہو۔ اس صورت میں تو تقطیعیت اور صحی مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی۔

میرے نزدیک رفع جسمانی کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جو اگرچہ قرآن میں صریح نہیں ہیں مگر قرآن کے انداز بیان، امتت کے اجماع اور متواتر اعتمادی دلیل تعامل سے اس قدر اسلامی شریعت میں قطعی قرار پاچکے ہیں کہ ان سے انکار کرنے والا ایک منٹ کے لیے بھی دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ پانچ نمازوں کا بھی ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں ملتی کہ ”فلاں فلاں وقت میں آنی آنی رکعتوں کی نمازوں پڑھی جائیں“ مگر قرآن کے انداز بیان، تمام امتت کے اجماع اور اعتمادی دلیل تو اتر سے اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ اس قدر قرآنی قرار پاچکا ہے کہ پانچ نمازوں کی یا ان میں سے کسی ایک نماز کی فرضیت سے جو شخص بھی انکار کرے گا، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی دائرہ اسلام

میں باتی نہیں رہے گا۔ بالکل اسی نوعیت کا حامل مشکلہ رفع جسمانی بھی ہے۔ اس کے متعلق بھی اگر چہ قرآن میں لفظ جسم و روح کی تصریح نہیں آئی ہے مگر قرآن کے انداز بیان حضور کے متواترۃ المعنی ارشادات، انت کے اجماع اور اعتقادی قوادر سے یہ مشکلہ اس قدر قطعی ہو چکا ہے کہ اس سے بھی انکار کرنے والے کا انعام دری ہو گا جو پانچ نمازوں سے انکار کرنے والے کا ہے۔ لہذا قرآن کی بنیاد پر اگر چہ رفع جسمانی کی تصریح ثابت نہ بھی ہو، مگر چھر بھی رفع جسمانی کا ثبوت دیگر اولادہ شرعیہ کی بنیاد پر قطعی ہی رہے گا۔

### مشکلہ رفع جسمانی کے اجزاء ترکیبی

مشکلہ کی فرید و صاحت کے بیسے ضروری ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی متعین کر کے ان کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ان میں سے کون کون سے اجزاء مصروف الفرقان ہیں اور کن کن کی تصریح قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ جہاں تک ہم نے مشکلہ پر خود و خوض کیا ہے، اور قرآن و حدیث اور علمائے اہل استفت و الجایعت کی علمی تحقیقات کی روشنی میں اس کے اجزاء ترکیبی معلوم کیے ہیں وہ درج ذیل چار اجزاء ہیں جن کو ہم نمبر وار ذکر کرتے ہیں:

**جزء اول:** اس مشکلہ کا پہلا جزو یہ ہے کہ "حضرت مسیح کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا ہے اور نہ انہیں صدیب دیا ہے۔ بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے"

**جزء دوم:** "حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا ہے"

**جزء سوم:** جب قیامت قریب آئے گی تو آسمانوں سے وہ اتر کر دجال کو قتل کریں گے۔ اور وقت کے تمام قلندر کو مشارک اسلام کو نظام زندگی کی

جیشیت سے روشنے زمین پر ناقہ کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلے کریں گے؛ جزو چہارم: "حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ رفع، رفع جسمانی ہے یعنی جسم و روح سمیت آسمانوں پر اٹھاتے گئے ہیں۔ روحانی یا رفع درجات ہرگز مراد نہیں"؛ یہ چار اجزاء یہیں ہیں جن کے درمیان اگرچہ اس بات میں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے کہ یہ سبکے سب امت مسلم کے ماہین بالاتفاق مسلم ہیں۔ اور تمام ان اسلام ان سب کر ملتے ہیں۔ شافعیہ دارکہمیں امت کا کوئی فرد ان میں سے کسی ایک جزو سے اختلاف کرے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ نیز تقریباً کل امت کے ماہین مجموعی الحاظ سے یہ چار اجزاء قطعی المثبتت بھی رہے ہیں۔ ان میں سے بعض قطعی اور بعض دوسرے غلطی نہیں ہیں۔ تاہم ان کی قطعیت میں اس اعتبار سے فرق اور تفاوت صورت ہے کہ بعض اجزاء صریح طور پر قرآن کریم میں ذکر ہیں اور بعض دوسرے اجزاء نظر قرآنی میں مصروف نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کے انداز بیان اور سیاق و سبق سے ان کا ثبوت ملتا ہے۔ یا متوترة المعنی احادیث ان کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔

ذیل میں ہم ان اجزاء کو بھی ذکر کرتے ہیں جو مصرح فی تعلم القرآن ہیں۔ اور وہ اجزاء بھی ذکر کریں گے جن کی قرآن میں تصریح نہیں آئی ہے۔

### الجزاء مصرح فی القرآن

مندرجہ بالا چار اجزاء میں سے پہلے دو جزو یہیں ہیں جن کی قرآن کریم نے صفات طور پر تصریح کی ہے۔ یہ تصریح سورہ نباد کی دوسری ذیل آیت میں موجود ہے:

وَمَا فَتَّلُوا وَمَا أَصَدَبُوا وَمَا لَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَمَا فَتَّلُوا

يَقِينًا بِكُلِّ رَفِعَةٍ إِنَّهُ أَكْبَرٌ - الْأَيَّهُ

ویہودیوں نے اس کو نہ قتل کیا ہے اور نہ صلیب دیا ہے بلکہ معاملہ  
اپن پر مشتمل ہو گیا ہے۔ یقینا انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اللہ  
تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔

اس آیت میں مذکور جبہ بالا چار اجزاء میں سے پہلے وہ جزو بصرات ذکر کیے  
گئے ہیں۔ ایک یہ کہ "حضرت مسیح کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا ہے، اور نہ انہیں صلیب  
دیا ہے بلکہ معاملہ ان پر مشتمل ہو گیا ہے" دوسرایہ کہ "حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے  
اپنی طرف اٹھایا ہے"۔

### اجزاء وغیر مصرح فی القرآن

وہ ہے آخری دعا اجزاء قوانین میں سے پہلا جزو یعنی یہ کہ "حضرت مسیح علیہ السلام  
قیامت کے قریب اُتر کر دجال کو قتل کریں گے"۔ اس کے متعلق تو شاید مولانا موصوفی  
کے خالفین حضرات بھی یہ دعویٰ نہ کر سکیں گے کہ قرآن نے اس کی تصریح کی ہے۔  
لیکن نکہ اس جزو کے متعلق تصریح فی القرآن کا درجہ دعویٰ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ قرآن میں  
بیس ایکس آیت ایسی بھی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ: اَنَّ الْمُسِيحَ اَبْنَ حَمَدٍ  
سِنِنُوْلَ مِنَ الْتَّمَادِ حِينَما دَنَتِ السَّاعَةِ فَيُقْتَلُ الدَّجَالُ الْخَـالِكُ  
ابی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ رہا ان دونوں میں سے آخری جزو،  
یعنی یہ کہ "حضرت مسیح علیہ السلام جہنم درجہ حیثیت آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں"  
اور یہ رفع روحانی یا رفع درجات نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق جو حضرات یہ دو خیال  
کرتے ہیں کہ یہ بھی مصرح فی نظم القرآن ہے اور مولانا مودودی نے اس تفہیم القرآن

یہ جو انکار کیا ہے وہ غلط ہے تو ان کے اس اعتراض کا جواب درج ذیل ہے:-  
دوسرے اعتراض کا جواب

مولانا مودودی نے بیشک تفہیم القرآن میں جسمانی رفع الی اسلام کی تصریح فی القرآن سے انکار کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو چیز بعراحت ذکر کی گئی ہے وہ مت یہ ہے کہ مخدالنے اس کو اپنی طرف اٹھایا ہے (بل رفعہ اللہ علیہ) بہایہ کہ یہ رفع جسم درود حکم کے عبور کا آسمان کی طرف تھا تو قرآن کا مدلول تضاد ہے یعنی سیاق و سبق اور دوسرے قرآن سے یہ مذکور منصوم ہوتا ہے کہ بل رفعہ اللہ علیہ میں رفع سے مزاد رفع جسمانی ہے۔ مگر یہ مترجح فی ظلم القرآن نہیں ہے یعنی محق قرآن کے مذکورہ افاظ کی بنا پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن نے صرف الجسم والروح الی اسلام کی تصریح کی ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کے افاظ میں اس معنی کا اختال بھی نہیں ہے بلکہ قرآنی افاظ میں متعدد اختال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو ہم خارجی روکاں اور پرمنی فدائی سے مستین تو کسکتے ہیں جیسا کہ رفع جسمانی کے اختال کو سیاق و سبق، اور خارجی روکاں مثلاً متوازن احادیث اور اجماع ائمۃ سے قرآن کا مدلول قرار دیا گیا ہے، مگر اس کو قرآن کی تصریح نہیں کہہ سکتے ہیں۔

اوہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے کوئی ایسا شخص انکار نہیں کر سکتا جس کو خدا نے چشم بھارت عطا کی ہو، لگ چشم بصیرت سے محروم ہو کیونکہ اس طرح کی تصریح فی القرآن کا درجی کرنا۔ جیسا کہ مولانا مودودی کے غالباً یعنی حضرات کو رہے ہیں۔ صفات طوبی پر یہ صفت رکھتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ: ان اللہ

قد رفع المیسح ابن مریم حتیاً الی السماو بحسب دلیل الغنوصی هزار ایسی کرنی  
آیت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ میرے خیال میں قرآن کے متعلق یہ دعویٰ کرنا  
کہ اس نے رفع جسمانی الی انسانوں کی تصریح کی ہے، ایک طرف قرآن کریم پر ایک ایسا  
ازام لگانا ہے جس سے قرآن کریم یقینی طور پر بری ہے۔ دوسری طرف یہ ایک ایسی  
ذموم جہارت بھی ہے جو عہد نبوی سے لے کر تعالیٰ حکمہ استحکم کے کسی فرد سے صرف نہیں  
ہوتی ہے اور نہ آئندہ کسی شخص سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسی حراثت کر سکے گا  
لیکن نکہ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی ایسی تفصیل نہیں ملتی کہ وہاں جسم و روح کے الفاظ  
ذکر کیے گئے ہوں، یا حتیاً اور الی استحکم کے الفاظ وہاں پائے جاتے ہوں۔  
چھرکس طرح اس تصریح اور تفصیل کی نسبت قرآن کی طرف صحیح تسلیم کی جائے گی،  
اس یہی قرآن کی بجائے اس تصریح اور تفصیل کی نسبت احادیث کی طرف کرنی چاہیے۔  
یا قرآن کے الفاظ سے باہر جا کر وہ سرے دلائل سے یہ تفصیل متعین کرنی چاہیے کہ  
قرآنی رفع سے مراد رفع جسمانی ہے۔ قرآن کی جانب یہ بات منسوب نہیں کرنی چاہیے  
کہ وہ رفع جسمانی یا بالفاظ دیکھ جسم و روح کی تصریح کر رہا ہے یا یہ تمام چیزیں قرآن  
کریم میں تصریح اور تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ یہی وجہ جواب ہے جو مولانا  
نے ترجمان القرآن کے رسائل میں ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے۔ ذیل میں  
ہم اسے ذکر کر دیتے ہیں:

ایک سائل نے اپنے متعدد سوالات کے ضمن میں مولانا مودودی سے یہ سوال  
کیا ہے:

سوال: ”رفع الی انسانوں میں بھی آپ نے مفسرین سے اختلاف کیا ہے۔

اور رفع کے مفہوم کو ابہام میں ڈال دیا ہے“  
مولانا نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے :

جواب : ”رفع مسیح کے بارے میں جو کچھ میں تے کہا ہے وہ صرف یہ ہے  
کہ قرآن مجید کے الفاظ رفع الی السماء کی تصریح نہیں کرتے اس کا یہ  
مطلوب نہیں کہ وہ اس مفہوم کے محتمل بھی نہیں میں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے  
یہ ہے کہ الحسن ان الفاظ کی بنا پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن  
مجید رفع الی السماء کی تصریح کر رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تفسیر میں اتنی بی  
بافت کہنے پر اکتفا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ یعنی یہ کہ ”اللہ تعالیٰ  
نے ان کو اٹھایا ہے“ اس کے مختلف معانی میں کسی ایک کی تعین قرآن سے  
باہر جا کر تو کی جاسکتی ہے مگر بہر حال اُسے قرآن کی تصریح نہیں قرار دیا جا  
سکتا۔ اس پر اگر آپ کو ابہام کی شکایت ہے تو میں عرض کروں گا کہ اس  
قصہ کے لیعن دوسرے اجزاء بھی ہم طرف سے بیان کیے گئے ہیں مثلاً:  
ایک یہی امر کہ حضرت مسیح حلیمہ السلام جب دشمنوں کی قید میں تھے اور انہوں  
نے آپ کو صلیب دینے کا فیصلہ کیا تو آخر وہ کیا صورت پیش آئی کہ وہ  
آپ کی جگہ کسی اور کو صلیب دے بیٹھے۔ اور اس شبہ میں رہے کہ ہم نے  
عینی ابن مریم کو صلیب دی ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود پیر وان عیسیٰ بھی  
اسی شبہ میں پڑ گئے کیا شبیه لہٰمہ کی کوئی تفصیلی کیفیت آپ کو قرآن  
میں کہیں ملتی ہے؟ آپ اگر ہم کسی پیروںی ذریعہ سے اس کی کوئی تفصیل پیدا  
کریں تو ایسا کر سکتے ہیں مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تفصیل خود قرآن بیان

کر رہا ہے۔“

ترجمان القرآن جلد ۵۷ عدد ۴۰ - ماہ دسمبر ۱۹۵۵ء

سوال کا یہ جواب اور تفہیم القرآن کی تفسیری عبارت، اور اس کی وہ تشریع جو ہم نے پہلے پیش کی ہے، یہ سب بتلا رہے ہیں کہ حضرت مسیح کے رفعِ جسمانی کے متعلق مولانا نے جو کچھ پیش کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ: قرآن کے الفاظ میں رفعِ جسمانی کا نام حرف یہ کہ اتحمال ہے بلکہ یہ ان کا محتمل تریب بھی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے قرآن کے سیاق و سباق سے دلائل اور برائیں بھی پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اور خارجی دلائل کو بھی جیسے قرآنی دلائل اور قرآن کے ساتھ ملائیا جائے، مثلاً متواتر احادیث، اجماع ائمۃ اور اعتقادی تواریخ، تو اس سے رفعِ جسمانی کا ثبوت قطعی ہو جاتا ہے۔ البته قرآن کی کسی آیت میں یہ تصریح موجود نہیں ہے کہ: ۳۰۰ ان اللہ قد رفع عیسیٰ ابن مريم حیاً الی استمار بحدیدہ۔ اب اس پر بھی الگ کسی کو اعراض ہو تو اس کو چاہیے کہ قرآن سے کوئی ایسی آیت پیش کرے جس میں لفظ جسم دردخ اور الی اسماء کی تصریح کی گئی ہو تو ناکہ قرآن میں تصریح رفعِ جسم دردخ اور مولانا مودودی پر اس تصریح سے انکار کا انعام دست اور صحیح ثابت ہو۔ لیکن ع

مقدم از محل مینم چنی مصادق تالی

گذشتہ مباحثت کا خلاصہ

مولانا نے ترجمان القرآن اور تفہیم القرآن دونوں میں اس مسئلہ کے متعلق جو کچھ مختصر تحقیق کی ہے اور جس کی گذشتہ مباحثت میں تشریع ہو چکی ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ درج ذیل ہے:

الفت: یہ بیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے؟  
بہ: اور نہ انہوں نے حضرت مسیح کو صدیق دی ہے بلکہ معاملہ ان پر مشتملہ  
ہو گیا ہے؟

ج: اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کا حکم سے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔  
یہ تینوں باقی قرآن کریم میں بالتصیریخ ذکر میں۔ وَمَا أَتَلَوْهُ وَمَا أَصَكَبُواْ وَ  
إِنَّ شَيْءَ لَهُمْ وَمَا أَتَلَوْهُ يَعْلَمُنَا بِلِ رَفْعَهُ اللَّهُ أَلَيْهِ۔ الایم۔ ربایہ کے رفع کی  
کیفیت کیا تھی؟ تو اس کے متعلق مولانا کی رائے یہ ہے کہ: رفع کی پُردی کیفیت اور  
تفصیل قرآن کریم کے الفاظ میں بالتصیریخ مذکور نہیں ہے۔ البته قرآن اور شواہد اسی  
طرح قرآن کے انداز بریان اور سیاق و سماق سے یہ بات روشن روشن کی طرح عیا ہے  
کہ حضرت مسیح جسم و روح سمیت آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور بل رفعہ اللہ  
الیہ میں جو رفع مذکور ہے، اس سے ربع جہانی کے علاوہ وہ روا کرنی رفع قطعاً مراو  
نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ قرآن کے الفاظ میں مفترح نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے مولانا  
نے قرآن ہی سے درج ذیل چار قرآن بطور دلیل پیش کیے ہیں:

دلیل اول: پہلی دلیل یہ ہے کہ: حضرت مسیح کے متعلق عیا بیوں میں پہلے سے  
یہ عقیدہ موجود تھا کہ وہ جسم و روح سمیت آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور اسی عقیدے  
کی بنیاد پر انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دیا تھا۔ اور سورۃ نسام کی یہ آیتیں ان کے  
اس فاسد عقیدے کی تردید یا اس کی اصلاح کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ اب اگر رفع جہانی  
کا یہ عقیدہ بالکل غلط اور سرسرے سے صحیح ہی نہ ہوتا تو قرآن کریم میں اس باطل عقیدے کی  
صریح لفظوں میں تردید کی جاتی نہ کہ بل رفعہ اللہ الیہ کہہ کر اس کی اُٹھی تائید کی جاتی۔

کیونکہ کتاب مبین کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ تمام تردید میں کسی خیال اور عقیدے کی تردید کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جو اُنہاں اس خیال اور عقیدہ کی تائید کریں یا ان سے اس کو تقویت پہنچے۔

دلیل دوم : رفع جمال کے ثبوت کے لیے مولانا نے تفسیر القرآن میں وہی دلیل یہ بیان کی ہے کہ "قرآن مجید میں بل رفعه اللہ الیہ کے بعد یہ جملہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ أَعْزَى مِنْ أَحَدًا حَكِيمًا، جس کے معنی یہ ہیں کہ "خدا اپر از بر دست عالت رکھنے والا اور حکیم ہے" اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ کسی ایسے معاملہ کے ساتھ رکھنے کا نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ بالغہ کا غیر معمولی ظہور ہے اور قوتیہ اور حکمت بالغہ کا غیر معمولی ظہور اگر ہو سکتا ہے تو رفع جمالی ہی میں ہو سکتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے لگا کہ بل رفعه اللہ الیہ میں رفع سے مراد صرف رفع جمالی ہے نہ کوئی قسم کا رفع۔

دلیل سوم : تیسرا دلیل مولانا نے یہ بیان کی ہے کہ "رفع سے اگر مراد رفع جمالی نہ ہو ما بکہ رفع رفع یا رفع درجات ہر تواتر اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے ادا از بیان یہ نہ ہوتا جو یہاں ہم رکھیں ہے میں بلکہ اس کے لیے رفع رفع کی صورت میں زیادہ مناسب الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ :

"یعنی انہوں نے مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو زندہ بچایا

اور پھر طبی موت دی" ۔

لہو رفع درجات کی صورت میں اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے زیادہ مناسب الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ :

جیہو دیوں نے ان کو ذمیل کرنا پاہا تھا مگر اللہ نے ان کو بلند درجہ عطا کیا۔<sup>۲۴</sup>

یہ مناسب اور موزوں الفاظ چھوڑ کر ایسے الفاظ استعمال کرنا جو بظاہر فرع روح یا رفع درجات کے بجائے رفع جسمانی پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے بیسے تین دلیل ہے کہ یہاں رفع سے مراد رفع جسمانی ہے نہ کہ رفع روح یا رفع درجات۔

**دلیل چارام:** رفع جسمانی کے ثبوت کے بیسے یہیم القرآن کی عبارت سے ایک چوتھی دلیل بھی معلوم ہوتی ہے جس کو مولانا نے قادر بیانیوں کے ایک استدلال، اور اعراض کا جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ: آیت افی متوفیک میں فند تو قی سے مراد پھی قبض روح و جسم ہے جو سورہ نباد کی آیت میں لفظ رفع کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور قبض روح و جسم و جسمانی رفع، کا یہ داعیہ پوری نوع انسانی کی تاریخ میں صرف ایک وقوعہ پیش آیا ہے ربعی حضرت عیینی علیہ السلام کے حق میں، دوسرا ہے کسی فرد مشترک کے حق میں اصلًا مستحق تھیں ہمارے اور لفظ عربی میں تو قی کا لفظ قبض روح و جسم یعنی جسمانی رفع میں مستعمل ہونے کی وجہ اشارة ہے۔

ہذا قادر بیانیوں کا یہ سوال کہ "تو قی کا لفظ قبض روح و جسم درفع جسمانی، میں مستعمل ہونے کی کتنی اور تغیر بھی مل سکتی ہے؟" لغو اور بے معنی بات ہے، کیونکہ اس کے بیسے تفسیر جسمی ملتی کہ حضرت عیینی علیہ السلام کے علامہ دوسرا بھی کتنی فرم بشر جسم و روح سمیت آسمانوں پر اٹھایا گیا ہوتا۔ حالانکہ کسی کے حق میں ایسا نہیں کیا گیا ہے؟

بیچارہ اُمیں جو قرآن پری سے رفعِ جسمانی کے ثبوت کے لیے مولانا نے تفہیمِ القرآن میں پیش کیے ہیں۔ اور جن کے پیشِ نظر اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور بلکہ رفعِ جسمانی کے تزویج کے رفعِ جسمانی ہے نہ کہ دوسری قسم کا رفع۔

لیکن چونکہ قرآن کے الفاظ میں فقط جسم و روح کی کوئی تصریح نہیں کی گئی ہے، نہ اس رفع کی کوئی تفصیل کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس لیے مولانا نے بحث کے انتظام پر یہ بھی لکھ دیا کہ رفعِ جسمانی کی تصریح فی القرآن سے اتنا بہبود کیا جائے تا کہ قرآن کی حرف کوئی ایسی چیز مسووب نہ ہو جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ صاحبِ تفہیم کی مزید وضاحت

اپنا موقف و مدعای مزید واضح کرنے کی خاطر مولانا موصوف نے تفہیم القرآن جلد اول پر نظر ٹکانی کرتے ہوئے سورہ نساء کے حاشیے کے اس آخری فقرے کو حدیث کرو دیا ہے کہ "قرآن کی روح سے جو طرزِ عمل زیادہ مطابقت رکھتا ہے..." اور اس کے بجائے حسب ذیل سطور درج کر دی ہیں:

"پھر رفعِ جسمانی کے اس عقیدے کو مزید تقویت اُن احادیث سے پہنچتی ہے جو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آئے اور دجال سے جنگ کرنے کی تصریح کرتی ہیں رَتْفِيْرِ سورہ احزاب کے ضمن میں ہم نے ان احادیث کو نقل کر دیا ہے۔ ان سے حضرت عیسیٰ کی آمد نافی تو قطعی طور پر ثابت ہے۔ اب یہ ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ ان کا مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آمازیادہ قرین قیاس ہے"

یا زندہ کہیں نہای کائنات میں موجود ہونا اور پھر واپس آناؤ؟  
 یہ ہیں مسئلہ رفع جمافی کے بارے میں مولانا مودودی کی تصریحات۔ ان کی  
 روشنی میں میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی عالم، بلکہ ایک خدا ترس آدمی بھی یہ جرأت کر سکے گا  
 کہ مودودا پر یہ الزم حکائے کہ وہ حضرت علیہ السلام کے لیے رفع جمافی کے  
 ثبوت سے انکاری ہیں یا اس بارے میں انہوں نے عامہ اہل السنۃ سے اپنے یہ  
 میلحدہ کوئی مددک یا عقیدہ ایجاد کیا ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی  
 روشنی میں ابتداء سے اہل السنۃ والجماعۃ کے مابین جو مسئلہ متفق علیہ چلا آیا ہے  
 وہ یہ ہے کہ "حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں پر حبہم و روحِ سمیتِ الْحَمَّاءَ گئے  
 ہیں۔ اور پھر دیوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، نہ صلیب دی ہے۔ اور جب قیامت  
 قریب ہو گی تو اس وقت آسمانوں سے نزول فماکرو تعالیٰ کو قتل کر دیں گے اور زمین  
 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ کی حیثیت سے اسلامی شریعت کو نظام  
 زندگی کی حیثیت سے ناقص کر دیں گے اور وقت کے تمام فتنوں کا استعمال  
 فرمائیں گے" اور مولانا مودودی ان تمام باتوں کے تالیں ہیں۔

---

## باب چھارم

### تغییر، اور معیارِ حق کا مسئلہ

نزاعی مسائل کی فہرست میں ایک مسئلہ یہ بھی رکھا گیا ہے کہ آیا صحابہ کرام پری  
افت کے بیٹے معیارِ حق اور ہر قسم کی تنقید سے بالاتر میں یا معیارِ حق تمام امت  
کے لیے پر شمول صحابہ کرام صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہیں اور صحابہ کرام تنقید  
سے بالاتر نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ دستورِ جماعت اسلامی کی دفعہ مذکور سے پیدا ہو گیا ہے۔  
اس دفعہ میں یہ لکھا گیا ہے:

مذکور رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیارِ حق نہ بنتے۔ کسی کو  
تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔

اس پر بعض علمی حلقوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس دفعہ میں جو  
الناظر ہیں، ان کے حومہ میں صحابہ کرام بھی آجاتے ہیں کیونکہ وہ بھی رسول خدا کے  
سرا انسان ہیں، تو صحابہ کرام بھی اس دفعہ کی رو سے محل تنقید بن جلتے ہیں۔ حالانکہ  
احادیث کی رو سے ان پر تنقید جائز نہیں بلکہ وہ تمام امت کے لیے معیارِ حق کی  
حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ تمام اہل السنۃ کا ایک اجتماعی تنقید ہے ہے لہذا مندرجہ  
بالا دفعہ اہل السنۃ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہے تو وہ احمد بن دین و مسیو بھی اہل

الست و الجماعت کے ذمہ میں شامل نہیں بلکہ اس سے خارج ہیں۔"

اس میں شک نہیں کہ تنقید کے بارے میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے دوسرے اہل علم حضرات کا عقیدہ جس کو انہوں نے اس ذمہ اور اپنی دوسری مختلف تحریروں میں واضح طریقہ سے بیان کیا ہے اور جس پر وہ مضبوطی کے ساتھ قائم بھی ہیں۔ یہ ہے کہ انہیاں علیہم السلام کے ماموا نہ کوئی انسان معیارِ حق بن سکتا ہے۔ اور نہ تنقید سے بالآخر قرار دیا جاسکت ہے۔ خواہ وہ صحابہ کرام کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ یا اس کا تعلق دوسرے اہل علم اور ائمہ و بزرگان دین سے ہو۔ ان سب پر تنقید کی جاسکتی ہے۔ اور کوئی بھی ان میں سے نہ تنقید سے بالآخر ہے اور نہ دوسروں کے لیے معیارِ حق۔

اس کے برعکاف دوسرے حاضر کے وہ اہل علم جو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے مخالف ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام انت کی بر قسم کی تنقیدات سے بالآخر ہیں اور پوری امت کے لیے معیارِ حق ہیں۔ ان پر اور ان کے فیصلوں پر کسی قسم کی تنقید جائز نہیں ہے۔ اور جس نے بھی ان پر اس قسم کی کوئی تنقید کر لی فیصلوں کی جماعت کی جماعت سے کٹ کر فرق بالله کے ساتھ قائم ہو گا۔ اسی طرز جو بھی شخص ان پر یا ان کے فیصلوں پر تنقید کو جائز سمجھنے کا وہ بھی اہل است و جماعت سے غدک نہیں رہے گا بلکہ اہل بدعت میں شامل ہو گا۔ اس طرح مسئلہ کی جمیثت اصول مسائل کی ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ کافی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔

**محل نزاع:** صحابہ کرام کے اجتماعی فصیلے یا انفرادی آقوال؟

اس کے بعد یہ بات تحقیق طلب رہ جاتی ہے کہ فرقیین کے مابین محل نزاع کیا

چیز ہے۔ آیا صحابہ کرام کے اجماعی فحیصلے ہیں یا ان کے انفرادی اقوال اور اجتہادی اکارادی تو جہاں تک بہم نے اس مسئلہ سے متعلق فریقین کے بیانات اور مصاہیں پڑھے ہیں۔ اس کے پیش نظر بلا خوب تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان دونوں گروہوں کے میں محل زراع صحابہ کرام کے وہ فحیصلے ہرگز نہیں ہیں جن پر ان کا اجلد ہو چکا ہو۔ اس قسم کے اجماعی فحیصلوں کے متعلق دونوں فرقی اس بات پر تتفق ہیں کہ وہ امت کے لیے جوت ہیں اور تنقید سے بھی بالاتر ہیں، بلکہ محل زراع ان کے مابین صحابہ کرام کی اجتہادی آراء اور انفرادی اقوال ہیں۔ ابھی کے متعلق ایک فرقی کی راستے یہ ہے کہ وہ تنقید سے بالاتر ہیں۔ اور دوسرے فرقی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان پر تنقید کی جاسکتی ہے۔ لہذا صروری ہے کہ پہلے مسئلہ کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کی جائے۔ پھر دلائل سے مسئلہ کا عملی جائز ہے کہ وہ واضح کیا جاتے کہ دونوں گروہوں میں سے کرنے سے گردد کی راستے اقرب الی انصواب ہے اور کس کی راستے میں برا خطا ہے؟

### لفظ تنقید کے معانی

عربی محاورے میں تنقید کا لفظ تقدیس سے لیا گیا ہے اور تقد، استقاد اور تنقد سے معانی کتب و لغت میں قریب قریب ایک ہی۔ یعنی کسی چیز میں غور و فکر اور ثماں کرنے کے بعد یہ تمیز کرنا کہ جید ہے یا بدقیقی کھری ہے یا کھروٹی۔ اس کھرسے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرنے کا نام تنقید، تقد اور استقاد ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی کتب و لغت میں اس لفظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں۔

قاموس میں جہاں اس لفظ کے کہی اور معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ وہاں اور پر کے بیان کردہ معانی بھی اس لفظ کے معانی میں شامل کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مریمہ اول ص ۲۱۱

یا ب الدال فصل النون میں ہے: انقدر تمیز الدراهم وغیرہا کا انتقاد  
والانتقاد یعنی تقدیم اور انتقاد کی طرح روپوں میں کھرے اور کھوئے  
کی تمیز کرنا ہیں۔ مُنجد میں ہے: نقد الدراهم وغیرہا: میزہا ونظرہا  
دیہوت جیہد ہامن ردیہا یعنی تقدیم دراهم کے معنی یہ ہیں کہ ان میں نظر لو تو اُنلی  
کر کے کھرے اور کھوئے کو پہچان کر ایک کو دوسرے سے الگ کیا جائے۔ انتقاد  
الدراءہم اخرج الزیست منها یعنی انتقاد دراهم کے معنی ردی کو ان میں سے  
نکالنا ہیں۔ تقاد الدراهم میزہا و اخرج الزیست منها یعنی انتقاد کے معنی  
بھی اشقاو کی طرح کھرے اور کھوئے کے درمیان تمیز کرنا اور ردی کو ان میں سے  
نکالنا ہیں۔ تقد الدراهم وغیرہا یعنی نقدہا یعنی تقدیم دراهم کے معنی  
بھی وہی ہیں جو نقد کے ہیں۔

اسی محاورے سے تقدید کا الفاظ اور زبان میں جانچنے اور پڑھنے کے معنی میں  
مستعمل ہونے لگا ہے۔ یہاں تکہ کہ لغات عربی کے معانی بیان کرنے کے لیے یعنی  
کتابیں اور وزربان میں بھی لگتی ہیں۔ تقریباً سب میں تقد، انتقاد اور تقدید کے معنی  
یہ بیان کیسے گئے ہیں کہ جانچنا اور پڑھنا۔

لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ عربی محاورے میں یہ الفاظ عیوب  
اور نعاص، فضائل اور محسن کے انہمار میں بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ مُنجد میں ہے:  
نقد الكلام اظہر ما به من العیوب والمحاسن۔ انتقاد الشعر على  
فائلہ۔ اظہر عیوب۔ انتقاد الكلام اظہر عیوب ومحاسن۔ علامہ  
ان شیر نے نہایہ میں ذکر کیا ہے: وَنِي حَدِيثُ أَبِي الدَّرَدَاءِ إِنْ قَدَّتْ لَنَّ

**نقد و کث - ای ان عبته و را خذہ تم عابوک بمشتبه اد**

اسی محاورے سے فقط تنقید میں عیب جوئی کے معنی کی بھی گنجائش پاتی جاتی ہے۔ خواہ اردو زبان میں تنقید کا فقط اس میں متعلق ہمہ یا نہ ہو۔ مگر اصل فقط میں عیب جوئی کے معنی کی گنجائش ضرور پاتی جاتی ہے جیسا کہ اور پر کے عربی محاورات سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب دلیل میں تنقید کی شرعی حیثیت پر بحث کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ شرعاً کی تکاہ میں تنقید کی کیا حیثیت ہے؟

**تنقید کی شرعی حیثیت**

عیب چینی یا عیب جوئی: تنقید کے مندرجہ بالا درومندوں میں سے جو آخری صنی ہیں۔ یعنی عیب جوئی یا عیب چینی، اس کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی رو سے یہ ہے کہ وہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کے مومن پر بھی جائز نہیں۔ الایہ کہ تنقید نہ کرنے سے دین کی عظیم تر مصلحت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ اسی قبل سے وہ تنقید ہے جو حفاظت دین کی غرض سے ائمہ حدیث نے روایہ حدیث پر کی ہے۔ جس کو ان کی اصطلاح میں "الجرح والتعديل" کہتے ہیں۔ کئی اور بھی صورتیں ہیں جن میں کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے فتحہ کرنے اس قسم کی تنقید کو جائز رکھا ہے۔ ان چند مخصوص صورتوں کے علاوہ کسی مومن پر بھی یہ تنقید جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہ دن سے ادنیٰ درجہ کا مومن کیوں نہ ہو تو صحابہ کرام پر یادوں سے ائمہ اور بنی کان و دین پر یہ تنقید کس طرح جائز ہوگی؟ درآنکا میکہ دین کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امت کے درمیان صحابہ کرام اور ائمہ دین سے زیادہ قابل التحاذق دوسرے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ بھی اس قسم کی تنقیدوں سے بالآخر نہ رہیں تو پھر دین کے

بارے میں بھروسہ کس پر کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک دین کی رسائی کے لیے اور قابلِ اعتماد فدائی کیا ہوں گے؟ اس لیے صحابہ کرام، یا دوسرے ائمہ سلف اس قسم کی تنقید کے لیے موروثیں بن سکتے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کا واضح اور قطعی فیصلہ یہ ہے کہ اس قسم کی تنقید دوسروں کے عیوب کی تلاش اور تحریک ہے جو تیناً حرام ہے۔ اس میں ایک مومن کی بلا وجہ آبرو زیبی بھی ہے جو شریعت میں قطعی طور پر ممنوع ہے یہ ایک غیرت بھی ہے جو مرے ہرے مسلمان بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَجْسُدُوا وَلَا يَغْتَبُّ بَعْضُكُمُ الْيَعْصُنَا۔ أَيْحِبُّتْ أَحَدُكُمُ الْأَنْ  
يَا مُلَكَّ الْحَمْرَاءِ أَخْيُهِ مَيْتًا فَكَوْهْتُمُوهُ۔ (البقرات)

”ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو پڑھ پچھے  
براکچے۔ کیا اچھا لگتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ کھانے اپنے مرے ہوئے  
بھائی کا گوشت؟ سو گھن آتی ہے تم کو اس سے“  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

لَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُنَّ مُنْ يَتَّبِعُ عَوْرَاتَ الْمُسْلِمِينَ

يَفْضِلُونَهُنَّ اللَّهُ وَلَوْفِي جَوْفِ بَيْتِهِ (اوکھا تھاں)۔

مسلمانوں کے پوشیدہ عیوب کو تلاش نہ کرو جس کسی نے ان کے پوشیدہ  
عیوب تلاش کیے خدا اس کو رہا کرے گا۔ اگرچہ وہ اپنے گھر یہی میں رہے۔  
جمہ امداد اس کے موقع پر زندگی کے آخری لمحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے اپنے خطبہ میں امت کو اعراض کے بارے میں یہ مہابت اور وحیت فرمائی تھی کہ:

ات دماء کھو دا موں کھو دا حراض کو علیکم حرامہ را الحدث۔

دنم پر ایک دوسرے کی جان و مال بھی حرام ہیں اور آب و پیسی بھی حرام ہیں  
یہ اس تنقید کی شرعی حیثیت ہے جو عیسیٰ چینی اور عیسیٰ جملی کے معنی میں استعمال ہوتا  
ہے۔ رہی دہ تنقید جو جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں متعلق ہوتی ہے تو اس کی شرعی حیثیت صاف  
کرنے کے لیے درج ذیل مطہر کو ملاحظہ فرمایا جائے۔

تنقید کے دوسرے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی قول اور  
فیصلہ کو بارگاہ اور عمل کو کتاب و مشت کی شرعی کسوٹی اور ردود قبول کے شرعی معیار پر  
جانچا اور پرکھا جاتے اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد دیکھا جاتے کہ قابل قبول ہے یا لا تُ  
تردید۔ اس تردید کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ہر اس راستے اور قول و عمل پر کی جاسکتی ہے  
جس میں صواب اور خطا، صحیح اور غلط دونوں کا اختصار ہر، اور حق و صواب کا پہلو اس میں  
متین نہ ہو۔

اور ہر وہ راستے اور قول و عمل قابل تنقید نہیں ہے جس میں حق اور صواب کا پہلو  
متین ہو۔ اس کی صحت یقینی ہو اور خطا و غلط ہونے کا اس میں اختلال ہی نہ ہو۔ یہ  
قول و عمل معیار حق بھی ہیں اور تنقید سے بھی بالاتر ہیں۔

اس معیار کو سامنے رکھ کر جب ہم قرآن و حدیث سے اس تنقید کے متعلق یہ معلوم  
کرنا چاہتے ہیں کہ کن لوگوں کے اقوال و افعال پر یہ تنقید جائز ہے اور کون ہیں جو  
اس قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں تو بغیر کسی اشتباہ کے ہم پر یہ حقیقت مشکلت ہو جاتی  
ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام یقیناً اس تنقید سے بالاتر ہیں اور ان کے علاوہ  
اممت کے تمام افراد کے انفرادی اقوال ہرگز تنقید سے بالاتر نہیں ہیں۔ بلکہ ان پر

شنتید کی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے "معیارِ حق" صرف اللہ تعالیٰ کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور کتاب و صفت کے علاوہ کسی کا ذاتی قول یا اجتہادی فحیلہ ہرگز معیارِ حق نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قابل ہے کہ کتاب و صفت کے معیارِ حق پر جانچا اور پر کھا جائے اور جانچنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کتاب و صفت کے ماتحت مطابق ہے یا نہیں۔ مطابق ہو تو معمول بنا یا جائے گا اور مخالف ہو تو محض ڈیا جائے گا۔

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ "معیارِ حق" دراصل نام ہے اس چیز کا، جس کے ماتحت قول و عمل کی مطابقت اس کے حق ہونے کی علامت ہو اور مخالفت باطل ہونے کی نشانی ہو۔ اور یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو یقیناً حق ہوا اور باطل ہونے کا اس میں اصل امکان نہ ہو۔ اور طاہر ہے کہ یہ چیز ایک طرف خدا کی آخری کتاب رقرآن ہے۔ اور دوسری طرف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ لہذا معیارِ حق بھی صرف اپنی روشن کوتیری کی جائے گا۔

رہے افراد اتنے کے انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلے ا تو گردہ بڑے بڑے بزرگوں اور قابل احترام شخصیتوں کے اقوال اور فیصلے کیوں نہ ہوں۔ مگر یہ حال خطاو اور غلطی سے توندہ محفوظ نہیں ہیں نہ ان میں حق اور صواب کا پہلو یقینی طور پر تعین ہے، لہذا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں کتاب و صفت کی طرح معیارِ حق قرار دیا جائے یا ان کو شنتید سے بالاتر سمجھا جائے۔ بلکہ لازماً کتاب و صفت کے معیارِ حق پر جانچ کر اور شری کسوٹی پر پکھ کر دیکھا جائے گا کہ وہ اصل معیارِ حق پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اتنے کے افراد خطاو اور غلطی سے معصوم نہیں ہیں۔ عصمت صرف انبیاء کی مخصوص صفت ہے جس میں ان کے ماتحت

کرنی بھی فرد شرکیب نہیں ہے اُن کی آراما و راقوال، فیصلے اور اعمال سبکے سب  
وہی ابھی کے تحت ہونے کی وجہ سے خل اور صواب ہیں۔ ان میں نہ غلطی کا شاہر ہو  
سکتا ہے اور نہ خطایکا امکان، امہدا وہ ہر قسم کی تنقید سے بھی بالاتر ہیں اور امت  
کے لیے اپنی پوری زندگی میں بہترین قسم کا اسوہ بھی ہیں۔ تقدیم کا نکوہ فی رسول  
اللہ امسواہ حسنہ۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا، قرآن و حدیث سے اس پر دلائل بھی پیش کیے جاسکتے  
ہیں۔ ذیل میں انہیں ملاحظہ فرمایا جائے تاکہ نبی اور غیر نبی کے مابین اچھی طرح فرق  
 واضح ہو جائے، اور غیر نبی کو نبی اور رسول کے ساتھ شرکیب نہ کیا جائے  
**تنقید از روئے قرآن**

تنقید کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طریقہ سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ  
نبی اور رسول ہی یہ شان رکھتا ہے کہ اس کی ذات ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہوتی ہے  
رسول ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام ہی یہ نہیں ہے کہ اس کے احکام اور فیصلے  
کسی دوسرے معیار اور کسوٹی پر جائز کر اور پرکھ کر دیجئے جائیں کہ قابل قبول  
ہیں یا نہیں۔ حاشا وکلا۔ بلکہ منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کی وجہ سے  
اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا ہر حکم اور فیصلہ تمام امت کے لیے ہر حالت اور ہر  
زمانہ میں بغیر کسی قسم کی چون و چراکے تباہیات ناقابل ترمیم و مستور اور ابدی حکم کی  
حیثیت سے واجب الاطاعت ہے۔ آپ کے کسی حکم اور فیصلہ کے متعلق جب لیکے  
و فہری معلوم ہو جاتے کہ وہ آپ کا حکم اور فیصلہ ہے تو پھر اس کی طرف تنقید کی نکاحے  
و کیجا بھی نہیں ممکن۔ اور دیکھا گیا تو ایمان نہیں رہے گا اچھے جائیکہ اس پر تنقید کروی جائے۔

کسی مومن کو ایمان کی دولتِ نصیب ہی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں رسول کی ذاتِ گرامی کو واحد حکم اور قاضی نہ تسلیم کرے۔ اور پھر مالک میں اس کی اطاعت کرو اپنے لیے ذریعہ نجات نہ مانے۔ یا ول میں آپ کی اطاعت کے بارے میں شکلی عسوی کرے۔ اس بارے میں قرآن کا اعلان یہ ہے:

فَلَا وَرَبَّ لَأُقْبُلُ مِنْكُمْ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُمْ فِيمَا شَجَرْتُمْ هُمْ  
شَهَدُ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا عَمَّا تَضَعَّفُتْ وَيُسَلِّمُوا  
ذَلِيلًا۔ (الشاد)

”قسم ہے تیرے رب کی یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تمجد کو ہی منصف جانیں اس محکمہ کے میں جو اٹھے ان میں پھر نہ پاوی اپنے بھی میں شکلی تیرے فیصلہ سے اور قبول کریں اسی کو خوشی سے“

اس آیت میں صفاتِ القاطلوں میں یہ حقیقت دامنح کردی گئی ہے کہ خدا کی نظر میں رسول کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جب تک انسان اپنے ظاہراً درزا طعن دنوں ہنڈلے میں فرمان نہ بنے اس وقت تک اسے ایمان کی دولتِ نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ایسے بلند مقام اور اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود نبی کی ذات کے متعلق یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس پر تصدید جائز ہے؟ اور کیا اس تصور کے ساتھ ایمان بھی باقی رہ سکتا ہے؟ حاشا وکھا۔

قرآن نے اس حقیقت کو بھی بے نتایب کیا ہے کہ رسول کی ذات اُن لوگوں کے لیے اُسوہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے سنبھالی ہوں انسان جیسا کہ اپنی نملگی میں اعتقاد و اہل کے لاماؤں سے اللہ کے بھیج چکے رسول کا پردی طرح پڑیں گے۔ یہے اللہ تعالیٰ سے اس کا من مشکل تھا۔

لَقَدْ كَانَ لِكُفَّارٍ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُشَوَّةٌ حَتَّىٰ لَمَّا كَانَ يُبَوِّجُ  
أَنَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ۔ (المتحفہ-۱)

مذکورین ہے تمہارے بیٹے رسول خدا کی ذات میں اچھا نہ ان لوگوں کے  
بیٹے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اور قیامت کی امید رکھتے ہیں:

یعنی جو لوگ متوقع ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا  
ہے انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں رسول کی ذات گرامی کو اپنے لیے نمودنہ عمل پاک اس  
کی پیروی اختیار کریں۔

رسول کی اطاعت ہر حالت میں لازمی ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
آمُرَ آئُنَّ مَكْوُنَ لَمُهْرَأ لِجَنَّةٍ مِنْ أَخْرِ جَهَنَّمَ۔ (الآلیہ-۱)

”اور کسی مومن مرد یا عورت کا یہ کام نہیں ہے، جب اللہ اور اس  
کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں کہ وہ اپنے اختیار سے اس فیصلے کے خلاف  
کر دی۔“

یعنی اللہ و رسول جب کسی معاملہ کے متعلق اپنا حکم اور فیصلہ دیں تو اس حکم کے  
آگے ہر مومن کو سرتسلیم ختم کرنا پڑے گا۔ اور تعییل کے بارے میں کسی مومن کو خواہ  
وہ مرد ہو یا حورت، یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ چاہے تو مان لے اور چاہے تو  
زنکار کر دے۔ یا چاہے تو عمل کرے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ بلکہ ہر حالت میں  
حکم کی تعییل کرنی پڑے گی۔ اور مانتے اور نہ مانتے یا عمل کرنے اور نہ کرنے کا کوئی  
اختیار باقی نہیں رہے گا۔ بہر حال قرآن کی رو سے یہ حقیقت روز بیرون شدن کی طرح

عیاں ہے کہ رسول کی ذات پر قسم کی تنقید سے بالآخر ہے اور دوسری صرف حق کا معیار بھی ہے۔

رہے افراد امت، تردد و نہ حق کے لیے معیار ہیں اور نہ تنقید سے بالآخر ان کا اصل اور حصیقی مقام وہ ہے جو درج ذیل مسطورہ میں بیان کیا گیا ہے:

### امت کا مقام

بھی اور رسول کے مقام سے امت کا مقام بہت بچھوٹ مختلف ہے۔ امّہ نبی کو جو مقام عطا کیا ہے وہ ہرگز امت کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید نے بخاری و مسیحی اس طرح کی ہے کہ امت میں خواہ بڑے سے بڑا شخص کیروں نہ ہوئے یہ مقام ہرگز حاصل نہیں کر اس کے انفرادی اقوال اور اجتہادی اکاراہر حالت میں نہیں کی طرح محبت اور واجب الاطاعت ہوں اور اس میں یہ دیکھنے اور سرچنے کی حضورت ہی نہ ہو کہ یہ اقوال اور اجتہادی فیصلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شرعاً کے موافق بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اور کتاب و سنت کے معیارِ حق پر پورے اترے ہیں یا نہیں بلکہ افراد امت کا اصل مقام یہ ہے کہ ان کے تمام انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلے کتاب و سنت کے معیارِ حق پر جانچے اور پرکھے جائیں گے۔ پھر ان میں سے جو بھی قول اور فیصلہ شرعاً کے موافق بھی پر پورا نہیں اُترے گا اور کتاب و سنت سے غیر موافق ثابت ہو گا اُسے رد کیا جائے گا۔

انغرض نبی اور رسول کے ماسماں افراد امت بجا تے خود معیارِ حق نہیں ہیں۔ ان کے اقوال اور فیصلے ان کی شخصیتوں کی بنابر صحبت اور واجب الاطاعت ہیں۔ ان میں محبت اور ثابِ اطاعت ہونے کی جو صفت پیدا ہوگی وہ کتاب و

سنّت کے معیارِ حق پر جانچنے اور پرکھنے ہی سے پیدا ہوگی، باس طور کہ اگر اس کے مطابق موافق ہوں تو محبت اور قابلِ اطاعت قرار دیتے جائیں گے ورنہ قابلِ ترک سمجھے جائیں گے۔ بھی مطلب ہے دستورِ جماعتِ اسلامی کی دفعہ بلا کا کہ حرمتوں خدا کے سوا کسی کو معیارِ حق نہ بناتے اور کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔

ذیل میں اور پر کے دعویٰ کے ثبوت کے لیے دلائل ملاحظہ فرماتے جائیں۔

### کتاب و سنّت کے واحد معیار ہر شیک دلیل اول

قرآن مجید سے اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے چیل دلیل یہ ہے کہ اللہ و رسول کے بعد اقتضیت پر جن لوگوں کی اطاعت فرض اور لازم قرار دی گئی ہے وہ مسلمانوں کے اولو الامرین۔ جائز امور میں تمام رعایا پر قرآن کی اطاعت فرضی ہے۔ ارشاد ہے:

**أَطْبَعُوا إِلَهَهُ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ** «اطاعت کر و خدا کی اور اطاعت کر و رسول داؤلی الامر مختار»۔ الاکیہ کی اور قرآن امر اکی اطاعت بھی کرو جو تم میں سے ہوں۔

یہ تحقیقت بھی ہر شیک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اس آیت کے اولین مخاطب خود صحابہ کرام ہیں اور بالواسطہ پوری اقتضیت کے باقیماندہ افراد بھی ہیں اور سب کو یہ حکم ہے کہ اللہ و رسول کے بعد اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔

لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی رو سے اولو الامر کو بھی اور عام صحابہ کرام کو بھی زندگی کے سائل اور معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا حق دیا گیا ہے اور جس طرح اولو الامر اپنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اسی طرح عام صحابہ بھی اُن سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی معاملہ میں آخوندی فیصلہ کتاب و سنت ہی پر ہوگا اور سب کو خواہ وہ اولو الامر ہوں یا عام صحابہ کرام اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اس میں نہ اولو الامر کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ باہمی اختلاف کی صورت میں ہر ایک اپنی اپنی راستے پر قائم رہے۔ اور نہ عام صحابہ کرام کو یہ حق پہنچا لے کہ اولو الامر سے اختلاف کرنے کی صورت میں اپنی اپنی راستے پر اصرار کرتے رہیں۔ بلکہ سب کے سب فیصلہ کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ ارشاد ہے:

فَإِنْ تَأْتِنَّ مُخْتَمِّمٍ فِي مَيِّتٍ فَرُدِّدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ حَسِيبٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ (المساء)

”اگر تمہارے مابین کسی چیز میں جھگکڑا واقع ہو تو اسے اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول کی سنت کی طرف لٹایا، اگر تم اللہ اور ربِ زمین کی خاتم پر فقیہ رکھتے ہو۔ یہ بات اچھی اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔“  
پس جبکہ اس آیت کی رو سے اولو الامر اور عام صحابہ کو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہو گیا اور اختلاف کی صورت میں ہر ایک فرقی کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف رجوع کرو تو معلوم ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی معیارِ حق نہیں ہے۔ نہ کسی کے انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلے تنقید سے بالآخر ہیں۔ ورنہ ان کو اول تو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا حق ہی حاصل نہ ہوتا۔ بلکہ جو بھی معیارِ حق اُن میں ہوتا، دوسروں کو اس کے قول کی لازماً پیروی کرنی

پڑتی۔ یا کم سے کم باہمی اختلافات کی حالت میں ہر ایک کو یہ حکم ہوتا کہ اپنی اپنی رائے اور فیصلہ پر قائم رہو کیونکہ تم سب کے سب معیارِ حق ہو۔ یا چھر تیرے درجہ میں صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے والے ہوں ان پر تو یہ پابندی عائد کر دی جاتی کہ تم کو صحابہ یا ان کے اولو الامر سے اختلاف کرنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ وہ تمہارے لیے معیارِ حق ہیں اور تمہاری تنقیدات سے ان کے فیصلے بالاتر ہیں۔

لیکن آیت میں ایسی کرنی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے بلکہ سب کو کیاں طور پر اختلاف کرنے کا حق دے دیا گیا ہے۔ اور اختلافات کی صورت میں سب کے لیے آخری مرجع اور فیصلہ کن قانون خدا کی کتاب اور رسول کی سنت قرار دیا گیا ہے جس سے صاف طور پر واضح ہے کہ دراصل معیارِ حق اور ہر قسم کی تنقید سے بالاتر صرف اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہے نہ کہ صحابہ کرام اور ان کے الفرادی فیصلے۔ اس طرح مندرجہ بالا آیت قرآنی ان لوگوں کے لیے ایک قوی اور مضبوط دلیل ہے جو ”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو نہ معیارِ حق سمجھتے ہیں اور نہ تنقید سے بالاتر“

## دلیل دوم

قرآن مجید میں دو بزرگ نبیوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ مقدمہ الذکر حضرت ایک طرف صاحب شریعت اور جلیل القدر اولو العزائم پیغمبر ہیں۔ اور دوسری طرف انہیں مکالثہ اہلی کاشریت بھی حاصل ہے۔ وہ ہیں

صاحب تراث، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے : وَكَلَمَ رَبِّنَا اللَّهُ مُوْسَىٰ تَحْكِيمًا ۝ اللَّهُ تَعَالَى نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست مکالمہ کیا ہے :

اور مُؤخِّر الذکر وہ بزرگ ہیں جو فی الجملہ کائنات کے پُر اسرار و اقعتات کے پُر شیء  
رازیوں سے باخبر ہیں اور جنہیں خدا کے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا ہے وَاٰتَنَا ۝  
مِنْ لَدُنْنَا عِلْمًا ۝ اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم خاص عطا فرمایا ہے ۝ قرآن  
کریم میں ان دورگزیدہ ہستیوں کا یہ واقعہ جس زنگ میں بیان کیا  
گیا ہے اور بخاریؓ و مسلمؓ میں اس کی جو تفصیل روایات میں آئی ہے اس کے پیش نظر  
اس حقیقت میں کوئی خنا باقی نہیں رہتا ہے کہ جس علم سے حضرت خضر علیہ السلام توفی  
گئے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ بلکہ حضرت خضر اس علم میں  
حضرت موسیٰ سے بڑھے ہوتے تھے۔ روایات میں بھی اس کی تصریح آچکی ہے۔ بیان  
ان لی عبید ابیسح ابھرین ہوا عدو مند رنجاریؓ

لیکن، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر جیسے اعلم کے تین کامانوں  
پر، جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بظاہر جواز کی کوئی گناہ ش  
نہ تھی، حضرت موسیٰ نے برخلاف تعمید فرمائی۔ یہاں تک کہ معاہدہ رفاقت میں مٹ شدہ  
شرائط کی خلاف درازی بھی ہو گئی مگر تنقید نہ چھوڑی گئی۔ حضرت خضر کے دہ تین  
کامانے کیا ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنقید فرمائی ہے وہ قرآن مجید  
میں مفصل طور پر سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں وہاں دیکھو جیسے جائیں۔

اس واقعہ میں جہاں کمی اور بھی حکمتیں مضمونیں وہاں اس سے وسیع ذیل چند  
مفید باتیں بھی ثابت ہوئی ہیں جنہیں ہم یہاں مقام کی مناسبت سے ذکر کرنا چاہئے

ہیں : —

دا، نبی اور رسول کے ماسوا بڑے سے بڑا عالم اور بزرگ بھی تنقید سے باہر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خضر جیسا کوئی عالم، بزرگ اور ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو مگر وقت کی آسمانی شریعت کے احکام پر اس کے اقوال اور کارنامے جدپنے اور پرکھے جائیں گے۔ پھر اس طرح تنقید کرنے سے جو بھی اقوال اور کارنامے وقت کی آسمانی شریعت کے ساتھ موافق نکلیں گے انہیں قبول کیا جائے گا۔ اور جو اس کے مخالفت ثابت ہونگے ان سے اختلاف کیا جائے گا۔

۲۲) کسی اعلیٰ شخصیت اور بزرگ تر عالم کے اقوال اور افعال پر بھی اگر اس معنی میں تنقید کی جاتے کہ شریعت کی کسوٹی پر وہ اقوال و افعال پر کھے جائیں۔ پھر شرعی قوانین کی روشنی میں ان کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ شریعت کے معیارِ حق پر لوپڑا اُترتے ہیں یا کہ نہیں۔ یا شریعت کے احکام کے ساتھ موافق ہیں یا مخالف۔ یہ اس شخص کی تو میں نہیں ہے۔ نہ یہ تنقید شریعت کی رو سے ناجائز ہے۔

۲۳) معیارِ حق را اصل آسمانی شریعتیں ہیں اور ان کے لانے والے پیغمبر ارہے دوسرے لوگ اتوکو وہ بہت ہی بزرگ ترین انسان کیوں نہ ہوں۔ مگر وہ اس معنی میں معیارِ حق نہیں ہو سکتے کہ ان کے تمام اقوال و افعال یہ دیکھے بغیر کہ کتاب و سنت اور وقت کی آسمانی شریعت ان کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ صرف ان کی شخصیتوں کی بنیاد پر چار سے یہے نبی کے اقوال اور افعال کی طرح محبت ہوں اور ہر حالت میں ان کی پیروی ہمارے یہے ضروری ہو۔

## تفقید از رُوئے حدیث

قرآن کریم کے بعد جب ہم حدیث رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ بہت سے بڑے صاحابہ کرام اور علمائے امت پر تقدیریں ہو چکی ہیں بلکہ اپنے آپ کو اس فہم کی تقدیر کے لیے انہوں نے پیش بھی کیا ہے۔ اور کبھی اس پر نکیر نہیں کی گئی ہے۔ اور نہ اُسے تو ہیں سمجھا گیا ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقدیر اُن کے بیان نہ کوئی ناجائز کام سمجھا جاتا تھا۔ اور نہ اس کے متعلق اُن کا یہ تصور تھا کہ اس سے کسی کی دینی حیثیت مجرد حسوساتی ہے۔ یا کسی کے دینی رتبہ میں فرق آ جاتا ہے۔ بلکہ اُپس میں ایک درستے پر اس طرح کی تقدیرات کرنے اور ایک درستے کو اس کی اجازت دینے سے غیر دین کو دین کے نظام میں گھس آنے کا راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ اور دین ہر طرح کی تحریفیوں سے محفوظ رہتا تھا۔ گرچہ سے ایک درستے پر تقدیر کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ اور شخص اور دینی و مدنی مقتصد اُوں اور علیشیو اُوں کے مراتب دین کے درستے سے بند تر سمجھے گئے ہیں۔ اُن کے صریح خلافت شرع اعمال پر بھی تقدیر اُن کی تو ہیں سمجھی گئی ہے۔ اور اُن کی معصومتیت اور مخصوصیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ:

سے بے سجادہ زگین کن گرت پیر مخان گوید  
کہ سالکم بے خبر خود زریاہ درسم منزرا

تو اس وقت سے دین کے مخصوص قلعوں اور مضبوط حصائر دین میں شکافت اور رخنے پڑنے شروع ہوتے ہیں اور دین کی مخصوصی تحریفت کے لیے ہر قسم کے چور دروازے کھل گئے ہیں۔ جنہیں بند کرنے کے لیے علیتے حق اور مصلحین اقتدار کر

بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ اور بہت بڑی قرائیاں دینی پڑی ہیں۔ اب قبول میں حدیث رسول کی روشنی میں چند لیے ہے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتے گی کہ دین کے معاملہ میں ایک دوسرے کے اقوال و افعال پر تنقید کرنا اور شریعت کے معیارِ حق پر انہیں جانچنا اور پرکھنا شریعت کی رو سے جائز ہے اور بنی کے مساوا و سراکوئی شخص اس سے مستثنی نہیں ہے۔

### مسئلہ میراث میں حضرت ابو موسیٰ پر تنقید

کوئی نہ من اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے افضل ترین گروہ حضور کے جان شار صحابہ کراہ ہیں۔ وہی پوری امت کے سربراہ اور مشیخ اور مقتدی ہیں۔ ان ہی کا اتباع ہمارے یہے باعث سعادت اور محبوب بخات ہے۔ یہی حضرات ہیں جو الحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کی امت کے درمیان رین کے معاملہ میں واسطہ کی جیشیت رکھتے ہیں۔ اور یہی صحابہ ہیں جو خدا کے ہاں بہت بڑے مقرب بندے بھی ہیں۔ انہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ زینی اللہ عزیزم وَ مَنْصُوَاتُهُ۔ لیکن با ایسے ہمہ فضائل اور مناقب کے ان کے متعلق یہ عویٰ کرنا مشکل ہے کہ وہ بنی کی طرح مقصوم ہیں یا ان سے اچھا وی خطاب ہیں اور غلطیاں سرزد نہیں ہو سکتی ہیں۔ یادوں بشریت کے تقاضوں سے بالاتر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے ایسے اقوال بھی سرزد ہوئے ہیں اور افعال بھی، جو شریعت اور کتاب و سنت کی رو سے قابلِ ترک بکھرے گئے ہیں۔ انہوں نے خود بھی آپس میں ایک دوسرے پر تنقیدیں کی ہیں اور بعد کے علاوہ مشائخ نے بھی ان کے انفرادی اقوال اور اچھا وی فیصلوں کو زیر بحث لائے ہیں جس سے صاف طور پر علوم

ہوتا ہے کہ صاحبہ کرام با وجود یکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک پسندیدہ اور خدا کی ایک محبوب جماعت کے افراد ہیں۔ مگر اللہ نے انہیں یہ مرتبہ نہیں دیا ہے کہ وہ امت کے لیے معیارِ حق بین جائیں یا ان کے انفرادی اقوال اور فیصلے تنقیدات سے بالآخر ہیں۔


اس مسئلہ کے چند معتبر واقعات میں سے ایک مسئلہ میراث کا بھی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ: ”ابو موسیٰ اشعریٰ سے میراث کا ایک مسئلہ دریافت کیا گیا جس کی تصویر اس طرح پیش کی گئی کہ ایک شخص فوت ہو کر اپنے پیکے درج ذیل وہ چھوڑ گی۔ ایک بنت (بیٹی)، دوسری بنت الابن (پوتی) اور تیسرا آخت (بہشیرہ)، تو متوفی مرحوم کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟“ ابو موسیٰ اشعریٰ نے یہ جواب دیا کہ کل ترکہ بیٹی اور بہشیرہ کے درمیان ساوی طلاق سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور پوتی محرم رہے گی۔ اس جواب کے مطابق تقسیم کا نقشہ ذیل ہو گا۔

بنت	آخت	بنت الابن
۱	۱	۱ رحموم

اور ماتھ ساتھ سائل سے ابو موسیٰ اشعریٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عبد اللہ ابن مسعود سے بھی دریافت کرو، شاید کہ وہ میرے اس جواب کی تائید فرمائیں۔“

سائل جب عبد اللہ ابن مسعود کے پاس ابو موسیٰ اشعریٰ کا جواب لے کر آیا۔ اور سارا اقتصر بیان کر دیا تو ابن مسعود نے ابو موسیٰ اشعریٰ کے جواب پر سخت ترین تنقید کر دی اور فرمایا کہ: اگر میں ابو موسیٰ اشعریٰ کے جواب کی تائید کر دوں گا تو گواہ

ہر جا دن گا۔ میرے نزدیک مسئلہ کا جواب وہ ہے جو حضور نے دیا ہے وہ یہ کہ:  
 پوتی مودم نہیں ہے۔ بلکہ سدس (۴)، کیستھی ہے۔ اور ترکہ و شہزادگانہ بازگشت پر درج  
 ذیل طرفیہ سے تقسیم کیا جائے گا۔ مل ترکہ چھوٹوں پر تقسیم کر کے نصف پر بنت  
 (بیٹی)، کو دیا جائے گا اور سدس (۴)، بنت الابن رپوتی، کو ملے گا تکلہ اللذین  
 اور بقا یا پڑھتے اخت (ہشیرہ)، کو بطور عصوبت ملیں گے۔ کیونکہ میت کی بیٹی کی  
 موجودگی میں اس کی ہشیرہ بیٹی کے ساتھ عصوبہ ہے نہ کہ ذات الفرض: اجعلوا  
 الاخوات مع البنات حصبة الحدیث۔ اس جواب کی رو سے تقسیم کا نقشہ  
 درج ذیل قرار پائے گا۔



حدیث کے وہ الفاظ جو مندرجہ بالا واقعہ اور قتوی سے متعلق ہیں، درج  
 ذیل ہیں:-

عن هزیل ابن شرحبیل قال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ  
 ابْنِهِ وَبَنْتِ ابْنِهِ وَأختِ فَقَالَ لِلْيَتَّمَ النَّصْفُ وَلِلْأَخْتِ  
 النَّصْفُ وَأُكْثَرُ ابْنِ مُسْعُودٍ فِي تَابِعِي فَسُلَيْمَانُ بْنُ مُسْعُودٍ  
 وَأَخْيَرُ يَقُولُ إِلَيْيَ مُوسَى فَقَالَ لِقَدْ صَلَّتْ أَذَّانًا  
 مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ۔ (قضی فیها بما قضی النبي صلی اللہ علیہ  
 وسَلَّمَ لِلْيَتَّمَ النَّصْفُ وَلِلْأَبْنَةِ الْأَبْنَى السَّدْسُ تَكْلِهَ

للثثنين وما يبقى فللاخت فاتينا ابا موسى فاخبرنا  
يقول ابن مسعود فقال لاتسألوني ما دام هذا الخبر  
فيكم - (رواہ البخاری)

بہریل ابن شرحبیل کا بیان ہے کہ ایک وفعت ابو موسیٰ اشتریؓ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کے قریب ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک بہشیرہ رہ گئیں۔ تو ترکہ کس طرح تقسیم ہو گا ؟ اس نے جواب دیا کہ آدھا بیٹی کو اور آدھا بہشیرہ کو ملے گا اور پوتی محروم ۔ اور ابن مسعودؓ سے بھی یہی جواہر پوچھو، وہ میری تائید کریں گے۔ سائل اس کا جواب لے کر ابن مسعودؓ کے پاس آیا اور سارا حال بیان کر دیا۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: اگر میں ابو موسیٰ کی تائید کروں گا تو مگرہ ہو جاؤں گا۔ میں اس معاملہ میں وہ فیصلہ کروں گا جو حضورؐ نے کیا ہے وہ یہ کہ بیٹی کو آدھا ترکہ ملے گا اور پوتی کو دیا جائے گا تاکہ بنات کے دو تھائی پرنسے ہوں । اور تھایا پوتی بہشیرہ کو ملے گا ۔ ہم ابن مسعود کا یہ جواب لے کر ابو موسیٰ کے پاس آئے اور ابن مسعود کا جواب سنایا، ابو موسیٰ نے کہا "جب تک یہ حقیق عالم تم میں موجود ہو مجھ سے سائل دریافت نہ کریں ۔"

اس واقعہ سے جہاں ایک طرف یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ صحابہ کرامؓ کے انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلے نبی کی طرح خططاً اور غلطی سے محفوظ نہیں ہیں لہٰذا یہ بات بھی واضح طریقہ سے معلوم ہو گئی کہ ان کے انفرادی اقوال پر تنقید ممنوع نہیں

خود تنقید سے بالاتر ہیں۔ بعدہ ان کے یہ اقوال کتاب و سنت کے معیار پر جانچنے کے اور  
پر کھے جائیں گے۔ اور جانچنے اور پر کھنے کے بعد اصل معیارِ حق پر جو پورے اتریں گے  
انہیں قبول کیا جاتے گا، اور جو اس سے مخالف نکلیں گے انہیں رد کیا جاتے گا اس  
سے بطور تنجیہ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اصل معیارِ حق کتاب و سنت ہیں نہ کہ صحابہ  
کرام اور تنقید سے بھی بالاتر صرف نبی یا ملیکہم السلام ہیں نہ کہ ان کے اصحاب۔

### حضرت عمرؓ کی تنقید

تنقید کا یہ اصول عہدِ صحابہؓ میں عام طور پر معمول ہے تھا اس میں کسی کے ذریباً  
محاذ کی چاتا تھا اور کسی کی ذاتی عذالت اور بارعہ اور پروفارٹیتیت اس لئے میں  
 شامل ہو سکتی تھی۔ بلکہ سب آپس میں ایک دوسرے پر تنقید کیا کرتے تھے اور ایک  
دوسرے کے اقوال کتاب و سنت کے اصل معیار پر جانچ کر اور پر کھکھ کر یہ معلوم  
کرتے تھے کہ یہ اقوال کتاب و سنت کے مطابق ہیں یا مخالف۔ اس طرح کی تنقید  
کرنے کے بعد جس کسی کے اقوال کتاب و سنت سے مخالف نکلے ہیں تو اس کی ذاتی  
عذالت یا اس کے اعلیٰ رتبہ نے انہیں قبولیت کا درجہ عطا نہیں کیا ہے بلکہ اصل  
معیارِ حق پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ علامیہ طور پر رد کیے گئے ہیں۔ اس کی شاہد  
تنقید ہے جو عبد اللہ ابن عمرؓ نے اپنے باپ خلیفہ راشد حضرت عمرؓؓ کی شان  
کی ہے جو ایک شامی کے ساتھ ابن عمرؓ کے ایک رکاوے میں مذکور ہے اور امام ترمذیؓ  
نے دریج فیل روایت میں اس کو نقل کیا ہے۔

ردی الترمذی اث رجل امن اهل الشام سالم عبد الله

ابن عمر من المتع بالعمرۃ الی الحج فعال حلال - فعال

اٹھائی اتے اباک قد نبھی عنہا فعال اڑائیت ان کان ابی قد  
 نبھی عنہا و صنعتہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہارا بی  
 بتقیع ام اصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال قد صنعتہ  
 اصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعال قد صنعتہ  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تفال الترمذی ہذا حدیث  
 حسن صحیح) -

ترمذی روایت کرتے ہیں کہ ایک شامی آدمی نے ابن عمر سے پوچھا  
 کہ تمعن بالسفر الی الحج جائز ہے یا حرام؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ جائز اور  
 حلال ہے۔ شامی آدمی نے اس پر اقتراض کیا کہ تمہارے باپ حضرت عمر  
 نے تو اس کو منع کیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ میرے باپ حضرت  
 عمر نے اگر اس کو منع کیا ہوا تو حضور نے خود اس کا فعل کیا ہو تو کس کا  
 اتباع کیا جائے گا۔ میرے باپ عمر کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟  
 شامی نے کہا کہ اتباع تو حکم اور فعل رسول ہی کا کیا جائے گا۔ اس پر عبد اللہ  
 ابن عمر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمعن کیا ہے؟

اس مکالمے میں ابن عمر نے شامی آدمی کے اقتراض کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ  
 میرے باپ حضرت عمر نے تمعن ہے منع نہیں کیا ہے اور ان کی طرف ممانعت کی یہ  
 نسبت غلط ہے۔ بلکہ ممانعت کی نسبت کو صحیح تسلیم کر کے اصل قتوی ممانعت پر  
 تنقید کر دی اور حضرت عمر کے فتویے ممانعت کو منت رسول کے معاشر حق پر جائز کر  
 اور شرعی کسوٹی پر پکھ کر دیا اور فرمایا کہ چونکہ میرے باپ عمر کا یہ فتویے

حضرت کے فعل کے خلاف ہے اس لیے یہ اس تابع نہیں ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے  
بکہ اس قابل ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔

### حضرت سالمؓ کا ایک واقعہ

اس قسم کا ایک واقعہ اور بھی ہے جس کا تعلق قبل از حرام خوشبوگانے سے  
ہے۔ اس میں حضرت سالمؓ نے اپنے باپ ابن عمرؓ اور دادا حضرت عمرؓ دونوں کے  
ایک فترے پر تخفید کر دیا ہے۔ اور حضورؐ کی ایک سنت کے مقابلہ میں اسے چھوڑا۔  
روایات میں آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام پاندھنے سے قبل  
خوشبوگوانی تھی۔ نیز عید کے دن احرام کھول کر جب خرا در حقیقت سے غارغیر ہوتے تو  
طواتی زیارت ابھی تک نہیں کیا تھا تو اس وقت بھی خوشبوگوانی تھی۔ اس کا ذکر  
حضرت عائشہؓ کی دریج ذیل روایت میں موجود ہے جو بخاریؓ اور مسلمؓ دونوں نے  
نقل کی ہے:

عن عائشة قالت كنت اطييب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يطوف بالبيت  
بطيب فيه سك - \* وستفعت عليه،

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کو قبل از احرام، اور عید کے دن قبل از طواتی زیارت ایسی خوشبوگانی  
تھی جس میں مذکوب ملا ہوا تھا۔

یہ حدیث اس بارے میں صریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از احرام  
اور قبل از طواتی زیارت دونوں حالتوں میں خوشبوگانی ہے لہذا پر فعل جائز ہے۔

لیکن اس کے متعلق حضرت عمرؓ اس کے صاحبزادے ابن عمرؓ دونوں کی رائے یہ تھی کہ  
یہ فصل ناجائز ہے اور مندرجہ بالا دونوں حالتوں میں خوشبو لگانا ناجائز ہے ایک  
عرصہ تک حضرت سالمؓ بھی اپنے بڑوں کی رائے سے متفق رہے لیکن جب اس کو حضرت  
عائشہؓ کی مندرجہ بالا روایت پہنچی قرباب اور دادا دونوں کی رائے کو صرف اس بنا  
پر چھوڑ دیا کروہ رائے تنقید کی کسیل پر پر کھنے کے بعد سنت رسولؐ کے مطابق نہ  
تمکی بکرہ خلاف ثابت ہوئی پھر صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ ان دونوں حالتوں میں  
خوشبو لگانا حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ کیونکہ سنت رسولؐ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔  
اور آپؐ کی سنت وہ چیز نہیں جس کے مقابلہ میں کسی کا قول یا رائے قابل اعتماد قرار  
دی جاسکتی ہے، یا اس کی پیروی جائز ہو سکتی ہے۔ حضرت سالمؓ کے اس واقعہ کے  
متعلق علامہ سندھی ابن ماجہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:-

وقد عمل بمثل هذَا سالِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَيْنَ بِلْغَةِ  
حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الطَّيِّبِ قَبْلِ الْأَحْرَامِ وَقَبْلِ الْإِفَاضَةِ  
تَرَكَ قَوْلَ أَبِيهِ وَجَدِهِ وَقَالَ سَنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ -

مد این عمرؓ کی طرح سالمؓ کو بھی جب حضرت عائشہؓ کی یہ حدیث پہنچی  
کہ حضورؐ نے احرام باندھنے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے دونوں  
حالتوں میں خوشبو لگاتی تھی تو اپنے باپ ابن عمرؓ اور دادا حضرت عمرؓ دونوں  
کا قول چھوڑ کر حدیث ہی پر عمل درآمد شرمنع کیا اور کہا کہ سنت رسولؐ  
اس بات کی زیارہ مستحب ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے نہ کہ درسرے

## کسی کا قول ۷

یہ واقعہ بھی عبداللہ ابن عمرؓ کے سابقہ واقعہ کی طرح اس حقیقت سے پڑے کشائی کرتا ہے کہ صحابہ کرامؓ اس معنی میں معیارِ حق ہرگز نہیں ہیں کہ ان کے انفرادی اقوال اور ذاتی خصوصیوں پر تنقید ہی جائز نہ ہو۔ میکتاب و محدث کے معیار پر جاپنے اور شرعاً حرمت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ان میں ضرورت ہی نہ ہو۔ بلکہ ہر حال میں واجب الامان است ہوں۔ وہندہ ابن عمرؓ کو حضرت عمرؓ پر اور سالمؓ کو اپنے دونوں بزرگواروں پر تنقید کرنے کا حق ہرگز حاصل نہ ہوتا اور وہ اپنے بڑوں پر جو نہ صرف صحابہؓ ہیں بلکہ انکے ان میں سے خلیفہ راشد بھی ہیں، اس طرح کی تنقید کر گزتے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسیارِ حق اور ہر قسم کی تنقید سے بالاتر اگر کوئی ہے تو وہ صرف بھی کی ذات ہے، اور اس کی لائی ہوئی شرعاً حرمت، جس کی اصل ترجمانی ایک طرف خدا کی کتاب کرتی ہے، اور دوسری طرف بھی کی سنت ہے۔

## فظاڑ کا مسئلہ

مفسرین نے آیت: وَإِذْ يَتَّبِعُونَ أَهْدَى أَهْدَى أَهْدَى فِطَارَهُمْ کے تحت لفظ فظاڑ کی تفسیر میں حضرت عمرؓ کی ایک تقریر کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ایک رفعہ وہ مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے، درواں تقریر میں اس مسئلہ کا ذکر آیا کہ «عورتوں کے بیچے عقد نکاح میں مہر زیادہ نہ رکھنا چاہیے» اس پر اس مجلس میں سے ایک عورت نے کھڑے ہو کر حضرت عمرؓ کے اس فتویٰ پر تنقید کر دی اور کہنے لگی کہ: امیر المؤمنین! ہم آپ کا حکم نہیں یا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ يَتَّبِعُونَ أَهْدَى فِطَارَهُمْ اور فظاڑ نام ہے مال کثیر کا۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عقد نکاح

میں ہر زیادہ بھی رکھا جاسکتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ نکاح میں ہر زیادہ نہ رکھا جائے اب ہم کس کا اتباع کریں۔ آپ کایا اللہ تعالیٰ کا، اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے کیا حوصلہ افزا جواب دیا۔ فرمایا: "کہ عمرؓ سے علم میں ہر شخص ٹراہے تھی مقدار پر چاہو، نکاح کر سکتے ہیں۔ اصل واقعہ کے الفاظ یہ ہیں:-

قالَ عُمَرُ عَلَى الْمُتَبَرِّ لَا تَغَالُوا بِصَدَقَاتِ النِّسَاءِ فَعَالَ  
إِنْرَأَةً أَنْتَبَعَ قَوْلَكَ إِنْ قَوْلَ اللَّهِ وَإِنْ تَعْيَمْ إِنْ حَدَّ أَهْنَ قُنْطَارًا  
لَا يَبْلُغَهُ خَالَ عُمَرَ كُلُّ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ، تَزَوَّجُوهُ عَلَى مَا  
شَدَّتْمُ إِنْ إِنْ مَارِكَ،

"حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ منبر پر چڑھے ہو کر فرمایا کہ نکاح میں عورتوں کے لیے ہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ اس پر ایک عورت نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کہنا مانیں یا اللہ تعالیٰ کا، وہ تو فرماتا ہے کہ "حالانکہ تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ہر کا بہت سامن۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہر شخص مجھ سے علم میں زیادہ ہے جس مقدار پر تم چاہو نکاح کرو۔ یہ تھی وہ آزادی جو عہد صحابہؓ کے مبارک روئیں باہمی تنقید کے بارے میں لوگوں کو مा�صل تھی کہ حضرت عمر جیسے نہ ہم اور محمدؐ اور باریع خلیفۃ الاسلام پر ایک عورت بھی بھرے بھی میں کھڑی ہو کر تنقید کر سکتی ہے۔ اور انتہائی بے خوفی کے حامل میں ان کے منہ پر یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ حکم اور فیصلہ کہ "نکاح میں عورتوں کے لیے ہر زیادہ نہ رکھو" کتاب اللہ کے معیارِ حق پر کئے جانے کے بعد درست نہیں نکلتا۔ لہذا یہ حکم ہمارے لیے قابلِ عمل نہیں ہے۔ اور نہ اس حکم کی تعلیم ہم کر سکتے ہیں" اور حضرت عمرؓ

اس تنقید کی تحسین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "عمر سے علم میں بہتر شخص زیادہ ہے" اور تم پر تنقید کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ: "تزویج و جواعل ماستقم"

"تم جتنی مقدار چھپا ہو، نکاح کر سکتے ہو"

تاریخ کے صفات پر آج بھی حضرت عمرؓ سے خلیفہ راشد اور حضورؐ کے بیل العذر صحابی بلکہ آپؐ کے وزیر و مشیر کے ذمہ الفاظ طالبے ہیں جن میں انہوں نے پُردی اسلامی جماعت کے سامنے اپنے آپ کو تنقید کیے پیش کیا ہے۔ چنانچہ مومنین بحثتے ہیں کہ: "جب وہ منصب خلافت پر مقرر کر دیتے گئے تو یہی مرتبہ انہوں نے لوگوں کے سامنے جو خطبہ دیا ہے اس میں بہتر شخص کو اپنے روپیہ اور طرزِ حمل پر تنقید کرنے کی حکم اجازت دے کر فرمایا تھا: من رأى منكر في أعيوناً فلقيه عدوًّا فاجأناه فليقوه" یہی سیرت و کروار میں جو بھی شخص راوی محدث سے کھروی دیکھے اُسے یقین ہے کہ راوی است پر لائے۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ صحابہؓ کرامؓ کے انفرادی فیصلوں پر تنقیدیں ہو چکی ہیں۔ اور یہ ان کے یہاں کوئی ترین نہیں کبھی لگتی ہے۔ نہ اس کو کوئی ناجائز کام تصور کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہؓ کرامؓ اس قسم کی تنقید سے بالآخر نہیں ہیں۔ اور نہ علمائے محدث میں سے کسی نے اُن کو اس قسم کی تنقید سے بالآخر بچا ہے۔

**قضائے حاجت میں استقبال قبیلہ**

علمائے امت کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ آیا قضائے حاجت یعنی بول و برآز کی حالت میں استقبال یا استدبار قبلہ جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز تو صحراء اور آبادی کے مابین کوئی فرق ہے یا نہیں بلکہ دونوں میں استقبال و استدبار

محنوع ہیں؟ اس بارے میں فتحاًر کی اکثریت اور عالم محمد بنین کی راستے یہ ہے کہ عمارت اور آبادی میں یہ دلوں جائز ہیں اور صحراء میں جبکہ انسان اور قبلہ کے ماہین کوئی حائل اور پردہ موجود نہ ہو وہاں استقبال و استدبار دلوں ممنوع ہیں۔ صحابہ کرامؓ کی جماعت میں این عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ کی بھی راستے یہی ہے۔ چنانچہ ابن عمرؓ کے متعلق ابواؤد وغیرہ کتب محدث میں درج ذیل روایت نقل کی گئی ہے:

عَنْ عَوْنَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عَمْرٍ أَنَاخَ سَرَاحَتْهُ  
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثَرِيْجِدِسْ يَسْجُولُ إِلَيْهَا نَفْقَلَتْ يَا أَبَا عَبْدِ  
الْرَّحْمَنِ أَبْنِيْسْ قَدْ تَكَبَّلَ عَنْ هَذَا قَالَ يَلِيْ أَنْسَ تَكَبَّلَ عَنْ زَانِكَ  
فِي الْفَضَادِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ ئَرْبَيْتُكَ  
فَلَا يَأْسَ - رَابِرْدَأَنْدَ - (ج امت)

”عروان اصغر کہتے ہیں کہ میں نے پریحا ابن عمرؓ کو کہ وہ اپنی سوری کرتقبلہ منع بنا کر بیٹھ گئے اور اس کی طرف رونگ کر کے پشاپ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس فعل سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹھ منع تو گیا گیا ہے مگر کٹا وہ بیان میں رجیکہ قہار سے اور قبلہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اور جب قہار سے اور قبلہ کے درمیان کوئی پردہ ہو تو مخالف نہیں ہے“

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت جابرؓ کی راستے  
ابن عمرؓ کی اس راستے کی بنیاد حضور صل اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل پر بھی گئی ہے جس کو ابواؤد نے ابن عمرؓ کی راستے سے اس طرح نقل کیا ہے:

عن ابن عمر قال لقد ارتفقیت على ظهر الہبیت فرأیت  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على لبنتین مستقبلاً  
بیت المقدس لحاجته - رابو و اورج اصل ۳

د) ابن عمر نے کہتے ہیں کہ میں ایک وفادار مکان کی محضت پر چڑھا تو دیکھا  
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راپنے گھر میں، دو انگلیوں پر میٹھے ہرستے  
قضاۓ حاجت فرمادی ہے ہیں، اور آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف راوہ  
پیٹھ قبیلہ کی طرف ہے ۴

اس حدیث سے بیان رآبادی، میں قبیلہ کی طرف استدبار شایستہ ہو گیا، ملائکہ  
یہ بھی استقبال کی طرح حدیث لا تستقبلوا القبلة بعائظ اربیول ولا  
ذستد بروها میں منزوع تباہیا گیا ہے۔ ترجیب اس حدیث سے بیان اور رآبادی  
میں استدبار کا جواز معلوم ہو گیا تو ابن عمر نے کہتے ہیں کہ استقبال بھی جائز ہو گا اور بیان  
میں جواز کی اصل علت چونکہ یہ ہے کہ اس میں انسان اور قبیلہ کے ما بین حائل اور پرہ  
ہو اکثر ہے لہذا صحراء میں بھی جیب کرنی حائل اور پرہ موجود ہو تو وہاں بھی  
استقبال و استدبار دونوں جائز ہو گے۔

بعینہ سی راتے حضرت جابرؓ کی بھی ہے۔ وہ بھی استقبال و استدبار دونوں کو  
آبادی میں جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

فهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل القبلة

بسیول فراتیلہ قبیل ان یقیض بعامر مستقبلہما - رابو و اورج

”حضرت نے قضاۓ حاجت کے وقت میں ہم کو قبلہ رُخ ہونے سے منع فرمایا تھا مگر وفات سے ایک سال قبل میں نے آپ کو قضاۓ حاجت کی حالت میں قبلہ کی طرف رُخ کرتے ہوئے دیکھا۔“

ان دونوں روایتوں کے اسانید پر ابو داؤد نے کوئی کلام نہیں کیا ہے، جس سے معصوم ہوتا ہے کہ ابو داؤد کے نزدیک یہ دونوں روایتیں قابل استدلال ہیں۔ بالفرض اگر اسانید کے مخاطب سے یہ دونوں روایتیں کمزور بھی ہوں تب بھی ان عمر اور حضرت جابرؓ دونوں کا ذہب تینی طور پر معلوم ہے کہ یہ دونوں حضرات استقبال و استدال دونوں کو آبادی میں جائز اور صحرا اور نما جائز سمجھتے ہیں۔

### دونوں حضرات پر حنفیہؓ کی تنقید

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فقہاء احادیث، عبید اللہ الدین عمرؓ اور حضرت جابرؓ دونوں کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ استقبال و استدال مطلقاً جائز نہیں ہیں خواہ بیان اور آبادی میں ہوں یا صحرا اور بیان میں۔ اور دونوں حضرات کے اقوال پر تنقید کرتے ہوئے لمحتے ہیں کہ: دونوں کا ذہب ابواب مشائخ انصاری کی اس روایت کے خلاف ہے جس میں یہ تسریح فرمائی گئی ہے کہ:

إذَا أتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقِبُوْلِ الْعَبْدَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بِوْلٍ  
وَلَا تَسْتَدِبِرُوْهَا وَلَكُنْ شَرْقَتُوا وَغَرْبَتُوا - رجاري - ابو داؤد  
”جب تم قضاۓ حاجت کے لیے بیٹھو، تو نہ قبلہ کی طرف رُخ کرو اور  
نہ پیغمبرؓ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رُخ کر کے بیٹھا کرو۔“

اب آپ برآؤ کرم افسا اگر بیان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ تمام فقہاء احادیث

نے جو حضرت جابر اور ابن عمرؓ دونوں کے مذہب کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے اُن پر اور ان کے مذاہب اور اقوال پر تقيید نہیں تو اور کیا ہے کیا اس مسئلہ میں صحابہ کرامؓ کے جو مختلف اقوال اور مذاہب موجود ہیں، دلائل اور روایات کی روشنی میں اُن میں سے بعض کو فقہاء احناف نے چھان بین اور جائیج پڑتاں کرنے کے بعد بعض دوسروں کے مقابلہ میں قابل اخذ اور لائق ترجیح سمجھا یا نہیں؟ اور بعض کو قابلِ ترك تصور کیا یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو تباہی کے تقيید نہیں تو اور کیا ہے پر تقيید تو اس جائیج پڑتاں اور چھان بین کرنے کے بعد اخذ و ترك، اور ترجیح و قبول ہی کا دروس را نام ہے۔ سو اگر صحابہ کرام ہر قسم کی تقيید سے بالاتر، اور بجا ٹھیک ہوتے تو فقہاء احناف حضرت جابرؓ اور ابن عمرؓ دونوں کے مذہب کے خلاف کیوں فتویٰ دے دیتے؟ اور دو قوں پر تیہ تقيید کیوں کرتے کہ ان کا مذہب ابوالیوب انصاری کی روایت سے مکار ہے؟

### جمعہ اور عید کا اجتماع

یہ مسئلہ بھی علاقتے سلفؓ کے مابین اختلافی رہا ہے کہ جمعہ کے دن اگر عید بھی ہو جاستے تو کیا عید کی نماز کے ساتھ جمعہ کا پڑھنا بھی لازمی ہو گا یا صرف عید کی نماز پر اکتفا کیا جاسکتا ہے اور جمعہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ — صحابہ کرامؓ میں سے زید بن ارقمؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، اور ابن عباسؓ ائمیوں کا مذہب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کا پڑھنا لازمی نہیں ہے۔ نماز عید پر اکتفا کی جاسکتا ہے۔ اور اسی کو عبد اللہ ابن عباسؓ نے سندت بھی کہا ہے۔ تمیوں حضرات کا یہ مذہب درج ذیل روایات میں بیان کیا گیا ہے:

حدیث مل عن ایاس بن ابی رملة الشامي قال شهدت معاویۃ  
بن ابی سفیان و هو بیکل زید بن ارقم قال شهدت مع  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اجتمعوا فی یوم ؟  
قال نعم، قال فکیف صنع ؟ قال صل العید ثم رخص فی  
الجمعۃ فقال من شاران يصل فلیصل۔ (ابوداؤد، ح ۱۵۲)

”ایاسؓ ابی ابی رملہ شامی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویۃؓ کی خدمت  
میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ وہ زید بن ارقم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو کبھی ایسا موقع پیش آیا ہے کہ  
ایک روز میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہوں ؟ زید بن ارقم نے کہا کہ: ہاں،  
معاویۃؓ نے پوچھا کہ پھر اس روز حضورؐ نے کس طرح عمل کی ؟ زیدؓ نے کہا کہ  
عید کی نماز تو پڑھائی اور جمعہ کے بارے میں خصت دیکھ فرمایا کہ جو شخص جمعہ  
پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔“

حدیث مل۔ عن عطاء بن ابی رباح قال صلی بنا بن الزید  
فی یوم عید فی جمیعۃ اویل التهار شد رحنا الی الجمیعۃ فلم  
یخرج اینا فصلینا وحدانا - و کان ابٹ عباس بالطائف  
فلیتا قدم ذکرنا ذالک لہ فقال اصحاب السنۃ - رابوداؤد  
ح ۱۵۲۔

مد عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ جمیعہ کے روز عبد اللہ ابن زیرؓ نے میں  
عید کی نماز صبح سویرے پڑھائی پھر جب غیر کو ہم جمعہ کے یہی کئے تو وہ

نہیں نکلے۔ پس ہم نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی۔ اس وقت این عباس طلاق میں تھے جب رہاں سے وہ آئے تو ہم نے ان سے این زیریں کا یہ عمل ذکر کیا تو فرمایا کہ "اس نے سنت پر عمل کیا ہے؟"

**حدیث ۲۷ -** قال عطاء اجماع يوم الجمعة ويوم قطاع على  
عمر ابن الزبير فقال عيدان اجتماعي يوم واحد  
نجدهما جميعاً فصلاً هما من كعتين يكره لمن يزيد عليهما  
حق صل العصو۔ رابرواود، ج ۱ص ۱۵۳)

ذ عطاء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ این زیریں کے زمانے میں جمعہ اور عیداً انتظار دونوں جمع ہو گئے۔ این زیریں نے کہا کہ آج کے دن دو عیدیں جمع ہوئی ہیں۔ پھر دونوں کو اکٹھا کر کے صرف دو کعتین صحیح سوریہ پڑھائیں اور اس پر اضافہ نہ کیا جائے تک کہ عصر کی نماز پڑھائی۔

مندرجہ بالا تینوں حضرات کا یہ مذہب کرنی ایسا مذہب بھی نہیں ہے جس کے بیسے روایات میں کوئی بنیاد موجود نہ ہو۔ بلکہ درج ذیل مرفوع روایت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ  
أَجْمَعُونَ فِي يَوْمِ الْمَكْرِ هُذَا عِيدُ الْأَنْوَافِ مِنْ شَأْنِ أَجْزَاهُ مِنْ  
الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مَجْمَعُونَ۔ رابرواود، ج ۱ص ۱۵۴)

وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم نے راکب دفعہ عیداً جمعہ کے اجتماع کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دن میں دو عیدیں جمع ہوئیں

ہیں۔ پس جو لوگ جھوک کے بدلہ میں عید کی نماز پر اتفاقاً کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا  
کر سکتے ہیں اور تمہرے توجہ میں بھی پڑھیں گے ॥

خنجر کے اس ارشاد میں چونکہ لوگوں کو اس بات کی صریح اجازت دی گئی تھی کہ  
جسھے کوئی چھوڑ کر عید کی نماز پر اتفاق کر دیں۔ اس لیے زید بن ارقم، عبد اللہ بن زبیر، اور  
ابن عباس تینوں نے اپنے لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ مذہب قائم کر دیا کہ ایسے  
مواقع پر جمعہ جھوڈ کر عید کی نماز پر اتفاق کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت بھی ہے چنانچہ  
عبد اللہ ابن زبیر کے فعل کو اور کی ایک حدیث میں ابن عباس نے سنت قرار دیکر  
فرمایا کہ : اصحاب السنۃ "اس نے سنت پر عمل کیا ہے" ॥

کیا یہ مذہب تنقید سے بالاتر ہے ؟

جو لوگ حضرات صحابہ کرام کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بجالتے خود معیارِ  
حق اور ان کے ہر قسم کے فیصلے اور اجتہادی آراء ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں مان  
کی خدمت میں بصد ادب ہم یہ گزارش کریں گے کہ کیا آپ کے مسئلہ مفروضہ کے پیش نظر  
زید بن ارقم، عبد اللہ ابن زبیر اور ابن عباسؓ، تینوں کا یہ مذہب تنقید سے بالاتر ہے ؟  
اور اس معاملہ میں یہ تینوں حضرات معیارِ حق ہیں یا نہیں ؟ اگر جواب نفی میں ہو تو آپ  
کا مسئلہ مفروضہ صحیح نہیں رہتا۔ اور اگر جواب اثبات میں ہو، جیسا کہ آپ کا مسئلہ  
مفروضہ ہے۔ تو براؤ کرم یہ بتائیں کہ نہ صرف آپ نے بلکہ جمہور امت نے اُسے کیوں  
نظر انداز کر کے چھوڑا ہے ؟ کیا جو مذہب نہ صرف تنقید سے بالاتر ہو بلکہ حق بھی ہو۔  
اور نہ صرف حق ہو بلکہ حق کے لیے معیار بھی ہو۔ وہ شرعی مسائل اور احکام شریعت میں نظر اندا  
بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے ؟ پھر اس کے معیارِ حق اور ہر قسم کی تنقید

سے بالا تر ہونے کے کیا معنے؟

حدسے حد اس کے جواب میں جو کچھ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں  
چونکہ صحابہ کرام کے مذہب آپ میں منتظر ہیں اور جو ہر صحابہ کا مذہب وہ نہیں ہے  
جو زید بن ارقم، عبد اللہ بن زبیر اور عبد اللہ ابن عباس کا مذہب رہا ہے۔ اس لیے جو ہر دوں  
کے مقابلہ میں ہم ان کا مذہب اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر دوں کوہ  
سکتے ہیں کہ ان تینوں حضرات کا مذہب دلائل شرعیہ کی رو سے کمزور ہے۔ اور جس حدیث  
پر اس کی بسیار رکھی گئی ہے اس کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو ان حضرات نے سمجھا ہے  
 بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ عید اور جمعہ کے اجتماع کے موقع پر حضور نے جو چھوٹے  
کی جو رخصت عطا فرمائی تھی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو اہل قری تھے اور عوام  
اطرافِ مدینہ سے، فُردوُر سے آتے ہوتے تھے، چونکہ ان پر جمعہ فرض نہ تھا۔ اور  
ایسی تک جمعہ کا وقت بھی داخل نہیں ہوا تھا، اور ظہر کے وقت تک انتفار کرنا ان  
کے لیے باحت تکلیف تھا۔ اس لیے حضور نے ابھی لوگوں کو اجازت دے دی کہ  
اگر وہ ابھی سے اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ اما اہل مدینہ اتوان  
کے لیے یہ رخصت نہ تھی جیسا کہ انسان مجتمعون کے فظیل سے سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ  
حدیث کی یہ تشریح حضرت عمر بن عبد العزیز کی ایک روایت میں موجود ہے جو امام شافعی  
نے کتاب الام میں مرسل اور ایت کی ہے۔ اور جس کو ہم نہیں الجہود شرح ابرد اور کے  
حوالہ سے ذکر کرتے ہیں:

اجتماع عیدین میں امام شافعی کا مذہب

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں "اجتماع العیدین" کے عنوان کے

تحت اپنی سند سے عمر بن عبد العزیز کی یہ روایت ذکر کی ہے:

عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَجْمَعُ عَيْدَانَ عَلَى عَمَّادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ اللَّهَ فَلَهُ مِنَ الْعَالَمِ  
الْعَالِيَةِ فِيمَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ فَلَمْ يَجِدْ حَرَجَ - اهـ (رذيل ۲۶ ص ۲۲)

”عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ حضور کے حب میں ایک وفعت و عجیس کا اجتماع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ: اہل عوالم میں سے جو لوگ اپنی رضیتے جمعہ کے انتظار میں بیٹھ سکتے ہیں تو وہ بیٹھ رہیں۔ مگر جانے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے“

حضرت عثمانؓ کی ایک روایت میں بھی اس طرح کا ان کا اپنا ایک اعلان ذکر کیا گیا ہے جس کو بھی امام شافعیؓ نے کتاب العید میں اپنی سند سے ذکر کیا ہے:-

عَنْ أَبِي عَيْدٍ مُولَى أَبْنَاءِ أَزْهَرٍ قَالَ شَهَدْتُ الْعِيدَ صَعْدَ عَثَمَانَ بْنَ عَفَانَ فَجَاءَهُ فَصَلَّى ثُرَاثَ الْفُرُونَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّهُ قد أَجْتَمَعَ لِكُمْ فِي يَوْمِ كُمْرَفٍ هَذَا عِيدُ الْأَنْوَافِ مَنْ أَحْبَبَ مِنْ أَهْلِ الْعَالَمِ مَنْ يَتَنَظَّرُ الْجَمِيعَ فَلَيَتَنَظَّرُهُمْ وَمَنْ أَحْبَبَ اللَّهَ يُرْجَمُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَقَدْ أُذْنَتْ لَهُ - رذیل المجهود ۲ ص ۱۶۲

”ابو عبد مولائے ابن ازہر کہتے ہیں کہ ایک وفعت میں عید کی نماز میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ شامل ہوا۔ عثمانؓ نے اکر نماز پڑھا فی پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ آج تمہارے لیے دو عیدوں کا اجتماع ہوا ہے تو اہل عوالم میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمعہ کا انتظار کریں تو جمعہ کے

انتظار میں بیٹھے رہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ واپس لوٹیں تو وہ  
چلے جائیں۔ میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔“

ان دو نوں روایتوں میں تصریح کی گئی ہے کہ جمعر پھوڑنے کی رخصت اصل  
اہل قرآن اور عوالی سے آتے ہوتے لوگوں کے لیے تھی۔ نہ کہ مدینہ اور شہر کے باشندوں  
کے لیے اپنی دو روایتوں کے پیش نظر امام شافعی نے زینبین ارقم، ابن زبیر اور  
ابن عباسؑ تینوں کے مذہب پر تقدیر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ يُوْمُ الْجَمْعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حِينَ تَحْلِ الصَّلَاةُ ثَمَادِنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِيرِ  
أَنْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ شَاءُوا إِلَى أَهْلِهِمْ وَلَا يَعُودُونَ إِلَى الْجَمْعَةِ  
وَالاِخْتِيَارُ لِهِمْ أَنْ يَقِيمُوا حَتَّى يَجْمِعُوا أَوْ يَعُودُوا بَعْدَ  
الصَّرَافِمِ أَنْ قَدْرُوا حَتَّى يَجْمِعُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعُلُوا فَلَا حُرْجٌ  
أَنْ شَاءُوا اللَّهُ -

قال الشافعی ولا يجوز هذا الاحد من اهل المصارف  
يدعوا ان يجتمعوا الا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة

وان كان يوم عيد - اه - ربیل الجبرود - ج ۲ ص ۱۱۱  
وہ جگہ عید اور جمعہ کا اجتماع ہو تو امام عید کی نماز اس وقت پڑھائے  
جس وقت نماز جائز ہو جائے پھر جو رُكْ حوالی سے آتے ہوں جو صر  
کے باشندے نہ ہوں، انہیں واپس جانے کی اجازت دے دے اگر وہ  
جانا چاہتے ہیں تو رجھہ پڑھنے کے لیے پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ

بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ شہر میں پھریں بہاں تک کہ جمعہ کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔ یا اگر لوٹنے کے بعد جمعہ کے لیے واپس آنے کا موقع ہو تو واپس آگر جمعہ پر صیغہ اور واپس نہ آئیں تو بھی کوئی گذہ نہیں ہے؛ امام شافعیؓ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مصروف کے کسی باشندے کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ جمعہ کی نماز چھوڑ دے اگر چہ عید کے دن میں کیوں نہ ہو۔ الایہ کہ کوئی ایسا غدر پیش نہ کئے جس کی وجہ سے اس کے لیے جمعہ چھوڑنا جائز قرار پائے۔

بنائیے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف نے اور پر کے تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ہمیں اور کتاب و سنت سے نماز جمعہ کے لیے جو عام شرعی فائز مقرر کیا گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کے یہ اقوال اور نہایت جانچے اور پر کھے گئے یا کہ نہیں اور جانچنے اور پر کھنے کے بعد صفتِ صحیحہ مابتدا کے مقابلہ میں قابل تحریک سمجھے گئے یا کہ نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر کس طرح یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام تمام امت کے نزدیک معیار حق ہیں اور ان کے اقوال ہر قسم کی تقید سے بالاتر میں ہی یہ دعویٰ کس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر تمام اہل استفت و اجماعہ مستحق ہیں کہ ہر صحابہ کا ہر قول و فعل واجب الاتباع ہے ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اپر کے تین صحابہ کرام پر یہ تقید صرف امام شافعیؓ ہی نے نہیں کی ہے بلکہ اخوات نے بھی آن پر یہ تقید کی ہے۔ چنانچہ تمام اکابر دیوبند کے متفقہ اور پیشوائیخ الشائخ حضرت مولانا شیخ احمد گنڈوی تھوڑی سرو نے بھی اس طرح کی تقید بھی ہے۔ ذیل میں اس کے بقطہ نقل کیا جاتا ہے۔

مولانا شید الحدائقوی کی رائے  
 عبد الدین عباس اور اس کے دوستوں نے اپنے مذہب کی نیاد جس حدث  
 پر کھلی تھی وہ ابو ہریرہ کی یہ حدیث تھی کہ :

قد اجتمع فی یوم مکرم هذَا عَيْدَانَ قَمَنْ شَاءَ اِحْزَاءَ  
 مِنِ الْجَمِعَةِ وَانْجَتَعُونَ - (ابوداؤ)

”تھا سے اس دن میں دو عیدیں جمع ہوتی ہیں پس جو لوگ جمعہ کو  
 چھوڑ کر عید کی نماز پر احتفاظ کریں تو یہ ان کے بیٹے جائز ہے اور ہم تو مجھے  
 پڑھیں گے۔“

لیکن، مولانا مر حوم ایک طرف اس حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں جو تینوں  
 مذکورہ صحابہؓ کرام کی تشریح سے مختلف ہے اور دوسری طرف اُن کے مذہب پر  
 تنقید بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث کی تشریح کے متعلق فرماتے ہیں :

الْفَقِيْهُ ذَا الْكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ  
 وَافِقٌ يَوْمَ الْجَمِعَةِ يَوْمَ عِيدٍ، وَكَانَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ يَجِدُونَ  
 صَلْوَةَ الْعِيدِ مَا لَا يَجِدُونَ لِغَيْرِهِمَا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ  
 فِي أَكْثَرِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ۔ وَكَانَ فِي اِسْتَظَارِ حِلْمَرِ الْجَمِعَةِ بَعْدَ  
 الْفَرَاغِ مِنْ صَلْوَةِ الْعِيدِ حِرْجٌ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ كَمَا  
 فِي حِرْجٍ مِنْ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلْوَةِ الْعِيدِ  
 نَادَى مُنَادِيهِ مِنْ شَاءَ مِنْ كُمَرَانَ لِيَصْلِيْهِ فَلَمْ يَصْلِيْهِ وَمِنْ شَاءَ  
 الرَّجُوعُ فَلَمْ يَرْجِعْ وَكَانَ ذَا الْكَ خَطَا بِالْأَهْلِ الْمُعْتَدِلِ

## المجتمعين ثم -

والقرنية على ذلك انه قد صرخ فيه بان المجتمعون  
والمراد من جمـع المتكلـمـ فـيـهـ اـهـلـ الـمـدـيـنـةـ فـهـذـاـ يـدـلـ  
دـكـالـةـ وـإـصـفـةـ بـاـنـ الـخـطـابـ فـيـ قـوـلـهـ مـنـ شـاعـرـ مـنـكـرـ اـنـ  
يـصـلـ إـلـىـ اـهـلـ الـقـرـنـ لـاـ إـلـىـ اـهـلـ الـمـدـيـنـةـ . اـهـ دـبـلـ

ج ۲، ص ۱۴۲

و حضور کے عہد میں ایک رفعہ اتفاقاً جمعہ اور عید و نوں ایک دن  
میں جمع ہو گئے اور اہل قریٰ دنوں عیدوں کی نمازوں میں بہ نسبت  
دوسری نمازوں کے زیادہ جمع ہوا کرتے تھے، جیسا کہ عام اہل قریٰ کی  
عادت ہے۔ اور نماز عید سے خارج ہونے کے بعد جمعر کی نماز سکھیرنا  
ان کے لیے باعتبار تکلیف تھا۔ توجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز  
عید سے خارج ہونے تو آپ نے ایک منادی کے ذریعہ یہ اعلان فرمایا  
کہ جو شخص تم میں سے چاہے کہ جمعر کی نماز پڑھے تو وہ یہاں سکھیر کر جمعر  
پڑھے اور جو شخص واپس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے تو  
آپ کا یہ اعلان خاص اہل قریٰ کے لیے تھا جو وہاں جمع ہونے تھے۔  
اس پر قرینہ ہے کہ حضور نے اپنے اس ارشاد میں تصریح فرمائی ہے  
کہ ہم توجیہ کریں گے، اس میں ہم سے مراد اہل مدینہ ہی ہیں۔ اس طرح  
اس حدیث میں واضح ولات پائی جاتی ہے اس بات پر کہ "من شاعر  
منکر ان یصلی" میں خطا، خاص اہل قریٰ کے ساتھ رکھا، نہ کہ اہل مدینہ

کے ساتھی۔

یہ تومولامارحوم کا ارشاد مُواحدیت کی تشریح کے متعلق، اور غنیوں صاحبوں کے  
درہب پر تنقید کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

وَإِمَّا أَبْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزَّبِيرِ فَكَانَا أَذْنَاكَ صَغِيرِينَ

عِنْرَا نَهْمَا سَمِعَا الْمَنَادِيَ اللَّنْدَاعِرِبَاً ذَلِكَ أَنَّهُمَا وَاتَّلَعْفَاهَا

أَرْبَدَ بِهِ فَأَخْرَابِنَ الزَّبِيرِ صَلْوَةُ الْعَيْدِ إِلَى مَا قَبْلَ الْمَرْوَالِ

وَقَدْمُ الْجَمِيعَةِ وَلَعْلَهُ كَانَ يَرَى حِوَانَ تَقْدِيمِ الْجَمِيعَةِ عَلَى

وقت الزوال کما یروا، آخرین فصل الجمیعة وادخل فيه

صلوٰۃ العید قبلہ لمریضیل الظہر کما یدل علیہ فاہم۔

الرواية۔

وَإِمَّا أَبْنَ عَبَّاسٍ فَكَانَ سَمِعَ بِأَذْنَتِهِ الْيَضَا مَا نَوْدِي

بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَذَا قَالَ فِيهِ أَنَّهُ أَصَابَ الْسَّنَةَ أَيْ

مَا سَمِعْتَهُ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَوْلَهُ مِنْ شَاءَ

فَلَيَصِلْ۔ اہم روایت المپھور، ج ۱، ص ۱۴۲-۱۴۳)

د باتی این عباس اور ابن زیر اس وقت دو فریون پڑے تھے ابتدیہ انہوں

نے اپنے کاؤں سے وہ اعلان سناتھا جو منادی سے کرایا گیا تھا۔ اگرچہ

اس کی مراد اور مطلب اُن کی سمجھ میں تھیں آسکاتھا تو ابن زیر نے عید کی

نماز کو زوال سے پہلے کے قریب وقت تک مُؤخر اور جمیعہ کو مقدم کر کے دفعہ

کو اکٹھی وقت میں اس طرح پڑھا کر عید کی نماز کو جمیعہ کی نماز میں داخل کر

ویا کہونکہ ملکن ہے وہ بھی دوسروں کی طرح اس بات کے قائل ہوئی کہ جب  
قبل از زوال جائز ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دن خبر کی ناز نہ پڑھی بلکہ  
روایت کے خاہر سے معلوم ہوتا ہے۔

ابن عباسؓ نے بھی چونکہ اس وقت حضورؐ کا اعلان اپنے کافوں سے  
ساختا، اس لیے ابن زبیرؓ کے فعل کے متعلق کہا کہ اس نے سفت پر عمل کیا:  
یعنی اس حکم پر عمل کیا جو میں نے حضورؐ سے سنا ہے کہ "جو چاہے جمده کی ناز  
پڑھے"۔

ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ کے مذہب پر مولانا مرحوم نے جو تنقید فرماتی، اس کا  
حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ابن عباسؓ اور ابن زبیرؓ چونکہ چھوٹے چھوٹے سچے تھے اس  
لیے انہوں نے حضورؐ کے ارشاد: من شاد فلیصل کام مطلب ہی سر سے نہیں  
مجھا، بلکہ ایک اعلان اور منادی کی ایک آواز کافوں میں پڑگئی کہ "جو شخص جمع کو  
چھوڑ کر عید پر استفادہ کرنا چاہے تو اُسے اس کی اجازت ہے"۔ آگے یہ بات معلوم نہ کر  
سکے کہ یہ خطاب کس کے ساتھ ہوا ہے اور کن لوگوں کو یہ رخصت دی جاتی ہے؟  
اس بنا پر انہوں نے اپنے فہم کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید یہ عام عوام لوگوں کے لیے اجاز  
ہو۔ خواہ شہری ہوں یا کاؤں سے آئے ہوئے ہوں۔ اس لیے ایسے موقع پر  
انہوں نے اسی کے مطابق عمل بھی کیا اور اسے صفت بھی کہا۔ حالانکہ حضورؐ کا خطاب  
خاص اہل قریٰ سے تھا۔ اور رخصت و اجازت اپنی کے لیے مخصوص بھتی۔

کیا یہ صحابہؓ پر تنقید نہیں؟

اب اس کی تحقیق آپ کریں کہ یہ صحابہؓ پر تنقید ہے یا نہیں؟ اگر یہ تنقید نہ

ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر ہو تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید منوع ہے اور تنقید کرنے والے لوگ گروہ اہل السنۃ سے خارج ہیں؟ کیا حضرت امام شافعیؓ اور مولانا مرحوم کو آپ گروہ اہل السنۃ سے خارج سمجھتے ہیں، یا اگر وہ اہل السنۃ کے ترجمان اور نایدے ہے؟

### تنقید کے مساوات کی شرط ضعیف مذکور ہے

ذور حاضر کے بعض علماء کے متعلق یہ بات منظہ میں آئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام خود تو ایک دوسرے پر تنقید کر سکتے ہیں مگر ان پر امت کے دوسرے افراد تنقید نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلاً تابعین یا تبع تابعین اور یا ان کے بعد دوسرے علماء اور ائمۃ یعنی ہرگز یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ دین کے کسی مسئلہ میں صحابہ کرام کے احوال اور فصیلوں پر تنقید کریں اگرچہ وہ ان کے انفرادی احوال اور اجتماعی فیصلے کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے میں بیان طور پر شرکیب اور صفت صحابیت میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ان کے ماہین و صفت صحابیت میں کوئی فرق اور احتیاز نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر دنی مسائل میں تنقید کرنے کے جواز ہوں۔ لیکن آنے والی امت کے افراد خواہ بڑے سے بڑے علماء اور فضلاء اور ائمۃ دین و عیتمدین ہی کیوں نہ ہوں، مگرچہ کونکہ حضور سے فیضیاب ہونے میں یہ لوگ ان کے ساتھ شرکیب نہیں ہیں، اور نہ صفت صحابیت میں ان کے ساتھ برابر ہیں، نہ ان کا رقمہ صحابہ کرام کے رقمہ کے ساتھ مساوی ہے، بلکہ بدرجہ این سے یہ لوگ کمتر اور اونٹ میں کیونکہ آنے والی امت کے کیسے صحابہ کرام دین کے معاملہ میں پیشوں اور متعبد اپنیں اور انہی کے اتباع کا ساری امت کو حکم دیا

گیا ہے تو یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ امت اُن پر دین کے مسائل اور معاملات میں تنقید کے ہے ؟ تنقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ تنقید کرنے والا آدمی، عالم و فضل اور درسرے کی کالات میں اس شخص کے ساتھ برابر ہو جس پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ اس کے بغیر ایک اعلیٰ درجہ کی شخصیت پر اس شخص کی تنقید جائز نہیں جو اسی سلسلہ درجہ کے اعتبار سے برابر نہ ہو۔ بلکہ بہت فرد تر ہے۔

اور چونکہ امت میں کوئی شخص ایسا نہیں مل سکتا جو حکوم اور فضائل میں کمالات اور مدارج میں صحابہ کرامؐ کے ساتھ مساوی ہو یا ہم سری کا دعویٰ کر سکتا ہو اس لیے ان کو صحابہؐ کرام پر یا ان کے اقوال اور فیصلوں پر تنقید کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ اقوال ان کے انفرادی، اور فیصلے ان کے اجتہادی ہوں۔

### ضدھنعت کے درجہ

ہمارے تزوییک اگرچہ یہ مسلم خوشخاں ضرور ہے مگر دلائل اور واقعات کی روشنی میں قوری نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ اور دل اس پر مطمئن نہیں ہو سکتا جن درجہ کی بنابری ہم اُسے ضعیف سمجھتے ہیں وہ درج ذیل میں درج ہے:-

ذرا یہ بات ہم پر یہ مسئلہ کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں کہ زیرِ بحث تنقید سے مراد صحابہ کرام پر کوئی طعن یا درجہ یا معاذ اہم ان کی کوئی تنقیص یا توہین ہرگز نہیں ہے، نہ ان کے اقوال اور فیصلوں سے کلی اعراض اور اغراض مراد ہے اس طرح کی تنقید یقیناً صحابہ کرام پر ناجائز اور حرام محض ہے۔

تنقید سے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہاں مراد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ذاتی اقوال اور فیصلوں کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم

کیا جائے کہ وہ ان احکام کے ساتھ مطابق ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں  
 یا نہیں۔ موافق ہوں تو معمول بنائے جائیں گے اور مخالف ہوں تو چھوڑ دیتے  
 جائیں گے۔ اس طرح کی تنقید کے متعلق ابتداء میں جو دلائل بیان کیے جا پچکے ہیں،  
 ان کی رو سے یہ تنقید ہر اس شخص پر جائز ہے جو موصوم ہو۔ اسی طرح یہ تنقید  
 ہر اس قول اور فحیصلہ پر ہو سکتی ہے جس میں صواب اور خطأ دونوں کا امکان پایا  
 جاتا ہو۔ چونکہ صحابہؓ کرام بھی اس کلیہ سے مستثنی نہیں ہیں سو وہ خود موصوم ہیں،  
 اور وہ ان کے اقوال اور فحیصلے خطأ اور غلطی کے امکان سے مبترا ہیں مگر اس لیے  
 بجا تے خود صحابہؓ کرام کے اقوال اور فحیصلے زیر تنقید آسکتے ہیں، خواہ یہ تنقید خود صحابہؓ  
 کرام کی ایک دوسرے پر ہو یا تابعین اور تبع تابعین کی اُن پر ہو۔ کیونکہ تنمازع فیہ  
 مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہؓ کرام کے اقوال اور فحیصلے کس کی تنقید سے بالآخر ہیں۔ اور  
 کس کی تنقید سے بالآخر نہیں ہیں۔ بلکہ زیر بحث تنمازعہ فیہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا بجا تے خود  
 صحابہؓ کرام اور ان کے اقوال اور فحیصلوں کا کیا مقام ہے۔ اُن پر تنقید کی جاسکتی ہے  
 یا نہیں۔ تو ہم نے ابتداء میں جو کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے ہیں اُن کے بحث  
 صحابہؓ کرام کے اقوال اور فحیصلے محل تنقید ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اسی طرح کی تنقید سے بالآخر  
 وہ اشخاص ہو سکتے ہیں جو بجا تے خود معیارِ حق ہوں اور اُن سے مخالفت باطل ہو۔  
 اور یہ ترتیب صرف خدا کی کتاب اور رسول کی سنت کو ہی شامل ہو سکتا ہے، نہ کسی  
 دوسرے کے اقوال اور ذاتی فحیصلوں کو۔ کیونکہ انہیں معمومیت کی سند شامل نہیں۔  
 و ۲۶) اس مسئلہ کے منعوفہ کے لیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو جسم  
 واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو کمزودی و کھاتی دیتی ہے کہ وہ

اس پر مطہن نہیں ہو سکتا۔ نہ اس کے ساتھ اتفاق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ واقعات کی بوشنی میں یہ تحقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اس طرح کی تنقید تابعین اور شیع تابعین وغیرہم کی زبان و قلم سے صحابہ کرامؐ کے ذاتی اقوال اور اجتہادی فضیل پر ہو چکی ہے۔ اور حبوبوں کی زبان و قلم سے یہ تنقید اپنے سے بڑوں کے کارناموں پر نہ کوئی گناہ سمجھا گیا ہے اور نہ ان کی توہین۔ نہ اس کو رُنی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔

چھلے مباحثہ میں تنقید کی جو مشائیں پیش کی گئی ہیں، ان میں ایسی بھی مشائیں موجود ہیں جن سے صحابہ کرامؐ کی ایک دوسرے پر تنقید واضح ہے اور ایسی مشائیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں جن میں تابعین اور ان کے بعد کے علماء کی جانب سے صحابہ کرامؐ کے ذاتی اقوال اور فضیلوں پر تنقید میں ہوتی ہیں۔ فتحۃ التنعیم بالغرة الی رنج کے مسئلہ میں این عمر نے شامی آدمی کے ساتھ جو مکالمہ کیا ہے اس میں انہوں نے اپنے باپ سیدنا عمر فاروقؓ میںے علم و عمل کے پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ مأشد کے نظریہ پر واضح لفظوں میں تنقید کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ "حضور کے فعل و عمل کے مقابلہ میں میرے باپ حضرت عمرؓ کا قول قابل اتباع نہیں ہے" اسی طرح احرام سے پہلے، اور احرام کھونے کے بعد قبل از طوافِ زیارت خوشبو نگانے کے مسئلہ میں حضرت سالمؐ نے اپنے باپ این عمرؓ اور اپنے والد حضرت عمرؓ دونوں کے نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں چونکہ دونوں حالتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشبو نگانہ مذکور ہے۔ لہذا یہ جائز۔ اور باپ والد کا قول اور اجتہادی راستے اس کے برخلاف قابل عمل نہیں ہے۔

کیا کوئی شخص یہ کہنے کی جو امت کر سکتا ہے کہ عبد اللہ ابن عمرؓ علم وفضل میں حضرت

عمر سے زیادہ تھے یا ان کے ساتھ مساوی؟ یا کوئی شخص اس بات کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ حضرت سالمؓ اپنے باپ اور دادا و دنوں کے ساتھ علم و فضل میں مساوی تھے، یا ان سے زیادہ بڑے تھے۔ حاشا و کلا

اس کے علاوہ مسئلہ فنظر میں ایک حورت نے حضرت عمر پر تنقید کی تھی اور قضا حاجت واستقبال قبلہؓ کے مسئلہ میں ابن عمر اور حضرت جابر و رسول کی راستے پر خفیہؓ نے کھلے طور پر تنقید کر کے اُسے چھوڑ دیا ہے۔ «اجماع عبیدین» کے مسئلہ میں ابن عباسؓ، ابن زبیرؓ اور زید بن ارقم کے فیصلے پر شواقع اور احادیث سب نے تنقید کی ہے۔ تو کیا اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے نہیں آتی کہ تابعیؓ اور بعدکے ائمہ دین مجتبیہ دین سب نے فرعی مسائل میں صحابہؓ کے انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلوں پر تنقیدیں کی ہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہو اور تین اثبات میں ہے تو پھر یہ کہنے میں کیا تردید ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تنقید کے لیے مساوات فی العلم و الفضل کو شرط قرار دیتے ہیں ان کا یہ مسلک انتہائی منحیت ہے۔ اور ول اس پر علم نہیں ہو سکتا؟

(۴) یہ بھی ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ چاروں مذاہب کے جو فقیہی نظام آج عالمِ اسلام میں رائج ہیں اور تصانیفِ فقہاء میں ہر ایک کے اصول و قواعد و فروع و جزئیات اپنی اپنی تفصیل کے ساتھ مرتب شکل میں پائتے جاتے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے بھی ایک دوسرے پر علمی نقد اور تنقید کی ہے اور ان کے مذاہب کے جو دو ابتداء علاء میں، ان میں بھی ایسے محققین گزرے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اُن ائمہؓ کے مسلک اور اجتہادی فتویں پر تنقیدیں کی ہیں جن کے مذاہب سے وہ تنقید کے اصحاب سے دامتہ رہے ہیں۔ نیز بعض ائمہؓ کے فتاویٰ کو بھی بعض دوسرے

اللہ کے مقابلہ میں قابل ترجیح کیا گی ہے تو کیا ہم یہ بادر کر سکتے ہیں کہ یہ سب ائمہ علم و فضل میں ایک دوسرے کے برابر ہے ؟ یا ان کے متفلین علما و ائمہ کے ساتھ علی اور علی برتری میں ہمسری کا دعوی کر سکتے تھے ؟ یا یہ تنقید کسی کے یہاں توہین بھی گئی ہے ؟ پھر حال تنقید کے جواز کے لیے مساواۃ فی العلم و الفضل کو شرط قرار دینا نفس الہی حقیقت کی بدنی میں تینا ناقابل فہم ہے کیونکہ تنقید بھی عجیب جوئی ترا ایک حرام ہے اور ممنوع اتباع حدود ہے۔ اس کے لیے شریعت میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ چچہ جائیکہ مساوی اور غیر مساوی کا فرق قائم کیا جاتے۔ اور جو تنقید شرعی دلائل سے کسی غیر نی کے قول و فعل کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد قبول کرنے یا رد کرنے کا نام ہے۔ اس کے متعلق نفس الامری حقائق ثابت دیتے ہیں کہ اس میں مساوات شرط نہیں ہے بلکہ چھوٹے بھی اپنے سے بڑوں پر یہ تنقید کر سکتے ہیں، اور نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ کرتے بھی چلے گتے ہیں۔ اور کسی نے اس کو نہ توہین سمجھا ہے اور نہ تحقیص۔ اسی طرح صحابہ کریم کے اقوال اور انفرادی فحیصلوں کے بارے میں بھی یہ بات پُرسی احت نے بالا جماع تسلیم کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مقابلہ میں ان کے یہ انفرادی فحیصلے اور ذاتی اقوال ہرگز قابل عمل نہیں ہیں۔ اور یہی مطلب ہے دستور چاحدتِ اسلامی کی دفعہ تلاوت کا کہ «کسی کو تنقید سے بالآخر نہ سمجھے»۔

### مشکلہ تنقید کی مزید تفصیل

مشکلہ کی مزید تفصیل اور آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے مزدوجی ہے کہ اس کے تمام مسئلہ شعوق اور پھر ان کے احکام تفصیل دار بیان کیے جائیں اور ہر ششی پر علیحدہ علیحدہ بحث کی جائے تاکہ مشکلہ کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔

۱۔ زیر صحیح مسئلہ کی پہلی شق یہ ہے کہ صحابہؓ کرام کا مقام در باب روایت  
کتاب و سنت کیا ہے؟ آیا وہ اس میں ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں، یا پھر وہ زیر  
تنقید آسکتے ہیں؟

۲۔ دوسری شق یہ ہے کہ دین کے اصولی احکام اور اعتقادی مسائل جو انہوں نے  
ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اور ذات و صفات پاری تعالیٰ سے جو کا تعلق ہے، یا  
جو حالاتِ با بعد الموت سے متعلق ہیں۔ ان میں ان کے آفوال محل تنقید ہیں یا نہیں  
ہیں؟ بالفاخر و بگیر شارع علیہ السلام سے ان مسائل کی روایت میں ان پر تنقید کی  
جا سکتی ہے یا نہیں؟

۳۔ دین کا وہ تفصیلی نظام اور مکمل نقشہ جس میں مجموعی حیثیت سے عقائد  
بھی داخل ہیں اور اعمال کی تفصیلات بھی۔ عبادات بھی داخل ہیں اور معاملات  
بھی۔ اصول اور تواریخ اخلاق بھی داخل ہیں اور دوسرے شبے بھی۔

دین کا یہ تفصیلی نظام اور جامع نقشہ جو صحابہؓ کرام نے تمام تفصیلات کے  
ساتھ ساری امت کے سامنے تعلیماً و عمل اپیش کیا ہے اس میں ان کی شان اور  
مقام کیا ہے؟ آیا ان کا یہ نقل ساری امت کے یہے قابلِ اعتماد ہے اور آئندے  
والی امت کو ان کے پیش کردہ تفصیلی نظام دین میں تصریف اور تغیر کرنے کا  
حق حاصل نہیں ہے یا اس میں وہ زیر تنقید آسکتے ہیں۔ اور امت کے افراد یا  
جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نظام دین میں اپنی طرف سے کوئی تغیر  
اور تصریف کر سکیں؟ اور کہاً یا بعضًا اس نقشہ میں اپنی طرف سے رد و بدل کر دیں  
یا صحابہؓ کے پیش کردہ نظام دین پر تنقید کر کے اُس سے چھوڑ دیں؟

ہم مسئلہ کی آخری لورچو تھی شق یہ ہے کہ صحابہؓ کرام کے ذاتی اقوال اور اجتہادی فیصلے جن کی انہوں نے شارع علیہ السلام سے روایت نہیں کی ہو۔ اور نہ انہوں نے شارع کی طرف ان کی صریح نسبت کی ہو۔ بلکہ زندگی کے مختلف مسائل اور معاملات میں ان کے ذاتی اقوال اور اجتہادی فیصلوں کی حیثیت سے اقتضیت میں مشہور ہو چکے ہوں۔ ان میں ان کا مقام کیا ہے؟ آیا ان کے یہ ذاتی اقوال اور اجتہادی فیصلے قابل تنقید ہیں یا ان پر کوئی تنقید نہیں کی جاسکتی ہے اور ہر حالت میں تمام امت کے لیے واجب الاطاعت ہیں؟ یہ چار شعوق ہیں اس مسئلہ کے خواص میں ہر شق کا حکم اگلے الگ بیان کیا جاتا ہے۔

### احکام

شق اول کا حکم۔ چنان تک قرآن و حدیث کی روایت کا تعلق ہے جو مندرجہ بالا شعوق میں سے پہلی شق ہے۔ اس میں صحابہؓ کرام نہ ہرگز محل تنقید نہیں۔ بلکہ ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں۔ پوچھی امت اس بات پر تتفق ہے کہ حضور سے جس محفوظ شکل میں صحابہؓ کرام نے قرآن کریم نقل کیا ہے وہ سونی صد صبح ہے۔ اور اس میں ان کی خڑ سے فرہہ برابر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ اس میں جس نے بھی صحابہؓ کرام پر تنقید کر دی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ یہ تنقید شک فی المیتواترات کا نتیجہ ہے۔ اور شک فی المیتواترات کے ساتھ ایمان بحال نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح روایتِ حدیث کے بارعے میں بھی صحابہؓ کرام تنقید سے بالاتر ہیں۔ کیونکہ تمام اہل لہستہ والجماعۃ اس بات پر تتفق ہیں کہ تمام صحابہؓ خدول ہیں۔ ائمۃ حدیث کو جب کبھی رواۃ حدیث پر بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تمام روواۃ حدیث کی آزادانہ طرفی سے

جانب پر تال کر کے اُن پر تنقید کرتے ہیں۔ اور جو ح و تعلیل کے فرعیہ سے اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آنکھیں بند کر کے کسی کا قول قبول نہیں کرتے لیکن صحابہ کرام کو کبھی زیر بحث نہیں لاتے۔ نہ اُن پر دوسرے روایۃ حدیث کی طرح تنقید کرتے ہیں۔ بلکہ تمام الحدیث کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ: الصحابة کلام عدوں۔ البتہ اُن سے جب کسی مسئلہ میں مختلف اور متعارض روایتیں منقول ہوتی ہیں تو اس وقت روایات کے مابین باہمی ترجیح کے لیے صحابہ کرام کو زیر بحث لاتے ہیں اور اپنے مقرر گردہ اصول کے تحت ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فلاں صحابی چونکہ فلاں صحابی سے درجہ کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس لیے اس کی روایت بھی دوسرے کی روایت کے ب مقابلہ قابل ترجیح ہے یا چونکہ وہ فقاہت کے لحاظ سے دوسرے کی پسیت زیادہ فقیہ ہیں۔ اس لیے اس کی روایت کو بھی دوسرے کی روایت کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہوگی۔ اس طرح ترجیح میں ال روایات کے موقع پر فرق مرتب یا علی اور فقہی تفوق یا ضبط و خفظ کے فطری تفاوت کے لحاظ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیا کرنے ہیں۔ لیکن اُن پر یہ تنقید اصلاً نہیں کرتے کہ ایک ثقہ اور عادل ہے۔ اور دوسرا معاذ اللہ غیر ثقہ یا غیر عادل ہے۔ یا ایک صحابی میں اصلاً کوئی عیب نہیں ہے اور دوسرے میں فلاں فلاں عیوب ہیں اس لیے عیوب سے پاک صحابی کی حدیث دوسرے کی حدیث سے زیادہ قابل ترجیح ہوگی۔

شق دوم کا حکم۔ اصول دین اور اعتقادی مسائل کی سوابیت میں بھی صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالاتر میں یکیونکہ اصول دین اور اعتقادی مسائل کا مأخذ درحقیقت کتاب و سنت کے قطعی دلائل اور تلقینی احکام ہیں۔ اپنی طرف سے دین کے

اصول اور اعتقادی مسائل وضع کرنا شارع علیہ السلام کے سواد و سرے کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ بلکہ غور سے دیکھا جاتے تو یہ کام دراصل صرف خدا کا ہے۔ اور شارع علیہ السلام فدک کے ایک نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی صرف ترجیحی کر رہے ہیں۔ لہذا دین کے پیر اصول اور اعتقادی مسائل فی الحقيقة کتاب و سنت کے قطعی دلائل اور تفصیلی احکام ہی پڑھنی ہوں گے۔ اور تفصیلات محلِ شقید نہیں ہوئیں گے۔ اس بارے میں جس نے بھی ان پر تنقید کی ہے اس کا رابطہ اہل حق کی جماعت سے کٹ کر فرقہ باطلہ کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ اور اہل حق کی جماعت میں کبھی اس کا شمار نہیں ہوا ہے۔ خوارج، مغترلہ اور دوسرے فرقہ باطلہ کا وجود اس قسم کی تنقید ہی کی پیداوار ہے۔

شق سوہر کا حکم، تیری شق کا حکم یہ ہے کہ دین کا وہ جامع نقشہ اور تفصیلی نظام جس کو صحابہ کرام نے حضور مسی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے ساری امت کے سامنے پیش کیا ہے جس میں عقائد، دین کے فرائض، اور عبارات کے طریقے، اصول اخلاق، اور دین کے دوسرے شعبے، سب ہی داخل ہیں۔ اس میں بھی صحابہ کرام ہرگز محلِ شقید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دین کا یہ جامع نقشہ اور مکمل نظام خود حضور کے ہاتھوں مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ۲۷ سالہ زندگی میں تہ کیا جا چکا ہے۔

صحابہ کرام نے تو صرف اُسے اپنی محفوظ شکل میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا ہے۔ بلکہ اپنے اس مصلح نگہ میں پیش کیا ہے جس رنگ میں وہ حضور کے چہد میں ترتیب دیا جا چکا تھا۔ اپ

اگر اس میں صاحب کرام محتل شقید دین جائیں تو ایک طرف پُرے دین سے اعتماد انہوں جائیگا۔ اور دوسری طرف ان کے پیش کردہ نظام دین پر شقیدات کی وجہ سے ہر فتنہ پر واد نہ صن اس میں اپنی طرف سے ترمیم و اصلاح کرنے لگے گا جس سے دین کا اصل حلیہ ہی جگہ جائے گا۔ اور تماقیامت کسی ایک حالت پر دین قائم نہیں رہے گا۔

ابعدہ چدید حالات اور نئے پیش آمده واتعات کے لیے قیاس اور اجتہاد کے ذریعے سے احکام متنبیط کیے جاسکتے ہیں۔ اور منصوصات شریعت سے غیر منصوص فروع کے لیے احکام اخذ کیے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ اجتہاد کی البتت مفقود نہ ہو۔ مگر اصل نظام دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی ہے۔

مثلاً: رجح، روندہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے حضور نے اپنے قول و عمل سے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں اور صحاپتے ہم کو وہ طریقے بتاتے ہیں یا اخلاق کے جو اصول اور دین کے دوسرے شعبوں کی جو تفصیلات انہوں نے اسوہ رسول کی شفیعیہ میں پیش فرمائی ہیں ان سب میں شرکوی شخص یا جماعتہ ان پر شقید کر سکتی ہے اور نہ اپنی طرف سے ان کے پیش کردہ نظام دین میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس معاملہ میں ہر قسم کی شقید سے بالآخر بھی ہیں اور معیارِ حق بھی۔ اپنی کی پیروی اور مخالفت اختیار کرنے سے حق اور باطل کی معرفت حاصل ہو گی۔ حق پر وہی لوگ قائم رہیں گے جو ان کی پیروی اختیار کریں۔ اور وہی لوگ حق سے برگشتہ تصور کیے جائیں گے جو ان کے پیش کردہ نظام دین سے اپنے لیے الگ راستہ اختیار کریں۔ یہی مطلب ہے حضور کے ان ارشادات کا جن میں افتراق انتہ کے وقت میں اہل حق کی یہ علت اور اشافی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں صاحب کرام کے پیروی ہوں گے اور

میرے طریقہ کے تبع رہیں گے۔“

ستغفیق امتی علی ثابت و سبیعین ملة کلہ مر ف النار  
الا واحدۃ قیل من هی یا رسول الله؟ قال الذین هم  
علی ما ان اعلیه واصحابی۔ روا کعبا قال، در ترمذی۔

”میری امت تہتر فرقوں میں بیٹ جائے گی اور ایک فرقہ کے سواباتی  
سارے فرقے جہنم میں جائیں گے پوچھا گیا وہ فرقہ کونسا ہو گا۔ آپ نے  
فرمایا جو میرے اور میرے صحابہؓ کے پیش کردہ نظام دین پر عالم ہو گا۔“

شق چہارم کا حکم: مسئلہ کی یہ چوہتی شق درحقیقت وہ مسئلہ ہے جو علیک  
امت کے یہاں ”تعظیم الصحابی“ کے عنوان سے معروف اور مشہور ہے اور جو صفت  
سے کر خلعت تک مختلف زمانوں میں موجود یعنی بحث رہا ہے اور اختلافی صورت  
میں آج تک متعلق ہوتا چلا آیا ہے۔ اس میں علمائے امت کے مختلف گروہوں  
کے مختلف نظریات اور مذاہب ہیں۔ اور اپنے اپنے نظریہ پر ان کی طرف سے  
اختلاف قسم کے بلاطل اور برداہین پیش کیے گئے ہیں۔ ایسے اختلافی مسائل میں دو یا  
دوسرے زائد مختلف گروہوں اور مسکنوں میں سے ایک کے ساتھ اتفاق اور وہ فرض  
سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور بلاطل کی روشنی میں ایک کو دوسرا پر ترجیح  
بھی دی جاسکتی ہے۔ ذیل میں ہم اس کی تحقیق کو خود علماء اصول نقشہ کی تصریحات کی  
روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اس آخر میں وہ قول ذکر کریں گے جو ہمارے زدیک مختار  
قول ہے۔

## مسئلہ تقدید الصحابی

قول صحابی میں علماء سے اصول فقرہ کے اختلافات بیان کرنے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختصہ اقسام بیان کیے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ علماء کے درمیان محل اختلاف کو نہ قول ہے۔ اور کس قسم کا فیصلہ ہے؟ اور وہ کون سے اقوال ہیں جن میں علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے بلکہ ان کی حجت یا عدم حجت پر باہم گرفتار ہیں۔

### قول صحابی کے اقسام

قول صحابی کے متعدد اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ قول ہے جو اجماع صحابہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً کسی معاملہ میں ایک صحابی نے کوئی فتویٰ دے کر فیصلہ کر دیا۔ اور دوسرے صحابہ نے اس کے ساتھ اتفاق کر دیا۔ اور صراحتاً اس کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کر دیا۔ اس قول کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ صرف ایک صحابی کا قول اور فیصلہ ہے۔ بلکہ یہ قول تمام صحابہ کا ایک اجماعی قول اور اتفاقی فیصلہ تصور کیا جاتے ہا۔ اس کا حکم یہ ہو گا جو اجماع صحابہ کا ہے یعنی بالاتفاق جوت ہے اور تمام امت کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ ایسے قول پر اصلاً کسی کو تقدید کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اور نہ اس کی خلافت کسی کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔

دوسری قسم وہ قول اور اجتہادی فیصلہ ہے جسکے متعلق قضیٰ طور پر یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول کے فیصلہ کے خلاف ہے۔ اس قسم کے انفرادی اقوال اور اجتہادی فیصلوں کے متعلق پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ حجت نہیں ہیں اور قابل اتباع ہیں۔ بلکہ بااتفاق ہمت کی دینہ بنت کے مقابلے میں قرآن العلیٰ۔

ثیری قسم صحابی کا وہ قول اور اجتہادی فیصلہ ہے جو عام صحاپت میں مشہور ہو چکا ہو۔ مگر کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہو۔ اس قسم کے انفرادی اقوال کے متعلق علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ صحبت ہیں۔ اگرچہ ان کا اجماع ہونا مختلف فیہ ہے۔ اسی قسم کے متعلق امام شاطبیؒ کے "المواقفات"

کی شرح میں مشہور عالم شیخ عبداللہ دراز دیباٹی تحریر فرماتے ہیں:

اذا شهد ولهم بخلافه احمد هل يكون حجة فقط امر يعتبر اجماعاً ؟ فیہ خلاف "اہجہم صك"

"جبکہ قول صحابی کسی معاملہ کے متعلق مشہور ہو جاتے اور کوئی اس کی مخالفت نہ کرے تو کیا یہ قول صحبت فقط ہو گا یا اجماع بھی قرار دیا جائے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔"

خالباً اس کا اجماع ہونا اس بنا پر مختلف فیہ ہے کہ یہ اجماع نصی سکونتی ہے اور امام شافعیؒ وغیرہ اس کے اجماع ہونے سے انکاری ہیں۔ اگرچہ احادیث اس کی اجماعی ثابتیت تسلیم کرتے ہیں۔

چوتھی قسم قول صحابیؒ ہے جس کی درسرے صحابہؓ نے مخالفت کی ہو۔ گویا ایک واقعہ میں صحابہؓ سے دو مختلف اقوال منقول ہوں۔ ایسے مختلف اقوال میں بعد کے الکرہ مجتہدینؒ اختیار اور ترجیح سے کام لیں گے۔ جانچ پڑتاں کرنے کے بعد جو بھی قول کتاب و سنت کے معیار پر پورا اترے گا اس کو درآمد کیا جائے گا۔ اور کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد جو قول قابل ترجیح ثابت ہو اس سے ترجیح دی جائی۔

اسی صورت کے متعلق امام شافعیؓ سے یہ نقل کیا گیا ہے:

وَالْمُنْقُولُ عَنِ اشْفَاعِيْ اَنَّهُ يَجُوزُ لِهِ تَعْلِيْدُ الصَّحَابَيْ

بِشَرَطِ اَنْ يَكُونَ اَرْجُحُ فِي بَيْنِهِ مِنْ خَالِفِهِ مِنْهُمْ وَالَا

تَخْيِرٌ۔ اَهُدُو رَسْرَاجُ الْمَوَافِعَاتِ ج ۴ ص ۳۷)

د امام شافعیؓ سے یہ منقول ہے کہ غیر محترم کے پیغمبر انبیاء کی تعلیمیں جائز ہے پیر طیکہ اس کی نظر میں اس کا قول غالباً عین کے قول سے زیادہ راجح ہو رہا ہے پھر جو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

قول صحابی کی پانچوں اور آخری قسم وہ ہے جس کے لیے کوئی مخالف قول بھی معروض و معلوم نہ ہو۔ اور وہ صحابہ کرام کے مابین مشہور بھی نہ ہو چکا ہو۔ اسی آخری قسم میں علمائے امت کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ ذیل میں ان کے مذاہب پا تفصیل ذکر کیے جاتے ہیں:

ماکبیر و حنبلیہ کا مذہب

پہلا مذہب امام ماکبیر کا ہے۔ وہ یہ کہ صحابی کا یہ قول پھر حال جبعت اور واجب التعلیم ہے، خواہ وہ کسی ایسے مسئلے میں ہو جو مذکور بالقياس ہو، یا کسی ایسے مسئلے سے تعلق رکھتا ہو جو معمول المعنی اور مدرک بالقياس نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کی تعلیم ضروری ہوگی اور قیاس کی پیروی اس کے مقابلہ میں جائز نہ ہوگی۔ احتمات میں سے ابوسعید بردنی کا بھی مذہب یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں قول صحابی کی تعلیم کی جائے گی اور بوقت تعارض میں القیاس اسی کو قیاس پر ترجیح بھی دی جائے گی۔

امام احمد کا مذہب بھی قریب وہی ہے جو امام مالک کا ہے۔ مذہب کے  
مابین کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک بھی دو فوں صورتوں میں قبول صحابی  
واجب التقلید ہے اور کسی محدث کے لیے اس کے مقابلہ میں قیاس پر عمل کرنا جائز  
نہیں ہے۔

اما مناسب نہ ہو کا اگر ہم بیان ان مذاہب کے دلائل بھی مختصرًا ذکر کریں چنانچہ  
ان میں سے جن جن دلائل پر علمی تفتیہ کی گئی ہے اس کو بھی نقل کریں تاکہ مسئلہ اچھی طرح  
 واضح ہو جائے۔

**حنایلہ اور مالکیہ کے دلائل**

امام شافعی مالکی نے "الموانعات" (ج ۴ ص ۳۷) بحث السنۃ میں المسئلۃ  
التسعة" کے عنوان سے اس مسئلہ کو ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

سَنَةُ الصَّاحِبَةِ سَنَةٌ يَعْلَمُ عَلَيْهَا وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا وَمِنْ  
الدَّلَائِلِ عَلَى ذَالِكَ أَمْوَارٌ - أَحَدُهُمَا شَاعِرُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَ  
مَدْحُومٌ بِالْعِدْلَةِ كَمَا قَوْلُهُ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ إِنْ هُنْ بِعِصْبَتٍ  
لِلنَّاسِ - وَقَوْلُهُ وَكَذَّابِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطَا تَنَاهُونُ  
شَهَدَ أَدَمَ عَلَى النَّاسِ - إِنَّمَا

فِي الْأَوَّلِ اثْبَاتُ الْأَفْضَلِيَّةِ عَلَى سَائِرِ الْأَمْمَمِ - وَفِي الْأَنْكَ  
لِيَقْضِي بِاستِعْمَالِهِمْ فِي كُلِّ حَالٍ ... وَفِي الثَّانِيَةِ اثْبَاتُ الْعِدْلَةِ  
مُسْلِمًا وَفِي الْأَنْكَلِ يَدْلِلُ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَوَّلِ - أَه-

وہ صادر ہے کہ امر کی صفت بھی صفت کی ایک قسم ہے جس پر عمل کیا جائیگا۔  
اور اس کی طرف رجوع بھی کیا جاتے گا۔ اس کے لیے چند دلائل ہیں۔  
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان فرمائی ہے اور عدالت کے  
ساتھ ان کی مدح کی ہے۔ فرمایا ہے: 『تم سب انترون سے بہتر ہو جو بھی گئے  
ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو  
امت معتدل تاکہ رہو تم لوگوں پر گواہ۔』

پہلی آیت میں تمام امتوں پر ان کی افضلیت بیان کی گئی ہے، اور یہ حکم ہے ان کی استعمالیت علی الحق پر ہر حال میں۔ اور وہ صری آیت میں ان کے لیے حدالیت مطلقاً کامل ثابت کی گئی ہے۔ اس طرح یہ آیت بھی اس معنی پر ولامت کر سے گی جس پر پہلی آیت ولامت کرتی ہے، «(صیغی فضیلت) آگے چل کر اس ولیل سے امام شاطبیؒ یہ نتیجہ نکالتے ہیں:

و اذا كان كذلك فليس لهم معتبر و عملهم مفتدى به اع  
اد رحيم صاحب کرام بپرداخت قرار پائے اور عادل بھی ہو گئے تو ان  
کا قول معتبر ہوا گا۔ اور عمل قابل اقتداء اور ہے گا ۱۰

اما موصوفون نے ثبوت مدعاً کے لیے دوسری ولیل یہ بیان فرمائی ہے:  
والثاني ما جاء في الحديث عن الامير باتبا عهم وان سنتهم  
في طلب الاتباع كسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم  
بینتى و بنى المذاق الراسدين المؤذنين تمسكون بها و  
عنوا عليها بالترابيذ وقال عليه السلام تفترق امتى على

ثُلُث و سَبْعِين مَلَكًا كَلِمٌ فِي النَّارِ الْأَمْلَأَةِ وَاحِدَةٌ تَالُو امْن  
هُنْ رِيَاسَةُ سُولِنَاتِ اللَّهِ ؓ قَالَ مَا أَنْاعَدْتِهِ وَاصْحَابِي -

وَيَعْرِفُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ اصْحَابِي كَالْجَنُومِ بِاِيمَانِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ

اَهْتَدَيْتُمْ - اَهْ رَجْعٌ ۚ ص ۷

۱۰ دوسری دلیل یہ ہے کہ احادیث میں ان کے اتباع کا امر آیا ہے  
اور یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ ان کی سنت کا اتباع بھی حضورؐ کی سنت  
کی طرح مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نیے میری سنت کا  
اتباع بھی ضروری ہے۔ اور ان خلفاء راشدین کی سنت کا اتباع بھی جو  
ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت پڑھنے کرو اور مضمون سے اس پر قائم  
رہو۔ یہ بھی حضورؐ نے فرمایا ہے کہ "میری اہستہنہتر فرقوں میں بٹ جائیں  
اور ایک فرقہ کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا،  
وہ کون سافر قدر ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے علاقے  
کی پوری دلیل کرے گا۔"

۱۱ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ میرے اصحاب تاروں کی اندر  
ہیں جس کی بھی قدر اقتدا کرو گے ہدایت پادو گے۔  
غیری دلیل یہ بیان کی گئی ہے:-

وَالْثَالِثُ أَنْ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ قَدْ مَوَالَعَصَابَةَ عِنْدَ  
تَرْجِيعِ الْأَخَوِيلِ فَقَدْ جَعَلَ طَائِفَةً تَعْلَمَ أَبِي بَكْرَ وَعَمَرَ تَجْهِيدَ  
وَدِيلًا وَدِعْصَنَمْ عَدَّ قَوْلَ الْخَدْفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَدِيلًا وَلِعَصْنَمْ

يَعْدُ عَوْلَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْأَطْلَاقِ حَجَّهُ وَدَلِيلًا... وَمَا ذَالِكَ  
الَّذِي أَعْتَدْنَا فِي النُّفُسِ وَفِي مُخَالَفِيهِمْ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ وَقُسْوَةِ  
مَا أَخْذُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَكَبْرُ شَانِهِمْ فِي الشَّرِيعَةِ وَإِنَّهُمْ جَمِيعٌ  
مُتَابِعُهُمْ وَمُتَقْدِيَّهُمْ - ۱۶

وہ تفسیری دلیل یہ ہے کہ جبکہ علماء نے جبکہ وہ مختلف اقوال کے مابین  
ترجیح بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کو مقدم رکھا ہے۔ چنانچہ ایک طائفہ نے  
ابو بکرؓ اور عمرؓ کے قول کو حجت اور دلیل گردانہ کیا ہے۔ اور بعض دوسرے علماء نے  
خلفاء راشدین کے قول کو دلیل قرار دیا ہے۔ اور بعض نے قول صحابی کو  
سلطنتی حجت اور دلیل تسلیم کیا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے  
کہ تمام صحابہؓ کے باہمے میں امت کے تمام علماء احترام اور تعظیم کا اعتقاد  
رکھتے ہیں۔ اور ان کے دلائل کی قوت کے سعرف اور شرعاً میں ان کی  
بری شان کے قائل ہیں کہ ہم پر ان کی متابعت اور تقدید و توہن حبیب  
ہیں؟

اس کے بعد امام شاطئؓ نے چھپی اور آخری دلیل اثبات دعوے کے لیے  
بیان کی ہے:

وَالرَّابِعُ مَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ اِبْرَاهِيمَ وَجِبَتْهُمْ وَذِمَّهُمْ  
مِنَ الْبَغْضِ مَا تَرَكَ مِنْ اَحْبَبْهُمْ فَقَدْ اَحَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَمِنَ الْبَغْضِ مَا تَرَكَ الْعَصْبُ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَمَا ذَالِكَ الْأَلْسُندُدُ كَمَتَابِعَهُمْ لَهُ وَالْعَمَلُ لِسَنَتِهِ مَعَ حَمَائِيَّةِ

وَنَصْرَتِهِ رَمَنْ كَانْ بِهِذَا الْمُثَابَةِ فَهُوَ حَقِيقٌ بَاتْ يَتَحْدَ

قَدْوَةٌ وَيَجْعَلْ سَبِيرَتِهِ قِبْلَةً - اهـ (رج ۳۷ ص ۲)

وہ چونچی دلیل یہ ہے کہ احادیث میں پوری امت پر صحابہؓ کے ساتھ  
محبت رکھنا لازم کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ بغیر رکھنا ان کے ساتھ انتہائی نزدیک  
ہے۔ اور جوان سے محبت رکھے اس نے حضورؐ سے محبت رکھی اور جوان  
کے ساتھ بغیر رکھے اس نے حضورؐ کے ساتھ بغیر رکھا۔ یہ مقام انہیں  
صرف اس درجہ سے حاصل ہوا ہے کہ وہ حضورؐ کے سخت قبیع، آپ کی  
سفت پر عامل اور آپ کے حامی و ناصر تھے۔ اور جن کی پرشان ہو تو  
اس بات کے لائق ہیں کہ انہیں معتقد اینا یا باطلے ماؤں ان کی سیرت کی  
سپروردی کی جاتے ہیں۔

یہ چار دلائل ہیں جو امام شاطیؒ نے امام مالکؓ کے ذہب کے بیان کیے  
ہیں۔ اور جن سے یہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں کہ صحابی کا انفرادی  
قول اور اجتماعی فیصلہ مطلقاً محبت ہے۔ اور ہر قسم کی تنقید سے بالآخر ہے ذیل  
میں وہ تنقیدات ذکر کی جاتی ہیں جو مذکورہ بالا چاروں دلائل پر علماء کی طرف سے  
کی گئی ہیں:

### تُنْقِيدَاتٌ

بیرون دلائل تمام کے تمام ہیے ہیں جن پر علماء کی طرف سے علیٰ تنقیدات ہو چکی  
ہیں۔ چنانچہ پہلی اور دوسری دلیل پر خود ملک موافقات کی شرح میں شیخ عبداللہ دراز  
دمیاطی نے درج ذیل تنقیدات کی ہیں:

صنادیل الدلیل الاول و اثاثی ان المراد بالسنة العلیة  
 ای اذا عمل الصحابة عملاً لم يقل لنا فيه سنة عن  
 الرسول لا موافقته ولا مخالفته فانا نعد هذا كسنة ایعنی  
 صنی اللہ علیہ وسلم، و تقتدی به من فیہ - و على هذا يكون  
 قوله فيما بعد: «فقولهم معتبر و حرام مقتدی بنه» - الار  
 بالقول القول التکلیفی كما اذ اسر آئیا الصحابی فی الج  
 مثلًا يکبر او يلی فی مکان مخصوص، وليس المراد القول  
 بمعنى الرأی والاجتہاد - والأشهر دالمحب بالعدالة فی  
 الدلیل الاول والاہر باتباع سننه من الدلیل اثاثی لا  
 یفید ان ذالک فی الاجتہاد والرأی، اهدرج به ص ۲۷  
 ج ۴ پہلی اور درسری دلیل سے مرتب یہ ثابت ہوتا ہے کہ مراد است  
 سے عمل سنست ہے، یعنی جب صحابہ کوئی ایسا عمل کریں جس میں حصہ کی  
 کوئی سنست موافق یا مخالف منقول نہ ہو تو ایسے عمل کو ہم حصہ کی سنست  
 کی طرح سمجھ کر اس کی پیروی کریں گے۔ اوسی عمل میں صحابہ کرام کی  
 افتدا بھی کریں گے۔

اس بنا پر صنف نے بعد میں جو یہ کہا ہے کہ «صحابہ کا قول معتبر و  
 ان کا عمل قابلِ اقتداء ہے» اس میں قول سے مراد تکلیفی ہو گا دیکھنے وہ  
 شرعی حکم جس کے وہ مختلف بناءتے ہجئے ہیں، مثلاً صحابی کو ہم جمع کے  
 موقع پر دعیی کردہ خاص مقامات میں تکبیر اور تلبیہ کہتے ہیں۔

دتوس میں ہم اس کا اتباع کریں گے، اور قول سے مراد ان کا ذاتی قول  
اور اجتہادی راستے نہیں ہے۔ ورنہ دلیلِ اول میں صرف عدالت کے  
ساتھ ان کی طرح کی گئی ہے اور دلیلِ ثانی میں ان کی صفت کے اتباع  
کا حکم کیا گیا ہے۔ اور یہ دونوں یا تین ذاتی راستے اور اجتہادی قول کی  
وجہت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں ॥

اس تنقید کا حاصل یہ ہے کہ محلِ نزاع صحابہؓ کے ذاتی اقوال اور اجتہادی  
آراء میں نہ کروہ اقوال جو تکلیفی احکام شرع سے متعلق ہوئی، جن کے وہ مکلف  
بناستے گئے ہوں اور انتہائی حکم کے لیے وہ اقوال آنے سے صادر ہو گئے ہوں اور  
دلیلِ اول میں صرف ان کو افضل اور «خیر امت» کہا گیا ہے اور دلیلِ ثانی میں ان کی  
صفت کے اتباع کا حکم کیا گیا ہے۔ اور ان دونوں باتوں سے ثابت نہیں ہو سکتا  
کہ ان کے ذاتی اقوال اور اجتہادی آراء وجہت اور واجب العمل میں ہر سکتم ہے کہ  
دلیلِ ثانی میں ذکر شدہ صفت سے ان کے وہ فیصلے مراد ہوں جن پر ان کا اجماع ہو  
چکا ہونہ کر ذاتی اقوال اور اجتہادی آرلو۔ اس طرح دونوں دلیلوں سے صرف  
یہ ثابت ہو گا کہ ان کا اجماع وجہت ہے۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں اور نہ یہ بات  
عملِ نزاع ہے۔

دلیلِ اول اور ثانی کی طرح تیسرا اور چوتھا دلیل پر بھی شایح «الرافعات»  
عبداللہ دراز دیا طی نے تنقید فرمائی ہے جو دریج ذیل ہے «امام شاطبیؓ نے دلیل  
ثابت کے اخیر میں فرمایا تھا: انہم صاحبِ واجب متابعتهم و تقليدهم «صحابةؓ  
کرام کے ساتھ خدام امت کی انتہائی محبت اور غیر معمولی احترام اور تعظیم کا یہی

تیجہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں پر ان کی متابعت اور تقدید واجب ہو۔ اس پر شائع موصوفت لکھتے ہیں:

هذا هوا المطلوب ولكن لا يسلم لزومه لما قبله و  
يعارضه ايضاً انهم طالما خالغون في الامور والاجماع  
التي هي موضوع الكلام ولذا لا يلزم فالمعول عليه ان  
مذهب الصحابة ليس بوجبة على غير الصحابة كما انه ليس  
وجبة على الصحابة بالاتفاق فان كان عرض المسألة وجوب  
الأخذ برأتهم التي أتفقا عليها فلذا لا يلزم مالانزعاج  
فيه لانه اهم انواع الاجماع وان كان العرض ماجرى  
العمل عليه في عهدهم وان لم يتحققوا عليه فهو لا يلزم  
بدليل شرعى تقييد به المعتقد - اخر راجح مinct،

ایہ وجوب تقدید اگرچہ مطلوب ہے، لیکن تنظیر و احترام کے ساتھ  
اس کا لزوم قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس دلیل کے ساتھ یہ ای  
بھی معارض ہے کہ علماء امت نے اگرچہ ان کے اقوال کا اتباع بھی کیا  
ہے۔ مگر بہت سے امور اجتہادیہ میں جو یہاں موضوع بحث ہیں ان کے  
اختلاف بھی کیا ہے۔ اس پرے مختار قول یہ ہے کہ صحابی کا مذهب غیر  
صحابی پر بحث نہیں ہے جیسا کہ دوسرے صحابہ پر بالاتفاق بحث نہیں  
ہے۔ اب اگر مشکلہ کی عرض یہاں صحابہ کی اس صفت پر وجوب عمل ہو۔  
جس پر سب کا اتفاق ہو تو یہ موضوع بحث سے خارج ہے کیونکہ

اس میں زراع نہیں بلکہ یہ سنت احمد رع کے اقسام میں سے لیکے اہم قسم ہے۔  
اور اگر غرض وہ سنت ہو جس پر ان کے عہد میں عمل رہا ہو تو اگرچہ اس پر وہ  
متفق نہ ہوں، تو یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے جس کے ساتھ مجتہد کو مقید  
کیا جائے۔

اور چوتھی دلیل پر تنقید کرتے ہوئے شارح موصوف بحث ہے ہیں:

وَهُدًى الْدِلِيلُ الرَّابعُ كَالَاوَلِ ظَاهِرٌ فِي الْأَقْتَدِ اَعْرِي بِالْعَالَمِ  
وَأَقْوَالُهُمَا تَكْلِيفِيَّةٌ لَا إِلَارَاءٌ وَلَا مَذَاهِبٌ۔ (مودودی ص ۱۷)  
”یہ چوتھی دلیل بھی دلیل اول کی طرح ظاہر اس بات میں ہے کہ صحابہ  
کے اشعار اور تکلیفی اقوال کی آنکھاں کی جاسکتی ہے کہ نہ کہ اجتہادی آراء لو  
ان کے نزد اہب کی۔“

علت سے مانکریہ اور خابرہ نے یہ دھوئی کیا ہے کہ صحابہ کرام کے ذاتی اقوال اور اجتہادی  
فیصلے دوسری اقتدار کے حق میں مطلقاً جھٹت ہیں خواہ مدد بالتعلیم ہوں یا عقل کے  
امانہ اوسکے مادر ہوں۔ دونوں صورتوں میں اسی کی تنقید واجب ہے اور تنقید  
سے وہ بالآخر ہیں۔ اگرچہ اس دعوے کی یہ بیان شدہ دلائل پر تنقیدیں ہو چکی ہیں۔  
**امام شافعی کا رد**

اس کے بعد اب امام شافعی کے رد کر جیئے۔ ان سے اگرچہ اس بارے میں دو  
قول منقول ہیں مگر آخری قول جس کو امام موصوف نے ذریب کی حیثیت سے اختیار کی ہے  
یہ ہے کہ قول صحابی اصلاً جھٹ نہیں ہے۔ امام شافعی نے ”الرواقعات“ میں امام شافعی  
کے معتقد ملکا ہے کہ:

والمُنْقُولُ عَنْهُ فِي الْعِصَابَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ أَتُرْكُ الْمَحْدُثَ

لقول من لوعا صرت به بخفة - اه (رج همش)

وہ صفائی کے بارے میں الامم شافعیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے

کہ میں حدیث کو اس شخص کے قول کے مقابلہ میں کس طرح چھوڑ دیں گا کہ اگر

میں اس کا ہجھر مرتا تو دل سے اس کا مقابلہ کرتا ہو

احسات کے اصول فقہ کی کتابوں میں بھی امام شافعیؒ کا ذہب اسی طرح ذکر کیا

۱۰

وقال الشافعى في قوله المجد يد لا يعلو أحد صنفه أى لا يكفي

**قوله حجة وان كان فيما لا يدرك بالقياس ماليه ذهبت**

درام شافٹ کا آخری قول یہ ہے کہ صاحب پیسے کسی کی تقلید نہیں

کے جائے گی۔ یعنی ان کا قول صحیت نہیں ہے اگرچہ ان سائل میں ہر جو مذکور

باتھیاں نہ ہوں ماشاعرہ اور مفترزلہ کا بھی یہی ذہبہ ہے۔<sup>۲۷</sup>

اما مغزال رحمة اللہ علیہ نے المستصنی، جزء اول ص ۱۷۴ میں ”باب الاصل اثانی

من الاصول الموجة تقول الصحابي هم کے تحت بحث کرتے ہوئے پہلے یہ فرمایا ہے

کہ بعض کے نزدیک مذہب ممکنی حل الاملاق جلت ہے لیکن کے نزدیک غیر قیاسی  
مسئلہ میں جلت ہے مگر بعض کہتے ہیں کہ صرف اور بکرو خضری اللہ عنہما کا قول جلت ہے۔

اس کے بعد کہتے ہیں:

من الكل ياطل عندنا ثنان من يجوز عليه الفاطر والسمور

لحرثتبت عصمته فلاحیہ فی قولہ فکیفیت عیجم بقولہم مع جواز  
 المخطار و کیف تدابع عصمتہم من غیر حجۃ متواترۃ۔ و کیف  
 یتصور عصمة قوم یجوز علیہم الاختلاف و کیف یختلف  
 المعصومان کیف و قد اتفقت الصحابة علی جواز خلافة  
 الصحابة فلم یذكر ابو مکر و عذر علی من خالفهما بالاجتہاد  
 علی محل جمیع الدان یتبع اجتہاد نفسہ خاستفادہ اللہ لیل علی<sup>۱</sup>  
 العصمة و قوی الاختلاف بینہم و نصر یحدهم بجواز خلافتهم  
 فیہ ثالثۃ ادلۃ قاطعة۔ ام

منہماں سے نزدیک دوسرے صحابی کی محیت کے حق میں ایسے مکار احوال  
 باطل ہیں کیونکہ جس انسان کو غلطی اور سہولت حق ہونا ممکن ہو تو وہ جس کے  
 پیشے عصمت ثابت نہ ہو۔ اس کے قول میں کرتی محبت نہیں پس صحابہ کے  
 قول سے کیسے سند پڑی جاسکتی ہے؟ جبکہ ان سے خلاصہ کا صدود درجائز  
 ہے کسی محبت متواترہ کے بغیر ان کی عصمت کا دھوکہ کیسے کیا جاسکتا  
 ہے اور اس گروہ کو کیسے معصوم متصور کیا جاسکتا ہے جس میں اختلاف  
 واقع ہو۔ آخر دو صعصوروں کے ماہین کیسے اختلاف ممکن ہے؟ پرسہ  
 کچھ کیسے ممکن ہے جبکہ صحابہ نے خود صحابہ سے اختلاف کے جواز پر تفاہ  
 کیا ہے۔ اور ابو مکر و عذر نے اپنے خلاف اجتہاد کرنے والوں پر نکریں  
 کی تکمیل اجتہادی مسائل میں ہر مجتہد پر اس کے اپنے اجتہاد کی پیروی لازم  
 کی ہے۔ پس صحابہ کی معصومیت پر دلیل کافی نہیں، اور ان کے درمیان

اختلاف کا پایا جانا، اور ان کا خود ان سے اختلاف کرنے کے جواز پر  
تصریح کرنا، یہ نہیں باتیں ہمارے مذکور کے حق میں دلیل قاطع کی حیثیت  
و رکھتی ہیں۔

اس کے بعد امام غزالیؒ نے امام شافعیؒ کا جدید اور آخری مذکور چھے امام شافعیؒ  
نے فرمبے کی حیثیت سے اختیار کیا ہے۔ اس طرح تعلیم کی ہے:- لا يعدل العالم  
صحابیا کما لا يعدل عالما آخر، عالم کنسی صحابیؒ کی تقلید نہیں کر سے گا جس طرح وہ  
کسی دوسرے عالم کی تقلید نہیں کر سکتا۔  
پھر امام غزالیؒ فرماتے ہیں:-

و هو الصحيح المختار عندنا اذكى ماذل على تحريم تقليد  
العالم للعالم لا يفرق فيه بين الصحابي وغيره۔ ام

ویہی قول ہمارے نزدیک مختار اور قابل ترجیح ہے کیونکہ جن دو اہل  
کی بنا پر ایک عالم کے بیٹے دوسرے عالم کی تقلید حرام ہے۔ ان کے عاد  
سے صحابی اور غیر صحابی میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے بعد امام غزالیؒ رحمۃ اللہ علیہ نے مالکیۃ، حنبلیۃ اور دوسرے ان  
صحابیکے دو اہل کا ذکر کیا ہے جو فضائل صحابہ پر مشتمل آیات و احادیث سے  
تقلید صحابہ کو جائز یا لازم سمجھتے ہیں۔ اور سبکے جواب میں فرمایا ہے:-  
قُدْنَا هذَا كَلَه شَاءَ يُوجِبْ حَسْنَ الاعْتِقادَ فِي عَلِمَهُمْ  
وَدِينِهِمْ وَحَلَّهُمْ عَنْ دِلْلَهِ تَعْلَمُوا لَا يُوجِبْ تَقْلِيدَهُمْ لَا جَوَازًا  
وَلَا وِجْوَابًا۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام شاہی ہے جس سے صحابہ کرام کے عمل، ان کے دین اور اندھے کے ہاں ان کے مرتبے کے بارے میں حسن احتساب لازم آتا ہے۔ لیکن اس سے ان کی تقدیر کا نوجوان لازم آتا ہے اور نہ درجوب۔ پھر اپنای چوتاب ان الفاظ پر حتم کرتے ہیں: کل ذلک شاہد لا یوجب الامتداد اصلًا۔ یہ سب تعریف اور مقتضیت ہے اس سے اقتدار باکل لازم نہیں ہوتی۔

امام غزالیؒ کی یہ تصریحات صاف بتکار ہی ہیں کہ شافعیہ کے زدیک نباد قول خوار تقدید صحافی سے سے جائز ہی نہیں، چہر جائیکہ وہ صحابیٰ یا تنقید سے بالآخر رہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ مذکور صرف امام غزالیؒ کا اختار نہیں بلکہ دوسرے مختصین شافعیہ نے بھی اس کو اختار کیا ہے اور صحابیٰ کی تقدیر کو مطلقاً منوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ آدمیؒ نے اپنی مشہور تصنیف "الحاکم فی اصول الاحکام" جزو ۲، "ذہب الصواب" کے آغازِ بحث میں اس مذکور میں وہ مشہور اختلاف نقل کیا ہے جو علامہ کے مابین ابتداء سے چلا آیا ہے کہ اشاعر، متصول، امام شافعیٰ اور امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے مطابق اور امام ابو الحسن کرخی حقی کے زدیک قول صحابیٰ غیر صحابیٰ کے لیے صحبت نہیں ہے۔ اور بعض کے زدیک خلاف قیاس قول صحبت ہے اور بعض لوگ صحابہ میں تخصیص کر کے کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کا قول صحبت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں۔ والختار انہ نیں مجھہ مطلقاً قول عماریہ ہے کہ قول صحابیٰ ہرگز صحبت نہیں ہے۔

آگے چل کر علامہ موصود، الشتر اثنا نیہ کے زیر عنوان یہ سوال اٹھاتے ہیں

کے وجہ پر ثابت ہو گیا کہ مذہب صحابیٰ جماعت اور واجب الاتباع نہیں ہے، تو کیا غیر صحابی کے لیے اس کی تقید جائز بھی ہے یا کہ نہیں؟ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں: سو لخنوار استناد ذاللک مطلقاً یہ قابل ترجیح اور مختار مسلک یہ ہے کہ تابعین و مجتہدین کے لیے صحابیٰ کی تقید مطلقاً منوع ہے۔

اوپر کے حوالوں سے امام شافعیٰ حکما اپنا مذہب اور تحقیقین شواضع کا اختیار کرو  
مسلک در باب تقید صحابیٰ یہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک قول صحابیٰ کی تقید غیر صحابیٰ  
کے لیے مذہب اچھی ہے اور نہ چائز۔ کیونکہ قول صحابیٰ ان کے نزدیک سرے سے جماعت ہی  
نہیں ہے۔ لہذا اس پر ان کے نزدیک یہ حکم ہے: پس یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک  
صحابیٰ معیارِ حق نہیں ہیں۔ نہ وہ تقید سے بالاتر ہیں۔

### امام شوکانیؒ کی رائے

بعینۃ یہی رائے امام شوکانیؒ کی بھی ہے۔ انہوں نے یہی حق یہ قرار دیا ہے کہ  
قول صحابیٰ ہرگز جماعت نہیں ہے۔ نہ وہ تقید سے بالاتر ہیں۔ بلکہ دراصل معیارِ حق اور بر  
قسم کی تقید سے بالاتر صرف خدا کی کتاب اور حضورؐ کی سنت صحیحہ ہے۔ چنانچہ ارشاد  
الغول الفصل السابع فی الاستدلال، الجمیث الخامس فی قول الصحابیؒ میں انہوں نے  
اپنی تحقیق ان القائلین میں پیش کی ہے:

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِجُنْحَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِحَمَانَهُ لِمَا يَعِثُ إِلَى  
هَذَا الْأَمْمَةِ إِلَّا بِتِبْيَانِ مُحَمَّدٍ أَصْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ  
لَنَا الْأَرْسُولُ وَاحِدٌ وَكِتَابٌ وَاحِدٌ - وَجَمِيعُ الْأَمْمَةِ مَأْمُورٌ  
بِاتِّبَاعِ كِتَابِهِ وَسَنَّتِهِ نَبِيِّهِ وَلَا فَرْقٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ

فِي ذَلِكَ فَكَلِمُهُمْ مَكْلُوفُونَ بِالْكَالِيفِ الشَّرِيكَةِ وَبِإِتَابَةِ  
الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ فَمَنْ قَالَ أَنَّهَا تَغْوِيَةُ الْحَجَّةِ فِي دِينِ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ كِتَابٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَنَةُ رَسُولِهِ وَمَا  
يُرِجِعُ إِلَيْهَا فَقْدٌ قَالَ فِي دِينِ اللَّهِ بِهَا لَا يُشْبِتُ۔

”حق یہ ہے کہ قول صحابیؓ حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی طرف صرف ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوٹ فرمایا ہے، ہمارے بیچے میں ایک ہی رسول اور ایک ہی کتاب ہے۔ تمام امت اللہ کی کتاب اور اس کے نبیؓ کی سنت کے اتباع پر ما مر ہے۔ اور اس محدثے میں صحابہؓ اور غیر صحابہؓ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ سب کے رب تعالیٰ کے شریعہ اور کتاب و سنت کے اتباع کے مخلف ہیں۔ جس شخص نے پوچھا کہ: ”اللہ کے دین میں کتاب و سنت یا جو کچھ ابی دھنوں کی طرف راجح ہوتا ہے اس کے سوا کسی اور چیز سے بھی حجت قائم ہو سکتی ہے“ تو اس نے دین کے محدثے میں ایک ایسی بات کہی جو دین میں ثابت نہیں ہے۔“

### حُقُوقِيَّةُ الْمَسْكَنِ

اوپر مالکیہؓ اور شافعیہؓ کے جو دو مذاہب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے مقدمہ لذکر مسکب میں انتہائی افراد، اور موخر الفذر مذہب میں مکمل تفسیری پائی جاتی ہے۔ ذیل میں احثاف کامسک بیان کیا جاتا ہے جو اس محدثے میں انتہائی مختدل مسکب ہے۔ درہ نہ تو قول صحابیؓ کو وہ درجہ دیتے ہیں جو مالکیہؓ نے اس کو دیا ہے اور نہ وہ اس سے اس

طرح نظر انداز کرتے ہیں جس طرح کہ شافعیہ نے نظر انداز کیا ہے بلکہ وہ قول صحابی میں تضمیم کرتے ہیں۔ ایک قسم وہ قول ہے جو مخالفت قیاس مسائل سے تعلق رکھتا ہے اس دوسری قسم وہ قول ہے جو موافق قیاس مسائل سے متعلق ہو۔ مخالفت قیاس قول کو وہ اس بنا پر جبکہ اور واجب التقید سمجھتے ہیں۔ اور قیاس مجتہد پر اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا امکان قری پایا جاتا ہے کہ وہ صاحب صحیح مصل ابتد علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہو۔ پس یہ قول فی الحقيقةت صحابی کا قول نہیں بلکہ حنفیہ حنفیہ کا قول سمجھا جائے گا۔ اور قول صحابی ہونے کی بنا پر وہ جبکہ اور واجب التقید نہیں بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ قول رسول ہونے کا زیادہ احتمال رکھتا ہے۔ رہا موافق قیاس قول صحابی۔ تو اس میں حنفیہ کے وہ قول ہیں، ایک ابوسعید بر رجحی کا ہے اور دوسرا ابوالحسن کرنی کا۔ ابوسعید بر رجحی کہ جاتے ہیں کہ یہ قول بھی پہلے قول کی طرح محبت اور واجب التقید ہے۔ اور قیاس مجتہد پر اس کو لامحالہ ترجیح حاصل ہوگی۔ اور امام ابوالحسن کرنی کے ذریم یہ قول محبت اور واجب التقید نہیں ہے، مذکور قیاس مجتہد پر اس سے ترجیح اور جلدی جائے گی۔ بلکہ کتاب و سنت کے معیار پر جانچا اور پر کھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر موافق تکلا تو قبل کیا جائے گا۔ اور مخالفت ثابت ہوا تو پھر دریا جائے گا۔

ابوسعید بر رجحی جو قول صحابی کو مالکیہ کی طرح ہر حالت میں محبت اور واجب التقید سمجھتے ہیں وہ اپنے اس منہج کے لیے دلائل یہ بیان کرتے ہیں کہ: «خلافت قیاس قول صحابی کی حیثیت ایک مرفعہ حدیث کی ہے کیونکہ اجتہاد کی گنجائش اس میں ہے نہیں۔ اور دین کے معاملے میں صحابہ کرام کذب بیانی اور بھوٹ کے ساتھ متہم ہو نہیں سکتے۔ تو لا محالہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حنفیہ سے یہ قول من کروایت

کیا گی ہو گا۔ اس بنا پر اس کا حکم حدیثِ مرفوع کا ہو گا۔ اور دوسرے مجتہدین کے قیام تا پر اسے ترجیح حاصل ہو گی۔ اور دوسری صورت میں یعنی موافق قیاس ہونے کی صورت میں اگرچہ قول صحابی ایک قیاس کی جیشیت رکھتا ہے۔ مگر تنقید سے بالاتر اور قیامت مجتہدین سے زیادہ راجح اور مجتہد غیر مجتہد سب کے لیے واجب التقلید اس بنا پر ہو گا کہ صحابہؓ نے موارد نصوص اور مواضع و مواقع نزول کا عین مشاہدہ کیا ہے اور حضورؐ کے فیض صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، احکامِ دین کے علم رکھنے میں سب سے آگے بڑھے ہیں اور خیرِ الکروان میں ہونے کا شرط بھی انہیں حاصل ہے۔ اس لیے ان کے اجتہادی اقوال بھی دوسرے تمام مجتہدین کے اجتہادی فیصلوں اور قیامت سے زیادہ قربی صواب ہوں گے۔ لہذا پوری امت پران کی پیروی لازم ہو گی۔ اور ہر قسم کی تنقید سے بالاتر بھی ہوں گے۔

ابوالحسنؑ کھی کہتے ہیں کہ قول صحابی جب فیافت قیاس ہو تو وہ اس بنا پر صحت اور واجب التقلید ہے کہ اس میں احتمال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضورؐ سے سنائی ہو۔ دوسرایہ کہ صحابیؓ نے از خود جھوٹ کھڑا ہو۔ آخری احتمال صحابہؓ کرام کے بند مقام کے پیش نظر یقینی طور پر متفق ہے تو لا محالہ اس کا یہ قول مدعی پر عمل کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قول حضورؐ سے روایت کیا گیا ہے کیونکہ یہ قول موافق قیاس اور مدرک بالعقل اور مقول المعنی ہو تو اس کی جیشیت اجتہاد اور قیاس سے زیادہ نہیں ہے اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ مجتہد لا محالہ اس کی تنقید کرے۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں اپنے اجتہاد پر بھی عمل کر سکتا ہے، اور جیسی طرح ایک مجتہد کو اس کے مقابلے میں اپنے اجتہاد پر عمل کرنا جائز ہے، مقدم بھی اس کے مقابلہ میں

و درسے مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر عالی اس صورت میں قول صحابی محل تعمید ہو گلتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے اجتہاد اسٹ میں درسے مجتہدین کی طرح مسوب اور خطا و دفعوں کا احتمال موجود ہے۔ لیل، اشست و الجماعت کے نزدیک کل مجتہد بخشی و بیصیب کے عام حکم میں صحابی اور غیر صحابی میں کوئی فرق تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ اور جب اس میں خطا کا احتمال اور غلط ہونے کا امکان پایا جاتا ہے تو لا حالت کتاب و سنت کے معیار پر اُسے جانچا اور پر کھا جائے گا۔ اور قابل قبل معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تقلید کی جائے گی اور قابل ترک ثابت ہونے کی صورت میں اُسے چھوڑ جائے گا۔

لیکن محل نزلع دفعوں گرد ہوں کے مابین وہ قول ہے جو عام صحابہ میں مشہود ہوا ہو اور پھر اس پر خاموشی اختیار نہ کی گئی ہو اور نہ صراحتہ اُسے تسلیم کی گیا ہو سو نہ پھر اس کی حیثیت ایک اجماع کی ہو گی اور بالاتفاق تعمید سے بالاتر اور تمام امت کے لیے جبت اور واجب الاطاعت ہو گا۔ نیز صحابی کے اس قول سے دوسرے صحابہ نے مخالفت بھی صراحتہ نہ کی ہو ورنہ پھر کسی خاص قول کی تعمید ضروری نہ ہو گی بلکہ کتاب و سنت کے دلائل سے ان مختلف اقوال میں سے کسی ایک کو دوسرے کے مقابلہ میں اختیار کیا جائے گا۔ اور اس طرح تعمید اور جانچ پر مال کر کے راجح کو معمول اور مرجوح کو متروک العمل بنایا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک قسم کی تعمید ہے۔ اس کے ساتھ اس قول کے متعلق یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول کا مخالفت ہے ورنہ پھر بالاتفاق قابل عمل نہیں رہتے گا، کیونکہ احادیث کے نزدیک بوقول صحابی جبت ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کتاب و سنت کے

متلبے میں بھی وہ حجت اور واجب التقلید ہے بلکہ اس صورت میں وہ بالاتفاق  
حجت نہیں ہے۔ اسی کو شیخ ابن ہمام نے فتح القدر باب الجموعہ میں کلام بحالت  
خطیب پر بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اسکے تصریحات الائمه کے تحت اس کا  
ذکر کیا جاسوئے گا۔ ذیل میں تفصیل بالا کے پیشے حضنی علماء اصول کے اقوال ملاحظہ  
کیے جائیں۔

## علماء اصول فقہ کی تصریحات

قال ابو سعید البردی تعلیم الصحابی واجب حتى  
پترك به القياس لاحتمال السماع والتوقیف والفضل ما بهم  
فی نفس الرأی بمشاهدة احوال التزیل ومعرفة اسبابه  
وهذا اختيار فخر الاسلام والمصنف وغيرهم وهو مذهب  
مالك واحمد والشافعی فی قوله القدیم فقال ابوالحسن  
الكرخي لا يحب تعلیم الصحابی الا فيما لا يدرك بالرأی و  
القياس والیہ مال القاضی ابو زید وغيرہ۔ وقال الشافعی  
فی قوله الجدید لا يقلد احد صنفه وهذا الخلاف فی كل ما  
ثبت عنهم من غير اختلاف بينهم ومن غير ان ثبت عنهم انه  
بلغ غير قائله فسكت عند سماعه مسلم ما له حق لتو شاع  
الحكم فسکتوا مسلمین يحب تعلیم اجمعیاً۔ اد

(صحابی والمولوی)

و ابوزید بردمی نے کہا ہے کہ صحابی کی تعلیم واجب ہے۔ اور اس کے

مقابلے میں قیاس قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ قول صحابی میں یہ احتمال ہے کہ  
 حضور سے اس نے سنا ہو۔ نیز ان کی اجتہادی راستے بھی زیادہ صدیق  
 اس بنابر پر ہے کہ انہوں نے رسول قرآن کے احوال کا پیش خود معاشر کیا  
 ہے۔ اور اس بابت رسول بھی انہیں اچھی طرح معلوم ہی۔ یہ مذہب فخرِ اسلام  
 اور صفت وغیرہم کا اختار ہے۔ امام مالک، امام احمد اور قول قدیم  
 کے مطابق امام شافعی کا بھی مذہب یہی ہے۔ اور ابو الحسنؒ کرنی کہتے ہیں کہ  
 صحابی کی تقدید بجز مخالفت قیاس مسائل کے دوسرے مرافق قیاس مسائل  
 میں واجب نہیں ہے۔ اسی قول کی طرف قاضی امام ابو زید وغیرہم مالک  
 ہوتے ہیں۔

امام شافعیؒ کا مذہب قولِ حدید کے مطابق یہ ہے کہ صحابہ میں سے  
 کسی کی تقدید جائز نہیں ہے۔ پیر خلاف ان مسائل میں ہے جن میں صحابی کا  
 قول موجود ہو۔ اور کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ نیز بھی معلوم نہ ہو  
 کہ دوسرے صحابہؓ کیہ قول پنچاہے اور انہوں نے اس پر تسلیم کی صورت  
 میں خاموشی اختیار کی ہے۔ درستہ اگر صحابی کا یہ قول عام طور پر مشہور ہو تو  
 اور دوسروں نے تسلیم کی صورت میں اسی پر خاموشی اختیار کی ہو تو باقاعدہ  
 اس کی تقدید واجب ہوگی۔

علمائے اصول میں سے صدر الشعراء نے بھی اپنی مشہور تصنیف "التفیح" میں یہی  
 پچھہ بالتصريح ذکر کیا ہے۔ اور تفصیل کے ماتحت مندرجہ بالآخرین مذہب کی صورتی  
 تصریح کی ہے جو اور پسکی عبارتوں میں موجود ہے۔

ذیل میں التوضیح سے یہ مضمون پیش کیا جاتا ہے، ملاحظہ فرمایا جائے:

تَعْلِيْدُ الصَّحَابَى راجِب اجْمَاعًا فِيمَا شَاعَ بِدِيْنِهِمْ فَسَكَتُوا  
مُسْلِمِينَ لَهُ وَلَا يُحِبُّ اجْمَاعًا فِيمَا ثَبَتَ الْخَلَافَةُ بَيْنَهُمْ  
وَأَخْتَلَفُ فِي غَيْرِهِمَا وَهُوَ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَقْوَاقَهُمْ وَلَا أَنْهَلُهُمْ  
فَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُحِبُّ لَانَهُ لِمَا لَمْ يَرَوْهُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى السَّمَاعِ  
وَفِي الْاجْتِمَادِ هُمْ رَسَائِلُ الْمُجْتَمِدِينَ سَوَاءِ لِعُصُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى  
نَهَا عَتْبُرُوا يَا أَوْلَى الْأَبْصَارِ -

ولأن كل مجتهد يخطئ ويفسّر عند أهل السنة وعند  
ابي سعيد البدراني يحب لقوله عليه السلام اصحابي  
كان لهم بهمراقتهم اهتديتكم - ولأن أكثر أقوالهم  
مسروق من حسنة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم  
اصوب لأنهم شاهدوا صور النصوص ولقد مهر  
في المؤمن ببركة صحة النبي صلى الله عليه وسلم وكوئهم  
في خير القرون وعند أكثره يحب فيما لا يدرك بالقياس  
لأنه لا وجيه له إلا السمع أو الكذب والثاني منتف و  
لا يحب فيما يدرك بالرأي لأن القول بالرأي عنهم مشهور  
والمجتهد يخطئ ويفسّر - فالافتداء في بعض المواقف بإن  
سلك مسلكهم في الاجتہاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا  
افتداء ایضاً (التوضیح)

”صحابی کی تقلید اس قول میں اجھا عاداً وجہ ہے جو صحابہ کے ماہین شہر  
ہو چکا ہوا تو تسلیم کرتے ہوتے انہوں نے اس پر حاموشی اختیار کی ہوا تو  
اس قول میں اجھا عاداً تقلید واجب نہیں ہے جو صحابہ کے ماہین مختلف فیہ  
ہوا اور جس قول پان کا اتفاق یا اختلاف معلوم نہ ہوا اس میں اختلاف  
ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک اس کی تقلید مطلقاً واجب نہیں ہے کیونکہ  
جبکہ اس نے اپنے قول کی نسبت حضورؐ کی طرف نہ کی تو سلسلہ من الرسول  
پر اس کو نہیں محل کیا جاسکتا اور اجتہادی مسائل میں صحابہ اور باقی مجتہدین  
سب برابر ہیں کیونکہ آیت فاعنْتَبُرُوا... الخ دو فوں کو شامل ہے۔  
تقلید صحابی کے عدم وجوب کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل السنۃ کے  
نزدیک ہر مجتہد کے اجتہاد میں خلاص صواب دو فوں کا احتمال بھی ہے۔  
اور ابوسعید برڈعی کے نزدیک تقلید صحابی واجب ہے۔ حضورؐ نے فرمایا  
”میرے اصحاب تاروں کے مانند ہیں، تم جس کی اعتماد کرو گے ہدایت پاوے گے“  
اس کے علاوہ ان کے اکثر اقوال حضورؐ سے منسنت ہوتے ہیں۔ اور  
اجتہادی اقوال میں بھی ان کی مانستے زیارت صواب اس بنابرہ ہو گی کہ انہوں  
نے تصویص کے محل درود کا معایسہ کیا ہے۔ دوسرے وہ حضورؐ کی صحبت کی  
برکت سے دین کے مسائل میں دو فوں سے آگے بھی ہیں۔ تیرے وہ خیر اقوال  
میں بھی تھے۔

امام کرخیؓ کے نزدیک ان مسائل میں تقلید صحابی واجب ہے جو قیاس  
کے ساتھ موافق نہ ہوں کیونکہ ان میں قول صحابی کے لیے کوئی وجہ نہیں بجز

ساعِ نکے یا پھر جھوٹ کے، اور جھوٹ تو ممکن نہیں لہذا یہ قول مسحون ہی ہوگا۔

اور ان مسائل میں یہ تقلید واجب نہیں جو عقل اور قیاس کے موافق ہوں۔

لیکن کہ قول بالائے بھی ان سے مشہور ہے اور مجتہد کبھی بصیرت ہوتا ہے اور کبھی مختلط۔ اور صحابہ کی انتدار بعض صورتوں میں اس طریقہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم ان کی طرح اجتہادی مسائل میں اجتہاد کریں۔ یہ بھی ان کی انتدا ہے۔

### امام شافعی کا نذر ہب

صاحب توضیح کی اس عبارت سے تقلید صحابی کے متعلق تین نذر ہب معلوم ہو گئے۔ ایک امام شافعی کا نذر ہب ہے کہ صحابی کی تقلید اصلًا عزوری نہیں ہے خواہ ان مسائل میں ہو جو قیاس اور عقل کے موافق ہوں۔ یا ان مسائل میں ہو جو عقل اور قیاس کے خلاف ہوں۔ آخری صورت میں اگرچہ قول صحابی میں یہ احتمال ضرور ہے کہ وہ حضور سے کرنے سُنا ہوا ارشاد ہو۔ مگر چونکہ صحابی شے حضور کی طرف اس کی نسبت صراحت نہیں کی ہے۔ اس لیے ہم اسے حدیث مر nouع کا درجہ نہیں دے سکتے اور پہلی صورت میں تو بظاہر یہی معلوم ہو گا کہ یہ صحابی کا اپنا اجتہادی فتویٰ ہے اور اجتہادیات میں صحابی اور دوسرے مجتہدین سب برابر ہیں۔ اہل السنّت والجماعۃ کے مسلم فانوں المjtہد قد يخلى وقد يصيغ کی رو سے ہر ایک کے اجتہاد میں خطاء اور صوابہ دونوں کا احتمال کیساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر صحابی کے اس قول اور فتویٰ کی حیثیت ایک قیاس سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا دوسرے مجتہد پر يقول اصلًا حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے اجتہاد پر بھی عمل کر سکتا ہے۔

ابو سعید بر دعیٰ کی راستے میں بہ چند درجہ صحابی کی تقلید ہر حالت میں واجب

اور اس کا اتباع ضروری ہے۔ اور کسی قسم کی تنقید اس پر نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ حضور نے اول تو ساری امت کے سامنے صحابہ کرام کو ایک پیشو اور معتقد اگلی حیثیت سے پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ پھر سے صحابہ تواروں کے ماند ہیں جس نے ان کی اقتدا کی وہ براحت پائے گا ॥ اور پیشو امتیت کا لازمی تھا اتنا چیز ہے کہ پوری امت ان کو دین کے بارے میں اپنا پیشو اور معتقد تشییم کرتے ہوئے ان کا اتباع کرے نکہ ان کو یا ان کے اقوال کو اپنی تنقیدوں کے لیے نشانہ بناتے۔

ثانیاً ان کے اکثر اقوال حضور سے سنبھلے ہوتے ہیں تو گو انہوں نے اپنے اقوال کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صراحت نہ کی ہو۔ مگر اغلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ شاہراہ کا۔ اس لیے ان کے اقوال کو مرفع حدیث کا درجہ دیا جائے گا۔ اور تمام امت کے لیے یہ اقوال حدیث مرفع کی طرح واجب الاتباع قرار پائیں گے۔  
بافرض اگر یہ ان کا اپنا اجتہادی فتوی ہو۔ تو پھر بھی چونکہ وہ موافق فصوص اور اسابیبِ نزول سے ابھی طرح واقع ہیں اور حکیم خود ان کا معاینہ کر جائے ہیں۔ نیز حضور کی فیصل صحبت سے بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ دین کے احکام لو علم مسائل میں بھی سب سے مقدم ہیں اور خیر القرون میں ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے۔  
اس لیے ان کے اجتہادی اقوال اور فتاوی دوسرے تمام مجتہدوں کے اجتہادی فیصلوں کے مقابلے میں زیادہ صواب اور مبنی برحق ہوں گے تو ان کی تعلیید اور پیروی بھی سب کے لیے ضروری ہوگی۔

اماں کر خی گا مذہب پہ بیان کیا گیا ہے کہ قول صحابی نہ مطلقًا واجب التعلیید اور صحبت ہے۔ اور نہ علی الاطلاق اس کی مخالفت جائز ہے۔ بلکہ مخالفت قیاس

حکم میں وہ جگت احمد واجب تعلیم ہے۔ کیونکہ عقل اس میں وہی احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دو حصوں سے مناگی ہو۔ دوسری یہ کہ صحابی نے جھوٹ بولنا ہر اخزی احتمال یقیناً مستحق ہے تو پہلا احتمال متین ہو گا۔ اس لیے اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دیا جاتے گا۔

اور موافق قیاس حکم میں قول صحابی کی چیزیت قیاس سے زائد نہیں ہے اس لیے مجتبیہ پر اس کی تعلیم واجب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے مقابلے میں اپنے اجتہاد پر عمل کرنے بھی اس کے لیے باائز ہے۔ رہا حضور کا یہ ارشاد کہ اصحاب کا الجم تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی ان کی ایک قسم کی اقتداء ہے کہ ہم ان کے اتوال کے اتباع کے بجائے اُس مسئلے میں ان کی طرح اجتہاد کریں۔ کیونکہ ان کا طریقہ اجتہادی سائل میں یہ رہا ہے کہ وہ ان میں اجتہاد کیا کرتے تھے اور اپنے لپٹے اجتہادات پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی ان کی طرح اس اجتہادی مسئلہ میں اجتہاد کر کے اپنے اجتہاد پر عمل کریں تو یہ بھی ایک قسم کا اتباع ہو گا اور ان کی اقتداء اس سے بھی ہو جائے گی۔

صاحب ترمذی کی مندرجہ بالا عبارت سے محل نزاع بھی متین طور پر معلوم ہو گیا۔ وہ یہ کہ یہ نزاع اسی صورت میں ہے جبکہ صحابی کے اس فتویٰ سے دوسرے صحابہ نے مطلع ہو کر سکوت اور خاموشی اختیار نہیں کی ہو۔ ورنہ پھر اس کی چیزیت ایک اجماع کی ہو گی جس کی مخالفت ہرگز جائز نہ ہوگی۔ نہ اس پر کسی کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہو گا۔ اسی طرح صحابی کے اس فتویٰ سے دوسرے صحابہ نے اخلاف بھی نہ کیا ہو۔ ورنہ پھر کسی غاص قول کی تعلیم اور اتباع ضروری نہیں ہے بلکہ دو

مختلف قولوں میں سے کسی ایک قول کو دلیل سے درستے قول کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے گی۔ یا پھر ہر ایک قول کی تقدیر جائز ہو گی جو تہذیب حسن کی چاہے تقدیم کر سکتا ہے۔

### حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی تحقیق

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی جو تحقیق پیش کی ہے وہ بھی درستے علماء اصول کی تحقیق سے مختلف نہیں ہے زیل میں اُسے بھی ملاحظہ کیا جاتے۔ مولانا مرحوم ”مقدور فتح المکہم“ شرح صحیح سسلمؓ میں ”قول الصحابة والتابعین“ کے زیر عنوان صفحہ میں رقمطراز ہے:-

قال ابو سعید البردی تقدیم الصحابی واجب یترك به  
القياس وهو من هب ما لاش واحمد بن حنبل في احدى  
الرواياتين والشافعی في قوله القديم۔ و قال ابو الحسن  
الکرخی وجماعته من اصحابنا لا يحب تقدیمه الا فیجا لا  
یدرك بالرأی والقياس والیه میں القاضی الامام ابی  
زید علی ما یشیر الیہ تعریرہ فی التقویم و قال الشافعی  
فی قوله الجدید لا یقتدر احد منہما لایکون قوله  
جحة وان كان فيما لا یدرك بالقياس والیه ذہبت  
الاشاعرة والمعترضة۔

و قد اختلف عمل اصحابنا الخنفیہ فی هذا الباب  
فلم یستقر من ہبہم فی هذه المسئلة ولهم شیفت عزم

روایت ظاهر تأثیرها و مع ذالک فقد اتفق عمل اصحابها  
 بتقلید الصحابی فيما لا يدرك بالقياس مثل المقادير  
 الشرعية التي لا تعقل بالرأی حملًا لقوله على السماح  
 من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنّه لا يظن بهم  
 المجازفة في القول ولا يجوز ان يحمل قولهم على الكذب  
 فإن طريق الدين من النصوص إنما استدل علينا برواياتهم  
 وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول يفسقون فيه  
 ذالک يبطل روايتهم فلم يبق الا الرأی والسماع من  
 ينزل عليه الوجع ولا مدخل للرأی في هذه الباب فتعين  
 السماح وصار فتواه مطلقة كروايتها عن رسول الله  
 صلى الله عليه وسلم كان حجة لاثبات الحكم به فكذا اذا  
 اتفق فيه ولا طريق لفتواه الا السماح ...

ابو سعید برودی کہتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اور قیاس  
 اس کے مقابلے میں قابل عمل نہیں ہے۔ اور یہی مذہب ہے امام مالک کا  
 اور ایک روایت کے بنزجوب امام احمد کا۔ اور قول قدیم کے مطابق امام  
 شافعی کا۔ اس کے پر خلاف ابو الحسن کرخی اور اخناف کی ایک جماعت  
 نے کہا ہے کہ صحابی کی تقلید واجب نہیں مگر اس حکم میں واجب ہو گی  
 جو عقل اور قیاس کے موافق نہ ہو۔ قاضی امام ابو زید کا رجحان بھی اسی کی  
 طرف ہے۔ چنانچہ تعویم میں ان کی طرف اس کی تقریر اشارہ کر رہی ہے۔

اور امام شافعی کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کی تقدیر چاڑن جیں ہے سمجھی  
اس کا قول ہرگز جوت نہیں اگرچہ وہ مخالفت قیاس حکم میں ہو، اور امام  
شافعی کا قول جدید ہے۔ اشعارہ اور معتبر کام بھی مذہب یہی ہے۔

اور ہمارے اختلاف کا عمل اس بارے میں مختلف ہے۔ ان کا مذہب  
اس مشکل میں کسی خاص نقطہ پر قرار نہیں رہا ہے۔ نہ ان سے اس مشکل

میں کوئی واضح روایت منقول ہے۔ البته اس بارے میں وہ سب  
اس پاست پر متفق ہیں کہ مخالفت قیاس مسائل میں جیسے وہ شرعی مقادیر  
جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے، قول صحابی کی تقدیر واجب ہے، اس  
میں قول صحابی کو سامع عن الرسول پر حمل کیا جائے گا۔ کیونکہ ان پر میگا  
تو کیا نہیں چاہکتا کہ انہوں نے یہ قول اپنی تجھیں اور انکل سے کیا ہو گا۔

جموٹ پر بھی حمل ملکن نہیں ہے، کیونکہ دین کے منصوصی احکام ہیں ان  
کی روایت سے پہنچتے ہیں۔ تو اگر ان کا یہ قول جموٹ پر حمل کیا جائے تو  
اس سے وہ فاسق قرار پائی گئے اور سارے دین کے بارے میں ان کی  
روایت باطل قرار پائے گی، اس کے بعد وہی احتمال رہ جاتے ہیں۔

ایک یہ کہ یہ قیاس اور اس کی اجتہادی راستے ہو، دوسری یہ کہ حضور  
سے اس نے نہ ہو۔ مگر چونکہ مخالفت قیاس حکم میں راستے کے لیے کوئی  
دخل ہے نہیں تو لا محال سماع ہی تعمیق ہو گا۔ اب اس کا یہ فتویٰ

روایت عن الرسول کے مانند ہو جاتے گا۔ اور یہ بات ترقیتی ہے کہ اگر  
اس نے حضور سے اپنے سلduct کا ذکر کیا ہو تو وہ اثبات حکم کے لیے ضرور

ججت ہوتا تو فتویٰ بھی اس بنا پر ججت ہو گا کہ اس کے لیے سماں کے ملاؤ  
دوسرے کوئی طریقہ نہیں ہے۔“  
چند سطروں کے بعد اگر کے پل کر مولانا مرحوم فرماتے ہیں:-

وَهُدًى أَكْلَهُ فِيْهَا لَا يَدْرِكُ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّمَا مَا يَعْقُلُ يَا لِلْقِيَاءِ  
فوجہ قول الكرخي ان القول بالرأى من أصحاب النبي صلى  
الله عليه وسلم مشهور واحتمال الخطأ في احتجادهم  
كان لا محالة فقد كان يخالف بعضهم بعضاً وكم كانوا  
لا يدعون الناس إلى اقوالهم وكانت ابن مسعود يقول  
ان اخطأت فمن الشيطان وإذا كان كذلك لم يحيب  
تقدير مثله بل وجب الافتدا بهم في العمل بالرأى  
مثل ما عملوا - وذلك معرف قوله «اصحابي كالنجوم» لمن  
ورجحه قوله أبي سعيد البدراني ان العمل برأيهم واستثنى  
يوجهين، آحد هما احتمال السماع والظاهر الغالب  
من حال الصحابي افتائه بالخبر لا بالرأى الا عند  
الضرورة تکا -

وَلَا حَتَّىَ فَضْلَ اِصْنَابِهِمْ فِيْ لُفْسِ الرَّأْيِ فَرَأْيُ الْعِنَّاثِ  
اَقْوَى مِنْ رَأْيِ عِبَرِهِمْ لَا نَهْمَ شَاهِدٌ وَاطْرَقَ اِنْتَيْ عَلَيْهِ  
السلام في بيان احكام الحوادث ولات لهم زیادة تکرر  
حرص في بذلك محسودهم في طلب الحق وزیادة تک احتیاط

فِي حَفْظِ الْأَسْحَادِ بِثَوْلَتِهِ وَالْتَّامِلِ فِي حِلَالِ النُّفُرِ فِيهِ عَالِيَّةُ التَّامِلِ  
وَفَضْلِ دِرْسِيَّةِ لَبِسٍ لَغَيْرِ هُنْمَرِ كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَخْيَارُ مِثْلُ  
ثَوْلَةِ خَيْرِ الْقَرْبَوْنِ قَرْنَى الَّذِينَ بَعْثَتْ فِيمُهُمُ الْمُزَوْدُوْلَهُ أَنَا  
إِمَانُ الْأَصْحَابِيِّ وَالْأَصْحَابِيِّ إِمَانُ لِامْتِقِي وَغَيْرِ ذَالِكَ مِنَ الْأَخْيَارِ  
وَمِثْلُ هَذِهِ الْفَضْلَيَّةِ اشْرَقَ اصْبَابُ الرَّأْيِ وَكُونُهُ الْعَدُ  
مِنَ الْخَطَاءِ فِيهِذِهِ الْمَعْنَى تَرْجِعُ رَأْيَهُمْ عَلَى رَأْيِهِمْ وَ  
عَنْدَ تَعَارِفِ الرَّأْيَيْنِ إِذَا ظَهَرَ لِسَدِّهِمْ هَذَا نَعْ تَرْجِعُ وَجْبَ  
الْأَخْذِ بِذَالِكَ - فَكَذَا إِذَا وَقَعَ التَّعَارِفُ بَيْنَ رَأْيَيِّ الْوَاحِدِ  
صَنْهُمْ وَرَأْيَيِّ الْوَاحِدِ مِنْهُ يَجْبُ تَقْدِيمُ رَأْيِهِ عَلَى رَأْيِهِ زِيَادَةً  
قُوَّةً فِي رَأْيِهِ مِنَ الْوَجْهِ الَّتِي ذَكَرْنَا هَا - اهـ

(مقدمة فتح المليمج امكاني)

ہے یہ تمام تفصیل اس حکم میں ہے جو مذکوب بالتفصیل نہ ہو سدھا وہ حکم  
جو مذکوب بالعقل ہر تو اس میں قول کرنے کی دلیل نہ ہے کہ اصحاب رسول  
سے وینی مسائل میں اپنے اجتہاد سے فتنی دینا مشہور اور معروف ہے اسکے  
اجتہادات میں خطا کے احتمال سے بچنا بھی ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ  
وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اور لوگوں کو بھی اپنے  
اتقوال کی پابندی پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ان مسود  
فتواے دیتے وقت فرماتے تھے کہ اگر فتویٰ میں مجھ سے غلطی ہو گئی تو  
یہ شیطان کی طرف سے ہو گی۔ اور حسب ان کے اجتہادات میں خطا کا احتمال

ثابت ہوا تراستے ابھار کی تعلیم بھی واجب نہیں ہے۔ بلکہ ان کی اختلاف  
 اس طریقے کی جائے گی کہ ہم بھی ان کی طرح عمل پر آئی کریں گے۔ یہی مراد  
 ہے حضورؐ کے اس ارشاد کی کہ میرے اصحاب تسلیم کے ماند ہیں۔ اور قول  
 ابوسعیدؓ کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بیے ان کی راستے پر عمل کرنا دو وجہ سے بہتر  
 ہے ایک یہ کہ اس میں احتمال سالم ہے۔ کیونکہ صحابہؓ اکثر اوقات میں حدیث  
 ہی سے فتویے دیا کرتے تھے، وہ کہ راستے سے۔ الایک کہ شدید ضرورت پیش  
 آ جاتی۔ دوسرا ان کی راستے پر عمل کرنا اس وجہ سے بھی بہتر ہے کہ بہت  
 دوسرے مجتہدین کے ان کی راستے زیادہ صائب ہے۔ اور مجتہدین کی رائے  
 سے زیادہ قوی ہے۔ کیونکہ انہوں نے حوار مشہور اور واقعات کے احکام  
 بیان کرنے میں حضورؐ کے طریقوں کو بخشنام خود معاینہ کیا ہے۔ پھر وہ حق کی جگہ  
 میں بھی زیادہ کوشش اور حرص ہے۔ اور حفظ احادیث میں بھی سب سے  
 زیادہ محاذ ہے۔ اسی طرح وہ غیر منصوصی احکام اور مسائل میں بھی غایت  
 درجہ غور و مکر کرتے تھے۔ درجہ کے اعتبار سے بھی ان کے لیے وہ خصیلت ہے  
 جو دوسروں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ احادیث سے بصراحت ثابت  
 ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہے: سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن میں میں میوڑ  
 کیا گیا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں۔  
 اور وہ ساری امت کے لیے امان ہیں۔ اسی خصیلت کی وجہ سے ان کی رائے  
 زیادہ صائب اور خطاب سے زیادہ محفوظ ہوگی۔ اپنی دجوہات سے صحابہؓ کی  
 رائے کو دوسروں کی رائے پر ترجیح حاصل ہوگی۔ اور جس طرح دو متعارض

رایوں میں سے ایک کے لیے جب دوسری پر ایک تسلیم کی ترجیح ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب صحابی کی راستے اور دوسرے مجتہد کی راستے میں تعارض واقع ہو جائے تو اس کی راستے مجتہد کی راستے پر بھی لازماً تقدم ہو گئی۔ کیونکہ اس کی راستے سابق و جو عکس پر باپر دوسرے مجتہد کی راستے سے جو ہم میں سے ہو زیادہ قوی ہے یہ

علماء اصول فقہ کی مندرجہ بحالات سے متعلقہ متصلہ کے بارے میں اگرچہ علماء امتت کے بذاہب کی تفضیلات اور دوسری ضروری یا قسمی معلوم ہو گئیں مگر یہ بات ایجھی تک تحقیق طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قول صحابی کی جتنیست کیا ہے۔ کیا اس کی تقدیر سنت کے مقابلے میں بھی جائز ہے اور تعمید سے بلاذر ہے۔ ما سنت کے مقابلے میں اس کی تقدیر جائز نہیں ہے؟ اس بارے میں جہاں تک ہمارے معلومات کا تعلق ہے، ہم اس کی بنا پر دعویٰ سے یہ کہتے ہیں کہ حضور کی سنت کے مقابلے میں قول صحابی قابل تقدیر نہیں ہے۔ اور اس پر علماء امت بسب متفق ہیں اور کسی کا اختلاف اس میں مشقول نہیں ہے۔ اس کی چند مثالیں مسئلہ کی ابتداء میں حذف رُسُول اور تعمید کی بحث میں گزد چکی ہیں۔ آپ زمین میں ائمہ رین میں سے چند ائمہ کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔

### بعض دوسرے ائمہ کی تصریحات

عن الاوی ابی قال کتب عن بن عبد العزیز اته لا رأی لاحد  
فی کتاب اللہ ولا رأی لاحد فی ستة سنین رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم و انما رأی الائمه فی ما لم ینزل فیه

کتاب فلم تخف فیہ سنتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلمہ واه (صحیح البخاری الفتح ج ۱، ۳۴)

وامام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے ماتحت حکام کو بھا  
تھا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کو راستے پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ نہ  
سنت رسول کے مقابلے میں کسی کو راستے پیش کرنے کی اجازت ہے اور  
میں کی راستے اس حکم میں قابل تبلیغ ہو سکتی ہے جس میں قرآن کریم نازل نہ  
ہٹھا ہو۔ اور حضور کی سنت بھی اس میں معلوم نہیں ہو چکی ہے۔ (درین پھر  
راستے اُس کے مقابلے میں مقبول نہ ہوگی ہے)

امام اوزاعیؓ اور عمر بن عبد العزیز سے پہلے بھی ڈرے سمایہ اور تابعیؓ  
نے بھی راستے ظاہر کی ہے کہ حضور کی سنت کے مقابلے میں کسی کا قبل قابل اتباع نہیں  
ہے۔

عَنْ عِبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءً وَجَاهِدَ وَمَالِكَ بْنِ  
الْأَسْسَرِ فِي أَنَّهُمْ أَنْهَمُ كَاذِبًا يَقُولُونَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا  
وَهُوَ مَا خَوَذَ مِنْ كَلَامِهِ وَهُنَّ دُوْدُوٌ عَلَيْهِ الْأَئْمَوْلُ اللَّهُ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاه (صحیح البخاری ج ۱، ۳۴)

علمائے امت کے ان اقوال سے صاف تر پڑیہ بات واضح ہے کہ کتاب و  
سنت کے مقابلے میں کسی کے اقوال اور فیصلے قابل عمل نہیں ہیں خواہ وہ صحابہ ہوں  
یا امت کے دوسرے علماء اور صلحاء۔ یہ بھی ان اقوال سے معلوم ہو گیا کہ آنحضرت  
صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص اس مقام پر قادر نہیں ہے کہ اس کے قسم

احوال ہر حالت میں واجب العمل ہوں بلکہ ہر شخص کے بعین احوال قابل عمل اور بعض لا تی ترک ہوں گے۔ اس میں صاحب اور غیر صاحب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صاحب کرام کے بعض احوال دلائل سے روکیے جاسکتے ہیں اور اسی کا امام تنقید ہے۔

امام محمد بن حسن شیعیانی نے اپنے موطا میں عبد اللہ ابن عمر کی ایک روایت ذکر کی ہے جس کے مخاطب ہیں:

عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْسَ بَانِ يَغْتَلُ الرَّجُلُ بِغَصْنٍ وَضُوًّا  
الْمَرْأَةُ مَلَأَتْكُنْ جَنْبًا أَوْ حَائِنَتْنَاً۔ (موطأ ص ۲۷)

”ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی مضافات قصر نہیں ہے کہ عورت کے دخورد سے جرم پانی بچا ہو۔ اس سے مرد خصل کرے بشریکیہ عورت جنب لود مضافات نہ ہو۔“

علام نے اس روایت کے پیش تظر ابن عمر کا ذہب یہ بیان کیا ہے کہ ان کے زیر کے ماضی اور جنپی عورت کا جھوٹا پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے دخورد سے بچا ہو اپنی بھی ابن عمر کے زریک قابل خصل یا قابل ترضی نہیں ہے مگر امام محمد بن حنفیہ اشتر نے این عمر کے اس ذہب پر تنقید کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ: ماضی اور جنپی عورت کا جھوٹا پانی پاک ہے۔ اس سے دخورد اور خصل کرنے میں کوئی مضافات قصر نہیں ہے اسی طرح اس کے خصل اور دخورد سے بچے جنمئے پانی کے استعمال میں بھی کوئی مضافات قصر نہیں ہے۔ اگرچہ عورت ماضی یا جنپی ہو تو چنانچہ امام محمد فرماتے ہیں:

لَا يَأْسَ بِغَصْنٍ وَضُوًّا مَرْأَةٌ وَغَسْلٌ هَا وَسُوْرٌ هَا وَانْ كَاتٌ

جنباً أو حائلاً - (مُرْعَة مكٌ)

و عورت کے وضو و ادغشل سے بچا ہوا پانی۔ اسی طرح اس کے جو بچا ہوا پانی کے استعمال میں کوئی مضاائقہ نہیں ہے اگرچہ عورت جنبہ یا ائمہ  
ہرث

امام محمد بن عفر کے اس قول اور مذہب پر تقدیم ان روایات کے پیش قدر  
کی ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہمات المرئیی نے ایک  
برتن کے پانی سے غسل کر کے ایک دوسرے کا بچا ہوا پانی استعمال کیا ہے۔ چنانچہ وہ  
فرماتے ہیں :

يَدْعُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَ  
عَائِشَةَ مِنْ آنَاءِ وَاحِدٍ يَتَنَازَعُانِ الْغَسْلَ جَمِيعًا فَهُوَ فَضْلٌ  
غَسْلُ اللَّهِ أَكْبَرُ الْجَنَابِ - (ابن مک)

یہیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حنفی اور حضرت عائشہ و زینب نے ایک برتن سے یہ کیے  
بعد دیگرے پانی کے غسل کیا ہے اور یہ جنبہ عورت کے غسل سے بچا ہوا پانی ہے۔  
امام محمد کی اس تقدیم پر تبصرہ کرتے ہوئے فاضل مکھنی حضرت مولانا عبد الرحمن  
سخنے ہیں :-

يَشَرِّيْلَى مَا تَقْدِيمَ الصَّحَابِيِّ فِي اجْبٍ وَ قَوْلِهِ جَيْدٌ عِنْدَنَا  
مَا لِرَبِّنِي شَيْءٌ مِنَ السَّنَةِ وَقَدْ صَرَحَ يَهُدِّى أَبْنَ الْهَامِ فِي كِتَابِ  
الْجَمِيعَةِ مِنْ فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُنَّا قَدْ لَعِنَ قَوْلَ أَبْنَ الْهَامِ وَرَدَّهُ  
بِسَتَّهِ فَالْعِبْرَةُ بِالسَّنَةِ لَا يَبْلُغُهُ - احمد

۔ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابی کی تعلیم و حجہ  
اور اس کا قول ہمارے نزدیک ججت ہے جب تک وہ صفت کے خلاف  
نہ ہو۔ اس کی ابن ہبام نے فتح العیری کی کتاب بمعتمد میں تصریح کی ہے یہاں  
امام محمد نے بھی قول ابن عربی کی تردید صفت سے کی ہے پس قابل اعتماد نہ  
ہے نہ کہ قول صحابی۔

### امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:  
لا ججۃ فی قول احده دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
و ان کثروا۔ لافی قیاس ولا فی شیء و ما شرعا طاعۃ اللہ و  
رسولہ۔ (رخدابنید، رحمۃ اللہ علیہ)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاونوں سے کسی کے قول میں ججت نہیں ای  
ہے خراہ وہ بہت سے افراد کیوں نہ ہوں، نہ کسی قیاس میں اور نہ کسی دوڑی  
چیز میں یہاں صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کام دے سکتی ہے نہ  
کہ کچھ اور“

### امام احمد بن حنبلؓ کی تصریح

دوسرے ائمہ دین کی طرح امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں: نہیں لاحد  
مع اللہ در رسولہ کلام۔ اللہ اور رسولؓ کے مقابلے میں کسی کو بات کہنے کا حق نہیں  
ہے۔“ (رحمۃ اللہ باللغہ ج اص ۱۷۸)

یہ چند مثالیں مشتمل نہ رہنے از خوار سے کے طور پر پیشی کی گئیں۔ ان کے علاوہ

بھی سینکڑوں شایسی ایسی مل سکتی ہیں جن میں کتاب و سنت کے مقابلے میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال اور فتاویٰ قابل ترک بھئے گئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اور کسی عالم کا اختلاف اس میں منقول نہیں ہے۔

### شیخ ابن ہمام کی تصریح

یہی وجہ ہے کہ شیخ ابن ہمام نے فتح القدری کی کتاب الجعة میں ہمام بخاری خاطبہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:

وَالحاصلُ أَنْ قَوْلَ الْعَصَابِيِّ حِجَةُ فِي حِجَبِ تَقْدِيدِ الْعَنْدِنَا

مَا لَهُ بِنِفَهِ شَيْءٍ مَا خَرَصَ النَّسْنَةَ - اهـ (رج ۴ ص ۳۶)

حاصل یہ ہے کہ قول عصابی ہمارے نزدیک حجت اور واجب التقدید ہے۔

مگر اس وقت جبکہ کوئی حدیث اس کی نفع نہ کر رہی ہو۔

### مسئلہ تنقید کا خلاصہ

مسئلہ تنقید کے بارے میں گذشتہ مباحثہ کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۔ لغت عربی میں فقط تنقید کے دو معانی آتے ہیں۔ ایک عیب جوئی، اور دوسرا جانپنا اور پرکھنا۔ یعنی دہل کی روشنی میں کسی چیز کے متعلق یہ دیکھنا کہ قابل قبول ہے یا لا اُن ترک۔

۲۔ عیب جوئی کے معنی میں تنقید کسی ادنیٰ سے ادنیٰ دہلے کے مسلمان پر بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ صحابہ کرام اور علمائے محدث اس قسم کی تنقید کے لیے نشانہ بنائے جاتیں۔ کیونکہ یہ ایک حرام تسبیح ہے جو شریعت کی رو سے کسی کے حق میں جائز نہیں ہے، الایہ کہ اس کے مالکوں کا ایک ترمصدا و تریعت کی عظیم تر مصلحت والیستہ ہے۔

جو تنقید نہ کرنے سے فوت ہونے کا اندریشہ ہو۔ اس کی مثال وہ تنقید ہے جو جرأت  
تبدیل کی صورت میں انہرہ حدیث نے روایہ حدیث پر کی ہے۔

۳۔ جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں جو تنقید ہرگز ہر اس قول و عمل پر کی جاسکتی  
ہے جس میں صواب اور خطا دو نوع کا احتمال ہو اور اس قول و عمل پر یہ تنقید نہیں  
کی جاسکتی جو خطا کے احتمال سے محفوظ ہو۔ اور صفت اس کے لیے نقینی ہو۔

چونکہ نبی مصطفیٰ علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص بھی مقصوم نہیں ہے اس لیے اس کا  
قول خطا کے احتمال سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ تنقید سے بھی بالآخر نہیں ہو سکتا۔  
اور نبی مصطفیٰ علیہم السلام چونکہ نقینی طور پر مقصوم ہیں اس لیے وہ قسم کی تنقید سے بھی بالآخر  
ہیں اور بھائے خود معیارِ حق ہیں۔

۴۔ جانچنے اور پرکھنے کے معنی میں جو تنقید ہو اس کے جواز پر قرآن مجید اور حدیث  
رسول و نبی ناطق ہیں۔ ایک بڑے سے بڑا بزرگ آدمی کیوں نہ ہو، مگر اس کے اقوال  
اور فحیصلے کتاب و مفت نے کفر کر دہ معیارِ حق پر جانچنے اور پرکھنے جائیں گے۔ پھر جو  
بھی قول اور فحیصلہ اس کے موافق نکلے گاؤں سے قبول کیا جائے گا۔ اور جو اس کے مخالف  
ٹابت ہو گا اُسے رد کیا جائے گا۔

۵۔ حادیث نبویؐ سے بھی اس تنقید کا جواز ثابت ہے۔ میراث کے مشدہ میں  
عبداللہ بن مسعود نے ایامِ مسی اشریؑ کے فتوے پر تنقید کی ہے۔ اسی طرح فضلا کے  
مشدہ میں ایک عورت نے حضرت عمرؓ پر تنقید کی ہے۔ ان تمام تنقیدات سے اس  
بات کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر اس قسم کی تنقیدات  
کرنے والوں نہیں سمجھتے تھے، نہ ایسی تنقیدوں کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا کہ یہ ایک

دوسرا سے کل توہین ہے۔ درود ابو موسیٰ الشتری اب مسحور کی اس تنقید کے پارے میں کہ  
لقد خذلت اذا وها انا من المهدتین، یہ نہ کہتے کہ: لا تسلو فی ما دامر  
هذا الحجر فیکم۔ اسی طرح حضرت عمرؓ ایک عورت کی اس تنقید پر کہ: انہیم قوہ  
ام قول اللہ عزوجل و اتیتم احمد اهن قنطرارا۔ یہ نہ فرماتے کہ کل احمد اصل  
من عمر تزویجوا علی ما ششم۔

۶۔ یہ تنقید جس طرح صحابہ کرامؓ اپس میں ایک دوسرے پر کیا کرتے تھے اسی طرح  
تابعینؓ اور تبع تابعینؓ نے بھی اتوال صحابہ پر ملائی سے تنقید اوت کی ہیں اور کبھی کسی نے  
اس کو توہین نہیں سمجھا ہے۔

۷۔ جن امر میں صحابہ کرام تنقید سے باہر رہیں وہ درج ذیل میں امور ہیں: وَأَنْقَلَ  
كَاتِبُ اللَّهِ أَفْرَادًا إِلَيْهِ حَدِيثَ دِينِ دِينِ کے اصولی مسائل اور اعتقادیات دین،  
دین کا جامع نصیہ اور مکمل تفصیلی تعالیٰ - جسیں میں عقائد قرآنی دین کی تفصیلات اور  
اصول اخلاق سب ہی شامل ہیں۔

۸۔ صحابہ کرام کے ذاتی اتوال اور فضیلے دوسرے ائمہ دین کے اچھیات کے  
متقابلے میں امام مالکؓ، امام احمد بن حنبل اور رابر سعیدؓ بر دعیؓ کے نزدیک اجبۃ العلیہ  
ہیں لیکن امام شافعیؓ اور امام ابو الحسنؓ کرخیؓ کے نزدیک مطلقاً اجبۃ العلیہ نہیں  
ہیں۔ بلکہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ امام شافعیؓ کے نزدیک قول صحابی ہرگز قابلِ تعلیم  
نہیں ہے۔ اور امام کرخیؓ کہتے ہیں کہ مقا عتب قیاس مسائل میں اگرچہ جبت اور قابل  
تعلیم ہے، مگر موافق قیاس مسائل میں قابلِ تعلیم نہیں ہے۔ اس صورت میں امام  
کرخیؓ کے نزدیک قول صحابی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔

۹۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں قول صحابی بالاتفاق قابل تقدید نہیں ہے بلکہ واجب اترک ہے۔ احادیث کے مقابلے میں بہت سے دینی سائل میں اقوال صحابہ چھوڑ دے گئے ہیں۔ الگہ دین اور علامتے امت نے اپنی اپنی تصانیف میں بالصریح یہ بات ذکر کی ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں اقوال صحابہ قابل عمل نہیں ہیں۔ نہ ان کی تقدید جائز ہے ۔

یہ ہے منہد کی مختصر تشریح۔ اس کی روشنی میں اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ مودودی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے دوسرے اہل علم انبیاء و علیهم السلام کے مساوا کسی کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے ہیں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا دوسرے ائمہ صلف۔ اس سے آخر ان کی تحریر کیا ہے۔ احمدان کا یہ دعویٰ کہاں تک رسیج ہے؟ اس منہد پر جہاں تک ہم نے ان کی تحریریں پڑھی میں ان کے پیش فنظر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مذکور یا متعین کے پارے میں ان کا یہ نظر یہ کہ "رسول خدا کے سوا کوئی بھی معیار حق نہیں ہے اور نہ کوئی شخص تنقید سے بالاتر ہے" اسلاف کے نظر یہ سے مختلف ہے۔ آخر جب ترکان و حدیث انبیاء و علیهم السلام کے مسما کسی کو معیار حق قرار نہیں دیتے نہ کسی کو تنقید سے بالاتر ثابت کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح کی تنقیدیں کرتے ہیں، الگہ دین بھی کتاب و سنت کے معیار پر صحابہ کرام کے اقوال کو جانپتے اور پرکھتے ہیں، اور اس طرح کی تنقیدی جانپڑتا ہے کہ بعد بعض اقوال کو قابل عمل اور بعض کو قابل اترک سمجھتے ہیں، لیکن بعض الگہ تو صفات طور پر اقوال صحابہ کی جگتیت ہی سے انکار کر دیتے ہیں تو اگر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اہل علم حضرات

نے بھی دستور جماعتِ اسلامی کی وضعہ میں یہ لکھا کہ: "رسولِ خدا کے سوا کسی کو  
معیارِ حق نہ بناتے اور نہ کسی کو تنقید سے باہر نہ بچے" تو ہم اس کو آخر کس قانون  
کی رو سے گراہی قرار دے سکتے ہیں۔ جبکہ مولانا مودودی سے بہت پہلے انت  
کے اسلامت نے اس کو بطور عقیدہ اور ایک قانون کے قسم کیا ہے؟ مولانا مودودی  
اور جماعتِ اسلامی کے اہل علم نے تنقید کی جو تصریح کی ہے اس کی حقیقت صرف یہی  
ہے کہ قولِ صحابی بجا تے خود اس کی شخصیت کی بنا پر محبت اور واجب الاطاعت  
نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کے فصیلے کے ساتھ موانعت اور مطابقت کی وجہ سے  
محبت اور واجب التسلیم قرار پاسکتا ہے اور حبیبِ بھی وہ کتاب و سنت کے فصیلے  
کے خلاف ثابت ہو گا اس وقت اُس سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ مسلمان  
ہے جو تمام عملاتے امانت کے ہاں متفق علیہ عقیدہ اور مسلمان چلا آیا ہے۔

لماں! اگر مولانا مودودی اور جماعتِ اسلامی کے اہل علم حضرات تنقید سے  
بیہاں تنفیص اور توہین مراد ہیتے، یا یہ تنقید عیب جوئی اور عیب چینی کے معنی میں ہیتے  
 تو ہم صفات طور پر ان کے اس عقیدے کو گراہی اور نظریہ کو باطل بلکہ زندقة قرار دے ستے  
 کیونکہ صحابہ کرام پر اس معنی میں تنقید کو اہل السنۃ والجماعۃ نے گراہی اور زندقة قرار  
 دیا ہے تصحیح الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً "الاصابۃ" میں  
 صحابہ کرام پر اس قسم کی تنقید کرنے والے کو زندیق "قرار دیا ہے۔ لیکن جب وہ  
 خود تصریح کر چکے ہیں کہ تنقید سے ہماری مراد یہاں تنفیص یا توہین نہیں ہے نہ اس سے  
 ہم عیب جوئی اور عیب چینی مراد ہیتے ہیں۔ بلکہ اس سے ہماری مراد حضرت یہ ہے کہ رسول  
 خدا کے مسامع اقسام لوگوں کے احوال و اتحال کو خداہ وہ صحابہ کرام ہوں یا دوسرے

بزرگان وین، کتاب و سنت کی شرعی کسوٹی پر جانچا اور پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی قول و فعل اس پر پورا اُترے گا اُسے قبول کیا جائے گا۔ اور جو اس پر پورا نہ اُترے گا اُسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کو گراہی کرنے کی جسارت وہی شخص کر سکتا ہے جو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے خداوام سے کا بیر کھتا ہے۔ یا پھر وہ اس مسئلہ کی الجدید سے بھی واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ ذیل میں مولانا مودودی اور جماعت سے تعلق رکھنے والے دوسرے اہل علم کی تصریحات اور توضیحی بیانات نقل کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی مسلم ہو جائے کہ تنقید سے یہاں وہ کیا مراد ہے میں کو صاحب کرام کے احوال پر وہ کس معنے میں کہ تنقید کو جائز سمجھتے ہیں؟

### مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی توضیح

اس مسئلہ کے متعلق مولانا مودودی سے کسی نے یہ استفسار کیا کہ: ہی کیا آپ صحابہ کرام پر تنقید کو جائز سمجھتے ہیں؟ تو مولانا نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:

”تنقید کا لفظ جیسی معنی میں آپ نے اپنے احراض میں استعمال فرمایا ہے اس معنی میں صحابہ کرام تو کجا کسی اور نے سے اونی دریے کے مسلمان پر بھی تنقید کرنا میرے نزدیک سخت گناہ ہے۔ البتہ تنقید کے جو معنے اہل علم میں معصوم و مسرووف ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور انہیاں کرام کے سوا کسی انسان کو بھی میں تنقید سے بالآخر نہیں مانتا ہوں۔ کسی صحابی کا اول یا فعل بھی محسوس اپنے قابل و معاول کی شخصیت کی بنا پر جو بت نہیں ہے۔ لیکن اس کی دلیل دیکھ کر راستے قائم کی جائے گی کہ آیا اُسے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ دلیل کے لحاظ سے کسی بات کو جانپنے کا نامہ پر تنقید ہے۔“

اور یہ تنقید مجھے نہیں معلوم کہ کس زمانے میں ناجائز رہی ہے۔ فقر کے بحث  
میں یہ مختلف صحابہ کے مختلف قول و عمل آثار پاسے چلتے ہیں لہور  
بہم درج ہوتے ہیں کہ کامیں اور شیعہ مابعدین اور الحمد لله مجتہدین نے ذیل کی بنا پر انہیں  
سے کسی کو قبول اور کسی کو رد کیا ہے۔

آپ فقر کی بسو طکایوں میں سے جس کو چاہیں اختاکر دیجیں۔ آپ کو  
اس تنقید کی پڑائیں مثاں مل جائیں گی۔ کیا آپ کے نزدیک وہ سب  
لوگ گھنہ گھار تھے جنہوں نے صحابہؓ کے مختلف احوال و افعال میں تنقیدی  
حاکم کیا؟

اصحابی کا لفظ و ای حدیث کا اگر آپ نے یہ مطلب دیا ہو کہ پر  
صحابی کا ہر قول و فعل و دلیل الاتباع ہے۔ تو صفت و خصوصی میں کوئی  
صاحب عالم مجده کو اس کا قابل نہیں ملتا ہے۔ آپ کو ملا ہو تو اس کا نام مجھے  
بھی تباہیں۔ لمبتدہ ساری امت اپنے دین کے ہر مشکلہ میں بہر حال کسی نہ کسی  
صحابی کے ذریعہ ہی سے زہنی حاصل کرنی رہی ہے۔ افریقی اس حدیث کا  
مشادر ہے۔

ترجمان القرآن ج ۶، ص ۳۔ میں ۱۹۵۶ء

اس مسئلہ سے متعلق مولانا سے دوسرا ایک استفسار یہ کیا گیا کہ "اگر صحابہ کو  
پتنقید کو جائز قرار دیا جاتے تو ان کے وہ فضائل اور حماضر جو قرآن و حدیث میں  
ان کے بیٹے مذکور ہیں۔ اس تنقید سے واجب انتسلیم نہیں رہیں گے۔" اس کے جواب  
میں مولانا سے درج ذیل فرضیح فرمائی:-

ہتھیار کے معنی عجیب چینی ایک جاپل آدمی تو بچھ سکتا ہے۔ مگر کسی خدا  
علم آدمی سے یہ قرآن نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس نقطہ کا یہ مفہوم سمجھے گا۔ تھیڈ  
کے معنی پیدائش اور پرکھنے کے نہیں۔ اور خود ستور کی ذکریہ بالا حیارت  
میں اس معنی کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عجیب چینی مرا دینے  
کی تھی اُنہوں نے اس نقطے سے بکال سکتا ہے۔  
مزید پر کافی اس فقرے میں یہ تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ رسول خدا  
کو میہار حق قرار دینے کے بعد جس کا جو مرتباً بھی اس میہار کے مخالع سے قرار  
پائے گا اُسی درجے میں رکھا جائے گا۔ اس سے یہ مطلب آخر  
کیجئے تکل آیا کہ صحابہ کرام کے جو مخادر و فضائل کتاب الفتن اور احادیث  
نبیریہ میں ذکر کر رہیں وہ واجب التسلیم نہیں رہیں گے؟ کیا ایک صاحب  
عقل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول خدا کو میہار حق مانتے والے آدمی کے  
ذمہ نہ چبے رسول خدا کی ولی ہوتی کتاب پاک، اور رسول خدا ہی کی  
احادیث سے کسی شخص یا گروہ کے مخادر و فضائل ثابت ہونے گے تو وہ  
نہیں واجب التسلیم مانتے سے انکار کر دے گا؟ یہ عجیب قسم کی معنی  
آفریں اگر شرارت کی نیت سے نہیں تو بچھہ بھریں عقل و دانش بیاید  
گریت۔ (رجہ الرسالۃ کی جماعت اسلامی حق پر ہے؟)  
اس کے بعد ایک دوسرے ذمہ دار کوں اور جماعت کے ایک مر را کی  
تو ضمیح پیش کی جاتی ہے:-

## مولانا امین احسن اصلاحی کی توضیح

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اگرچہ جماعت سے اپ بانکھیہ الگ ہو چکے ہیں مگر جس وقت تنقید صحابہ کے مسئلہ پر بیت چھڑگی تھی۔ اس وقت وہ مجلس شوریٰ کے ایک ذمہ دار رکن تھے۔ اور وہ ستوری کیلئے میں بھی ایک عمر کی حیثیت سے شامل تھے۔ آپ نے تنقید کے مسئلہ پر ایک سوال کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ درج ذیل ہے:

### جواب

کریم مجتبی! السلام علیکم و رحمۃ اللہ!

و دستورِ جماعت اسلامی کی خذکریہ بالا عبارت پر جن حضرات نے وہ اغراضات کیے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحمہم فرمائے۔ آپ نے تو صرف اغراض کا ذکر کیا ہے، حالانکہ مجھے یہ عوام ہٹوا تھا کہ اس پر بعض حضرات کی طرف سے جماعت کے خلاف تکفیر کا فتویٰ بھی صادر ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کی زبانت کی وجہی یہ ہے جنہوں نے اتنی مقول بدلکہ ایمان پر در عمارت کے اندر سے بھی کفر ڈھونڈ نکالا۔

اس عبارت پر کفر کا فتویٰ صادر ہو چکنے کے بعد کم از کم میں تو اس تجویز پر پہنچا ہوں کہ اب جماعت اسلامی دلے اگر ان حضرات کو خالص قرآن مجید سماں تکمیلی یہ لوگ ان کو نخشنے والے نہیں ہیں۔ اس کے اندر سے بھی کوئی نہ کرنی کفر نکال کر اس کے سنا نے پر بھی تکفیر کا فتویٰ جڑ دیں گے مجھے یہ ترقع نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح بھی قائل یا مسلمان کیا جا سکتا ہے۔

چنانچہ میری طبیعت کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہوتی تھی کہ ان سوالوں کے جواب  
لکھنے پر وقت صاف کروں لیکن آپ کے اصرار پر بکھر جبر سے مجبوڑ ہو کر ہم طیں  
قلم بند کر دیا ہوں۔ اور یاد رکھیے اس پر جو وقت مرغ ہرگا اس کو میں آپ  
کے حساب میں لکھوں گا۔

سوالوں کے جواب مختصر طور پر با ترتیب یہ ہیں :

(۱) وستود کی یہ دفعہ جماعت کے ارکان کوہ تباہی کے لیے دعویٰ نہیں  
کی گئی ہے کہ کس کس کی "جیب چینی" کی جا سکتی ہے اور کس کس کی نہیں کی  
جا سکتی ہے جماعت اسلامی کا قیام (quamit) دین کے لیے عمل میں آیا۔ جیب  
چینی کے لیے عمل میں نہیں آیا ہے کہ اس سے متعلق خاص طور پر ایک  
دفعہ دفعہ کی جائے، اور وہ بھی بنیادی عقیدے کی جیشیت سے کہ جماعت  
کے ارکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء اور تلامیذ  
کی جیب چینی کر اپنا عقیدہ بن جائیں۔

تفقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں۔ اور بتائیا یہ مقصود ہے کہ اسلام  
میں معيارِ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کسی کی کوئی بات حضورؐ  
کے قول یا فعل کے خلاف جمیت نہیں بن سکتی۔ اگرچہ اس دفعہ کی ترتیب کے  
وقت زیرِ بحث سوال انبیاء و سابقین کا نہیں تھا۔ بلکہ میں نظر صرف اس  
امانت کے مختلف طبقات تھے کہ ان میں سے بجائے خود کوئی بھی سند اور  
جمیت نہیں ہے۔ بلکہ زب کے احوال و احوال اصل معيارِ حق رسول اللہ صلی  
الله علیہ وسلم پر جانچنے اور پرکھنے کے بعد ہی جمیت اور سند بن سکتے ہیں۔ لیکن

اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بعد ازاں یہی اصول حضرات انبیاء و سابقین پر بھی منطبق ہوتا ہے ہم ان انبیاء و سابقین کی تعلیمات و درایات تو درکار خود ان کی خبرت بھی اس بنا پر تسلیم کرتے ہیں کرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبرت کی تصدیق فرمائی ہے۔ اگر چارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبرت کی تصدیق نہ فرمائی تو ہم ان میں سے کسی کرنی نہ لانتے جب سرے سے ان کی خبرت ہی ضمود کی تصدیق کے بغیر تسلیم نہیں کی جاسکتی تو ان کے اقوال و افعال بجاۓ خود معيار حق بننے کے کیا معنی؟

انبیاء و سابقین کی تعلیمات کا پیشتر حصہ گم ہو چکا ہے۔ ان کی تعلیمات میں تحریفات بھی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگیوں کے حالات پیشتر غیر مستند درایات کا مجرور ہیں۔ ان کی شرائعتوں کے بہت سے احکام قرآن مجید نہ صورخ کر دیتے ہیں۔ نیز ان کی شرائعتوں میں بہت بھی کیاں بھی تھیں جی کی صور کی تصریح سے تخلیل ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے ان کی صرف بھی چیزیں قابلِ قبول ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی ہیں اور وہ بھی اس بنا پر نہیں کہ وہ انبیاء و سابقین کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ اس بنا پر کہ اسلامی شریعت نے ان کو اپنایا ہے۔ اگر اس کسوٹی سے بے نیاز ہو کر ہم ہر اس طبق و ریاض کو قبول کریں جو انبیاء و سابقین سے متعلق ان کے لئے وائے پیش کرتے ہیں تو ہم ہدایت کے بجاۓ خلافات میں پڑ جائیں گے۔ پس لچکے انبیاء سے متعلق ہمارے لیے صحیح روایہ یہی ہے کہ ان کی جو چیزوں کی قرآن سے تصدیق ہو گئی ہے ہم ان کی تصدیق کریں اور حن کی

تروید ہو گئی ہے ان کی تروید کریں۔ اور جن چیز دل کی نت روید ہوئی نہ تصدیق  
ان کی نت تصدیق کریں گے نہ تکذیب۔

ذکر کردہ بالا جبارت میں تنقید کا جو لفظ آیا ہے اگر کوئی صاحبِ حائل  
کر سکے اس کی زد میں حضرات انبیاء رضابقین کو کھڑے کرنے پر صرف یہ ہوں تو  
آن سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم اتنی بات وہ سمجھو میں کہ اس تنقید کے معنی  
و عجیب چیزیں کے نہیں ہیں۔ تنقید کا لفظ عجیب چیزیں کے معنی میں ملکی ہے  
بہلاج کے کسی طبقہ میں بولا جانا ہو تو بولا جانا ہو لیکن اہل علم اس کو اس  
معنی میں نہیں برساتے بلکہ چاپنے اور پر کھٹنے کے معنی میں برساتے ہیں۔ اور  
چہار سوکھ چاپنے اور پر کھٹنے کا تعلق ہے۔ یہ واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے  
عرض کیا ہے کہ حضرات انبیاء رضابقین کی کوئی چیز بھی خاتم النبیین علیہ  
السلام کے معیارِ حق پر چاپنے اور پر کھٹے بغیر عدم قبول نہیں کر سکتے ہم تو  
کیا اگرچہ انبیاء میں سے کوئی بھی از سر فودنیا میں تشریف لائیں تو وہ  
بھی جو کچھ مانیں گے حضورؐ کی کسوٹی پر پر کھٹ کر نہیں گے اور حضورؐ کی  
اتیاع کریں گے۔ اس حقیقت کو خود حضورؐ نے ایک مرتبہ نہایت دعافت  
کے ساتھ سمجھا دیا ہے:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عَنْ  
فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مَنْ يَهُودُ وَنَعْجَبُنَا افْتَرَى إِنْ  
نَكْتَبْ بِعِصْرِهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ كَوْنُونَ إِنْتُمْ كَمَا تَهْوِكُتُ الْيَهُودُ  
وَالنَّصَارَى لَقَدْ جَنَّتُمْ بِهَا بِيَقِنَّةٍ وَلَوْكَاتٍ صَوْبَحَ

## حیات و سعہ الایتیاتی - راجحہ بیہقی - بحوارہ مشکراتہ، باب الاعلام باکتابہ والستہ

حضرت چاہرہ حنور سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عرب  
حنور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضن کی کہیہ دے ہم بہت سی ایسی  
باتیں سنتے ہیں جو ہمیں پڑی پسندیدہ معلوم ہوتی ہیں۔ کیا حضور یہ مناسب  
مجھے ہیں کہ ہم ان میں سے کچھ مفید باتیں نوٹ کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا  
کہ کیا تم لوگ بھی اسی طرح کی حیرانی و رگشتنگی میں جبلاء پر نما پڑھتے ہو جس طرح  
کی رگشتنگی میں یہود و ففاری جبلاء ہو گئے ہیں؟ میں تمہارے پاس اس  
ثریعت کر باطل روشن صورت میں لایا ہوں۔ اگر موٹی بھی آج زندہ ہو تو  
قرآن کے یہ بھی بھرپوری پروردی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا ۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت کے متعلق کہی شخص یہ گان نہیں کہ  
مکتا کہ ان کو بھوک اس طرح کی باتیں پسند آئی ہوں گی جس طرح کی باتیں  
آسرائیات کہلاتی ہیں۔ وہاگر پسند کر سکتے تو ترویی باتیں پسند کر سکتے  
تو جو فی الواقع پسند کیے جانے کے لائق ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ان کا فرث کیا جانا بھی پسند نہیں فرمایا۔ بلکہ بعض روایات سے توبیہ  
معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضور کا چہرہ مبارک خصر سے تباہ ہوا۔  
اگر آپ کی بخشش کے بعد بھی دوسرے انجیاد مکی تعلیمات پر آپ کی تائید  
تصدیق سے مستغنی ہو کر عمل کیا جاسکتا تھا تو اس سے روکنے اور حضور کے  
غصہ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ اگر آپ کے معیارِ حق پر جانچے بغیر بھی یہ عذر

کیا جاسکتا تھا کہ انہیاں مکمل فتنی تعلیمات میں سے کیا حق ہیں اور کیا حق  
نہیں ہیں۔ کن کا اختیار کیا جانا مطلوب ہے اور کن کا نہیں ہے تو حضور  
کے یہ فرمائے کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح تم حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکو گے  
اور اسی طرح کی حیرانی و سُرگشتمگی میں بتلا ہو جاؤ گے جس طرح کی حیرانگی و  
سرگشتمگی میں بہود رقصاری بتلا ہو گئے ہیں؟

اور اگر حضور کے بعد بھی حضور کے سوا کسی نبی یا رسول کی پیروی  
جائے ہے تو حضور نے یہ کہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آج مرسنی بھی زندہ ہوتے  
تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا؟

اس میں شبہ نہیں کہ جہاں تک ایمان لٹنے کا تعلق ہے ہم تمام انبیاء  
علیهم السلام پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی اور اور رسول ہیں۔  
لیکن جہاں تک اتباع کا تعلق ہے ہم اتباع صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی  
کی کرنے ہیں۔ ہمارے لیے آپ ہی کی اتباع کے اندر تمام انبیاء کی اتباع بھی  
آگئی۔ اس لیے کہ دوسرے غبیرین اور رسولوں کی تعلیمات کے صحت کے  
ساتھ جانشے اور یہ معلوم کرنے کا کہ ان میں سے آج دین میں کیا کیا یا اتنی  
مطلوب ہیں اور کیا مطلوب نہیں ہیں۔ واحد ذریعہ صرف رسول اللہ صلی  
الله علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کوئی پر جانچے  
یعنی خود ہی کسی چیز کو اختیار کرے گا بہت ممکن ہے کہ وہ نبی کی تعلیم نہ  
ہو۔ بلکہ خود قبیل کی تحریکت ہو۔ یا نبی کی تعلیم تو ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے  
آخری نبی کے ذریعہ سے وہ غسوخ کر دی ہو۔

خدا کی ہدایات کے جانتے اور اس کے جلپنے اور پرکھنے کے تمام درائع  
حصہ تک سوا مشتبہ ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لازمی ہے کہ انہیاد  
سابقین میں سے کسی نبی کی بات بھی اس وقت تک تسلیم نہ کی جائے جب  
تک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پکھ کر اس کی صحت و  
حدائقت سووم ذکر لی جائے۔

یہ جو کچھ انہیاد سابقین کی فضیلت میں نے عرض کی، یعنیہ یہی بات  
صحابہ کے متفق بھی صحیح ہے۔ ان میں سے بھی کسی کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ وہ  
رین کے مخالفات میں بحکمت خود سند اور حجت ہرگز اور ان کی ہربات  
رسول کے معیارِ حق پر جانچے بغیر یہ تسلیم کر لی جائے۔ وہ شرعی امور  
میں کوئی بات کہنے کے مجاز اُسی وقت ہی جب ان کے پاس رسول کی  
کوئی سند موجود ہو۔ اور ہمارے لیے ان کی کسی بات کو تسلیم کرنا اسی صورت  
میں ضروری ہے جب ہم نے رسول خدا کے معیارِ حق پر جانچ کر اس کی صحت  
وقوت کی طرف سے المینان کر لیا ہو۔ صحابی کا قول اگر حجت مانا جاتا ہے  
 تو اس گمان پر حجت مانا جاتا ہے کہ اس نے جوابات کی ہے رسول سے  
سئ کر کپی ہو گی۔ چنانچہ اگر رسول کا قول اس کے خلاف مل جائے یادوں سے  
صحابی کا قول اس قول کے خلاف ہو تو پھر اس کی حثیت ایک قول ہے  
زیادہ تہیں رہ جاتی پہلی صورت میں تو اس کا قول بالکل ہی کا عدم ہو  
 جاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اس کے ضعف و قوت کا فیصلہ  
اس معیار پر پکھنے کے بعد ہوتا ہے۔

ہمارے فقر میں اختلاف تو زیادہ تر اسی بسب میں ہے کہ ہنگامی  
سائل میں کسی نے صحابہؓ میں سے کسی کے مسلک کو ترجیح دی تو کسی نے کسی  
دوسرے کے مسلک و مذہب کو ترجیح دی۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں ایک کو  
دوسرے پر ترجیح دینے کا سوال سامنے آتے وہاں تنقیدِ ضروری ہے جو  
مختلف اقوال کو لازماً پر کھو کر دیکھنا پڑے گا کہ کس کا قول اقرب ال بصیرات  
ہے لیکن کا نہیں۔

آخر سونپنے کی بات ہے کہ سعید بن مسیتب کیوں اپنے فقر کی نیوار  
حضرت حضرت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے فیصلوں اور حضرت عبد اللہ بن  
عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباسؓ کے فتوویں پر رکھتے ہیں۔ اور اس  
کے بعد علی بن ابی القاسمؓ اپنے فقر کی نیوار حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت  
حلیؓ کے فتوویں اور فیصلوں پر رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ تنقید  
کی کسوٹی پر جانپنے کے بعد سابق الذکر نے مکروہ مذہب کے ذکر و صحابہ کے  
اجتہادات کو اقویٰ پایا۔ اور اسی تنقید کی کسوٹی پر جانپنے کے بعد خدا کو  
نے فخر و اذکر صحابہؓ کے اجتہادات کو احریٰ پایا۔ انتہی۔

دیکھو ائمہؓ کی جماعت اسلامی حق پر ہے؟

جماعت اسلامی کے سربراہوں کی ان تو ضمیمات کے بعد ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ  
”تنقید اور معیارِ حق“ کے مسئلہ میں ان کا موقف کیونکہ غلط ہو سکتا ہے۔ ان کی ان  
ضمیمات سے جو کچھ حقیقت سامنے آجائی ہے وہ بعدینہ وہی حقیقت ہے جو آج سے  
صدیوں پہلے امت کے مشاہیر علماء اور ائمہ محدثین نے پیش فرمائی ہے۔ آپ زیادہ

سے زیادہ ان کے اس مسلک کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھارااتفاق نہیں ہے اور یہم بہر حال صحابہ کی تقلید تو ضروری سمجھتے ہیں خداوند ان کی یہ تقلید کتاب و سنت کے منصوصی احکام کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آپ جو جاہیں اپنا مسلک قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ حق تو آپ کو بہرگز نہیں پہنچ سکتا کہ آپ ایک یہسے نظریہ اور مسلک کو خلافت اور گمراہی قرار دیں۔ جو جہوں علامتے امت کا نظریہ اور مسلک رہا ہے یا کہ سے کہ امت کے اسلامت اور علماء میں سے تو ایک جنم غیر نہ اُسے مسلک کی یقینت سے اختیار کیا ہے۔ اور پر مشکل کی جو تشریع پیش کی گئی ہے اس کی روشنی میں تو یہ مشکل بالکل اجماعی ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی کا قول نہ بجت ہے اور نہ تقابل اطاعت۔ رہے وہ اقوال جن کا خلاف کتاب و سنت ہونا معلوم نہ ہو تو ان کی تقلید میں بھی علمائے امت تتفق ہونے کے بعد اسے آپس میں مخلفت رہے ہیں۔ چنانچہ سابقہ مباحثت میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور جماعت کا مسلک اُن میں سے بعض کے ساتھ بالکل موافق ہے میں نہ معلوم اس مسلک کو بعض بزرگوں نے کوئی معقول ولیل کی بنا پر غلط بلکہ مخلافت قرار دیا ہے؟

میں تو اس مسلک کے متعلق صفات طور پر کہتا ہوں کہ یہ وہ مسلک ہے جس کے متعلق پڑے ہے علمائے اجماع امت تک کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت شانہل اللہ قدس سرہ نے صفات طور پر یہ تصریح فرمائی ہے کہ:

وَقَدْ صَحَّ أَجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَلْمَهُمْ أَوْلَاهُمْ عَنْ أَخْرَهُمْ وَ  
أَجْمَاعُ التَّابِعِينَ أَوْلَاهُمْ عَنْ آخْرَهُمْ وَاجْمَاعُ تَابِعِي  
التَّابِعِينَ أَوْلَاهُمْ عَنْ آخْرَهُمْ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ وَالْمُتَنَعِّصِ

ان یقصد مثیم احمد الی قول انسان مثیم او منت قبلہ  
نیا خدا کا کله۔ اہر رجحۃ اللہ بالغہ ج (صلات)

مداس بات پر تمام صحابہ اور تمام تابعین اور تمام شیع تابعین کا اجماع ہے  
چکا ہے کہ کسی انسان کے قتل کی طرف اگر کوئی آدمی قصد کرے خواہ وہ  
انسان اس کے زمانے کا ہو یا سابق دو گوری میں سے ہو۔ اور اس کی ہر ہتھ  
کو تسلیم کرے تو یہ انتہائی ممنوع اور ناجائز ہے ۷

بہر حال زیر بحث تنقید سے مراد صرف یہ ہے کہ شرعی دلائل کی روشنی میں  
صحابہ کرام اور دوسرے بزرگان دین کے اقوال اور افعال کو دیکھ کر ان میں سے  
بعض کو اس بنابر پر رسول نبایا جائے کہ وہ کتاب و سنت کے احکام کے ساتھ مطابق  
ہیں اور بعض کو اس بنابر پر تزویہ اعمال قرار دیا جائے کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ مطابق  
نہیں بلکہ ان سے مخالف ہیں اور اس معنے کر کے تنقید کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ  
صحابہ کرام یا دوسرے بزرگان دین کی قریبی ہے اور ناجائز ہے، یہ ہمارے نزدیک  
قطعًا غلط ہے۔ اس کو وہی لوگ ناجائز یا تو میں کہہ سکتے ہیں جو تنقید اور تشییں میں  
فرق نہیں کر سکتے سیاہ رسول کے ماسرا اپنے رینی پیشواؤں کی الی فہری غلامی میں  
نبلا ہو چکے ہوں کہ ان کے تمام اقوال و افعال کو ہر قسم کی غلطی سے پاک اور خالی  
مبارجانتے ہوں اور ان سے خطاء و غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں ہے ہوں اور غالباً ہے  
کہ یہ مقام نبی اور رسول کے ماسرا دوسرے افراد امت کو ہرگز تبریز نہیں ہو سکتا۔  
تاریخ ائمہ کو اہ ہے کہ نبی اور رسول کے ماسرا جب بھی اقتضد کے عین پاک باز

نفس اور دینی پیشوائی اور مذہبی مقتدی اول، اور مشائخ و بزرگان دین کے بارے میں غلو  
فی المحبۃ اور افراطی تعلیم کے نزدیم جذبہ کے تحت اس قسم کی بڑی کے تصویرات پیدا  
ہوتے ہیں اور لوگوں میں مذہبی علیشیو اول کے انفرادی احوال و افعال کو تنقید سے  
بالآخر سمجھنے کا خطرناک رجحان پیدا ہوا ہے تو رفتہ رفتہ ان کے ذاتی احوال اور انفرادی  
اعمال نے اصل دین کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اوز ایک وقت پھر ایسا آگیا ہے جس میں  
مشائخ و بزرگان دین کے ذاتی اعمال اور احوال دین حق پر حکمران بن کر دے گئے ہیں پھر  
اصل دین بھی ان کے مقابلے میں چھوڑنا آسان ہو گیا ہے اور نہایت آسان طریقہ  
سے ادیان الہیہ تحریف کے شکار ہو گئے ہیں۔

یہ وہ حقیقت ہے جس سے وہ لوگ توہر گز انکار نہیں کر سکتے جن کو تاریخ ام  
سے کچھ بھی درافتیت حاصل ہو جو مشائخ و بزرگان دین کے احوال کو بھی بخوبی جانتے  
ہوں اور ان کے مریدوں کے احوال کو بھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اسلام نے  
صیارِ حق صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کو مقرر کر دیا۔ اور نبی کے ماسو اسپ کو  
یکسان طریقہ پر یہ حکم دے دیا گیا کہ:- فَإِنْ شَاءَتْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَنَهْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ۔ اور اسی کو ایمان کے لیے ایک کسوٹی قرار دے کر فرمایا گیا کہ: إِنْ  
كُلُّمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَّا خِرَاجَامَ كے لحاظ سے بھی اسی کو مضید اور  
بہتر تباردیا گیا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْدِيلًا۔

یہی وہ چیز تھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری محابت زندگی  
میں امت کے سامنے ایک مشعلی راہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ترکت  
فیکم اصریں لَنْ تَصْلُوا مَا تَسْكُنُ بِهِمَا، کتاب اللہ و سنته رسولہ۔

”میں تم میں دوسری گروں قدر چیزیں چھپ کر خانہ رہوں، جب تک تم ان پر مضبوطی سے قائم رہو گے مگر ابھی کبھی تمہیں لائق نہ ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے محل کی صفت“

”معیارِ حق“ سے کیا مراد ہے؟

مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے اہل علم حضرات اگرچہ صحابہ کرام کے انفرادی اقوال کو تنقید سے بالآخر نہیں بچتے ہیں اور نہ ان کو معیارِ حق نہ تھے ہیں مگر تمام صحابہ کرام کو حق پر حذر رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جس چیز رسم حباہ کرام کا جائز ہو جائے وہ لازماً حق اور حجت ہو گا۔ اور پوری امت کے لیے واجب الاطاعت۔ یہ امر مولانا مودودی کے دریچے ذیل جواب سے واضح ہے جو بعض سوالات کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے:-

”ہمارے نزدیک معیارِ حق سے مراد وہ چیز ہے جس سے مطابقت رکھنا حق ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو۔ اس بحاظ سے معیارِ حق صرف خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ صحابہ کرام معیارِ حق نہیں ہیں بلکہ کتاب و صفت کے معیار پر پورے اُترے ہیں۔ کتاب و صفت کے معیار پر جانچ کر یہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ گروہ برحق ہے۔ ان کے اجماع کو یہم اسی بناء پر حجت مانتے ہیں کہ ان کا کتاب و صفت کی اونی سی خلافت ورزی پر بھی متفق ہو جانا ہمارے نزدیک ممکن نہیں ہے۔“

ذریجمان القرآن۔ رسائل و مسائل جلد ۲۰ ( عدد ۵ )

یہ تمام تفصیل اس بات کے متعلق تھی کہ صحابہ کرام آیا معیارِ حق ہیں یا نہیں ہیں۔

اور ان کے انفرادی اقوال اور اجتہادی قیمتیں تعمید سے بالاتر ہیں یا نہیں ہیں؛ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جماعتِ اسلامی سے مسلم اہل علم کے نزدیک آثارِ صحابہ کسی درجے میں بھی قابلِ اعتبار نہیں ہیں۔ یا اُن سے دینی مسائل میں استشہاد اور استدلال کا کام نہیں لیا جاسکتا ہے۔

جو لوگ جماعتِ اسلامی کے ٹیکپر سے واقفیت رکھتے ہیں یا مولانا مودودیؒ کی تصانیع کا مطابعہ کر چکے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دین کے مختلف مسائل میں کتاب و سنت کے بعد آثارِ صحابہ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ بلکہ انہوں تابعین و ائمہ محدثین و مجتہدینؒ سے بھی مختلف مسائلِ حیات میں اسلام کا نظریہ پیش کرنے میں استشہاد کرتے ہیں کیونکہ ان سے امت کی وقت بھی مستحقی نہیں ہو سکتی۔ یہ سارا ذخیرہ استدلال سب سے زیادہ قسمی سرمایہ ہے جس سے کسی حالت میں بھی ہم یہ نیاز نہیں ہو سکتے کہ جو کچھ ہے وہ صرف اس امر میں ہے کہ آیا صحابیؓ کا ہر قول و فعل بجا تے خود کتاب و سنت کی طرح ہر حالت میں واجب الاتباع ہے، یا اُسے انداز کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتاب و سنت کے کہاں تک مطابقت رکھتا ہے؟ جماعتِ اسلامی کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ صحابہ کر ائمہ کے آثار یا تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوالِ لائقِ اتباع اور قابلِ تعمید اس وقت ہیں جبکہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ مطابق ہوں نہ کہ مخالف۔ ورنہ مخالفت کی صورت میں کتاب و سنت ہی پر عمل و رأی متعین ہو کا۔ اور آثارِ صحابہ یا اقوالِ تابعین و ائمہ مجتہدین ان کے مقابلے میں قابل عمل اور لائق اطاعت نہ ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ اور مسلم ہے جو تمام امت نے بالاجماع تسلیم کیا ہے اور کسی نے اس سے انکار نہیں کیا ہے۔

# باب پنجم

# مسئلہ وجہ

حضرت مولانا سید ابوالا علی صاحب مودودی اور دو رجاء حاضر کے بحق مخصوص تغیر کے حامل علا شی کرام کے مابین جو مسائل زراعی ہیں اور جو اصولی مسائل کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ وجہ کا بھی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی مولانا مودودی کی فاتح گرامی کو کافی حد تک مطہر کرنے کی کوششیں الگ ہیں۔

قبل اس کے کہ میں اس مسئلہ میں مولانا مودودی کی وہ تحقیقی پیش کروں جو متعارض سوالات کے جواب میں مولانا نے پیش کی ہے اور جس پر ان مخصوص علا شی کرام کی طرف سے اغراضات یکے گئے ہیں، میں مفید اور مناسب تجھہ ہوں کہ پہلے اس مسئلہ کے متعلق علا شی سلفت کی وہ علمی تحقیقات و تصریحات پیش کروں جو ان کی تصادیت میں مسئلہ متعلقة کے بارے میں ہتی ہیں۔ پھر ان کی روشنی میں مولانا مودودی کی تحقیقی اور مقرضین حضرات کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا تحقیقی جائزہ لوں اور یہ معلوم کرو کہ اس مسئلہ میں دونوں گروہوں میں سے کہناگر وہ حق بجا نہ ہے اور کس کا سلک علا شی سلفت کے سلک اور آن کی تحقیقات کے موافق ہے؟

## لفظ درجات کے معنے

درجات - درجات کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور دجل سے ماخوذ ہے جس کے معنے کسی چیز پر درجہ دوں کر چکا ہاں میں جو شخص زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، اس کو بھی درجات اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ سچی ہاتھ پر جھوٹ کا پردہ دوں دیا ہے اور شرعیت میں درجات ہر اُس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دلیل سے منصب کا دعویٰ کرے جس پر اس کا فائز ہونا شرعیت کی صورت سے ممکن اور ناممکن ہو۔ حافظہ ابن حجر رحمہ اللہ عزیز نے لفظ درجات کے معنے پیان کرتے ہوئے فرمایا ہے :

هو فعال بالتشديد من الدجل وهو المغطية و  
سمى الکذاب درجات لأنّه يغطي الحق بباطل ... وقال  
ابن دسید سمي درجات لأنّه يغطي الحق بالكذب

فتح الباری ج ۱۳ ص ۷۹

مد درجات ضلال مشدود کے وزن پر ماخوذ ہے دجل سے، اور دجل کے معنے پر دوسرے میں کسی چیز کو چھپانا ہیں۔ زیادہ جھوٹے آدمی کو بھی درجات اس بیان سے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے پردے میں چھپا رہا ہے۔ ابن دریڈ نے کہا ہے کہ درجات کو بھی درجات اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ وہ حق کو جھوٹ اور باطل کے پردے میں چھپا رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن جھوٹے مدعاوں نے ثبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی چونکہ جھوٹ اور باطل کے پردے میں حق بات کو چھپا رہا ہے اس لیے ان کو بھی حضرت نے درجات میں قرار دیا ہے۔ اور سب سے اخیر میں جو بڑا درجات

آئے گا چونکہ وہ بھی سب سے بڑے حق کو چھپائے کا یعنی خدا کی اُولتیت کو، اس لیے  
اس کو بھی سب سے بڑا دجال، الدجال الکبر کہا گیا ہے۔

نقطہ دجال کے معنی کے علاوہ بھی ائمۂ حدیث نے دجال سے متعلق کئی تحقیق  
جلد امور رضیمیں بحث فرمائی ہیں لگر مقصد کے لحاظ سے ہم یہاں ان میں سے درج  
زیل پانچ امور کی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جس مسئلہ کی تحقیق پیش  
کرنا مقصود ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر انہی پانچ امور سے ہے۔ اور انہی  
کی تحقیق سے اصل مسئلہ کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی۔ وہ پانچ امور  
یہ ہیں:-

۱۔ دجال کا وجود،

۲۔ صفاتِ دجال،

۳۔ شخصیت،

۴۔ مقامِ خروج

۵۔ زمانہِ خروج۔

ان پانچ عنوانات پر آئندہ صفحات میں بحث کی جائے گی۔ اور احادیث نبویہ  
سے ان پانچ امور کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ زیل میں ان پندرہ ارجحیت کی جاتی ہے  
وجال کا وجود اور صفاتِ وجال

روایات اور احادیث نبویہ سے وجال کے متعلق جو چیزیں تقیینی طور پر ثابت  
ہیں اور جن کو تمام اہل الحدیث نے بطور عقیدہ تسلیم کیا ہے وہ متعدد چیزیں ہیں۔  
جن میں سے ایک یہ ہے کہ وجال قیامت کے قریب ایک معین شخص کی صورت میں

ظاہر ہو گا، جو امت میں ایک عظیم فتنہ پر پا کرے گا اور اس کی وجہ سے امت ایک عظیم آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ پھر حضرت عیینہ اسلام اس کو اُک قتل کر دیں گے۔ دوسری چیزوں جو تفصیل طور پر احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں اور جن پر تمام اہل استہ متافق ہیں۔ وہ وجہ کی وہ صفات ہیں جو اس کی پچان کے لیے بطور علامات احادیث اور روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ حافظ این حجر رحمہ اللہ نے احادیث وجہ کی شرح میں ان چیزوں کو درج ذیل عبارت میں ذکر کیا ہے۔

فَالْعَاصِي عَيَاضٌ فِي هَذِهِ الْأَهَادِيْثِ حَمْدَةُ الْأَهْلِ  
السَّتَّةُ فِي صَحَّةِ وَجْدِ الدِّجَالِ وَإِنَّهُ شَخْصٌ مُعِينٌ يُبَتَّلُ  
أَنَّ اللَّهَ بِهِ أَعْبَادٌ وَلِقَدْرِ عَلِيٍّ أَشْيَاءُ كَا حِيَا وَالْمِيتُ الَّذِي تُقْتَلُهُ  
وَظَهُورُ الْخَصْبِ وَالْأَنْهَارِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ... ثُمَّ يُقْتَلُهُ  
عِيسَى بْنُ مَرْيَمُ أَهْدَى دُرْتَنْجَةُ الْأَكَارِيِّ بَحْرِ ۱۳ ص ۸۹-۹۰

عاصی عیاض نے کہا ہے کہ ان احادیث میں اہل استہ متافق کے لیے جنت ہے اس بات پر کہ وجہ کا وجوہ ثابت ہے۔ اور یہ کہ وہ ایک معین شخص کی صورت میں ظاہر ہو گا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالے گا۔ اور چند چیزوں پر اس کو قدرت بھی دے گا۔ جیسا اس نتیجت کر زندہ کرنا جس کو دوسرے وقت قتل کرے گا۔ یا غلطی کی ارزانی کا ظہور۔ یا بہر ویں کا بہنا اور جنت و روزخ کا اس کے ساتھ ہونا پھر اس کے بعد حضرت عیینہ اسلام آگر اس کو قتل کر دیں گے۔

رجایہ! کہ وہ کن کن صفات کا حامل شخص ہو گا، تو معتبر روایات اور صحیح اخواز

سے دجال کی جو صفات معلوم ہوتی ہیں، وہ اگرچہ بہت ہیں مگر ان میں سے دس صفات ایسی ہیں جو زیادہ مشہور ہیں اور صحیح روایات سے ثابت ہیں ہیں۔ یہ دس صفات اور دجال کا درجہ دو لیے امور میں جن میں صحیح احادیث باہم متعارض نہیں ہیں جس سے یقینی طور پر یہ ثابت معلوم ہوتی ہے کہ ظہورِ دجال اور صفاتِ دجال کے متعلق حضور کے حوار شارات ہیں، وہ سب کے سب علیمِ حق پر مبنی ہیں اور وحی الٰہی نے ان دونوں میں امت کی پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہورِ دجال اور اس کی صفات کو قائم اہلِ استئنہ تے بطور عقیدہ تسلیم کیا ہے اور کسی نے ان میں اختلاف ظاہر نہیں کیا ہے۔ ذیل میں دجال کی دس صفات اور ان پر مشتمل روایات ذکر کی جاتی ہیں جو بخاری، مسلم اور دوسرے صحاح میں مردی ہیں۔

صحیح احادیث اور مستند روایات میں دجال کی حدیح ذیل دس صفات وارد ہوئی ہیں جو امت میں مشہور ہو چکی ہیں:

(۱) آغور دکانما۔ (۲) آخر دن رخ زنگ کا۔ (۳) پیشانی پر کفت۔ (۴) کافر بخاہڑا ہو گا۔ (۵) عویزہ میں داخل نہ ہو گا۔ (۶) رین بارہ نہیں میں خردخچ دجال پر زلزلہ آئے گا۔ (۷) ایک نیک آدمی کو قتل کر کے پھر اس کو زندہ کرے گا۔ (۸) کھان پینے کا سامان ساتھ ہو گا۔ (۹) حبیت و دوزخ کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی۔ (۱۰) چالیس دن کا دورہ کرے گا۔ (۱۱) اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اگر قتل کریں گے تو رنگ عشر تک کاملہ۔

جن صحیح احادیث اور مستند روایات میں پہ صفات وارد ہوئی ہیں ڈیج ذیل ہیں:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنَ عَمْرٍ عَلَى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الناس فاشتى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال

اَنِي لَا نذِرْ كُمْرَةٍ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ رَبَّ قَوْمِهِ وَلَكُنِي  
ساقول بِكُمْرَفِيهِ قَوْلًا لِمَرْ يَقُولُهُ نَبِيٌّ لِعَوْمِهِ إِنَّهُ لَعُوْمَانِي اللَّهُ لَبِسْ بِالْعُوْرَ رَجَارِيُّهُ

”دریں عمر“ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کے ایک مجھ میں حضور پیر مسیح  
تقریر کھڑے ہو گئے۔ خدا کے لیے اس کی شایانِ شانِ حمد و شکر کے بعد آپ نے  
دجال کا ذکر کرتے ہو قریباً کہ میں تھیں منتشر دجال سے فروتنے ہوئے آکاہ کرنا  
ہوں اور ہر بی بی نے اپنی قوم کو اس سے خبردار کیا ہے۔ لیکن میں اس کے بارے  
میں تم کہ ایسی بات بتاؤ تھا جو کسی بی بی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ یہ کہ  
دجال کا نام ہرگز کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔“ رہنماء ہمیں اسکے فریب ہیں آکھا چکتا  
اس روایت میں ملک کی صفت بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ دجال اور دکان اور گا۔

۱۲، عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال بيتأنا نائم اطوف بالکعبۃ فاذارجل ادم قدست من هذا

قالوا ابن هریث مرد هبت المفت فاذارجل جسم احر ...

اعور العین کان عبته عنبیۃ طافیۃ قالوا اهذا الدجال رنجاری؟

”ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں  
ذکر چاکر میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں کہ ایک شخص سے اچاک پیری  
ملقاہت ہوتی جو گندم گون تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ فرشتوں نے  
کہا کہ یہ علیسی این مریم ہیں۔ پھر میں نے ادھر اور دیکھا تو ایک موٹے سرخ  
نگک کے کانے پر نظر پڑی جس کی آنکھوں مگر کے انجھرے ہوئے داشتی

مانند تھی۔ دیپرے دریافت کرنے پر، فرشتوں نے مجھے کیا کہ پہنچانا؟  
اس روایت میں ملکی صفت کے ساتھ ملک صفت بھی بیان ہوئی ہے وہ  
یہ کہ دجال راجحہ، شرخ زنگ کا ہو گا۔

وَمَنْ عَنْ أَنْشَقَ قَالَ قَالَ الَّذِي حُصِّلَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانِثُ

بَنْجِي الْأَنْذِرِ رَامِتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَابُ الْأَانِهُ أَعْوَرُ وَإِنْ رَبِّكُمْ  
لَبِسٌ بَاعْوَرُ وَإِنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَا فَرْ... (بخاری)

”حضرت انسؑ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی شی بسوٹھیں  
کیا گیا ہے۔ مگر اس نے اپنی اشت کرجھوٹے کا نے دجال ڈرا کر خبردار  
کیا ہے۔ یاد رکھو دہ دجال کا نا ہو گا۔ اور آپ کا رب کانا نہیں ہے  
نیز دجال کی پیشائی پر فقط کافر بھاہو ہو گا“

مکتوب بین عینیہ ک۔ ف۔ ردِ سلم

مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ دجال کی پیشائی پر کافر بھاہو ہو گئے  
اس روایت میں مندرجہ بالا دس صفات میں سے ملک صفت کے ساتھ د  
کی صفت بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ دجال کی پیشائی پر کافر بھاہو گا۔

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ

رَعِيبُ الْمَسِيحِ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلْكًا... (بخاری)

”ابو بکرؓ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں  
دجال کا عیب را خل نہ ہو گا۔ اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہو گئے  
اور ہر دروازے پر دفتر شستہ پہرہ دار ہٹڑے ہوں گے۔“

عن انس بن مالک قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْبِي  
الدِّجَالَ حَتَّى يَنْزَلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ الْمَدِينَةَ ثُلُثَ  
رِجَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ۔ (رجاری)

”انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ دجال مدینہ کی لیک  
جانب میں آ کر اتریگا۔ اس کے بعد مدینہ سورہ ہیں تین دفعہ زلزلہ آئیگا۔  
پس جو بھی اس وقت مدینہ میں کافر و مُنافق ہوئے وہ مدینہ سے نکل کر  
دجال کے ہمراہ ہو جائیں گے۔“

ان روتوں روایتوں میں بالترتیب مگا اور دھ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی ایک  
دجال مدینہ میں داخل نہ ہوگا۔ اور جب وہ مدینہ کی ایک جانب میں نزول کرے گا تو  
تین بار اس میں زلزلہ آئے گا۔

ر، عن أبي سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  
يوماً حدثنا أبو طويلاً عن الدجال مكان فيما يجد شتا به انه قال  
يأتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينة  
فينزل بعض اسباخ التي تدل المدينة فيخرج اليه يوصى  
رجل وهو خير الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي  
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فيقول الدجال  
ارأيت ان قتلت هذه اتم احياته هل تكون في الامر  
فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فني  
اشد بصيرته من اليوم فيزيد الدجال ان يقتل فلا يلطف عليه۔ (رجاری)

”ابو سعید خدیجیؓ پہنچتے ہیں کہ ایک دن ہم کو حضور نے دجال کے متون  
ایک بھی حدیث بیان فرمائی جس میں آپؐ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دجال کو زندگی  
ہو گا مگر مدینہ میں اس کا داخلہ محروم ہو گا۔ پس باہر مدینہ کے قریب ایک  
پتھر پل زمین میں اُترے گا۔ اہل مدینہ میں سے اس وقت ایک سب سے  
زیادہ نیک آدمی اس کے مقابلے کیسے نکلے گا اور اس سے کہنے کا کہ خدا  
کی قسم تو وہی دجال ہے جس کا قصہ ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے  
بیان فرمایا ہے اس پر جال اپنے فتوحوں کے لئے کام کریں اگر اس کو قتل کر کے پھر اس کو زندگی  
کرو گا تو پھر بھی تم میرے معاملہ میں نکل کر فٹے گے، لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ تو دجال اس کو  
قتل کر کے پھر اس کو زندگی کر گا مگر وہ نیک شخص کہنے کا کہ خدا کی قسم آج سے دجال نے  
پر میرا تیعنی اور بھی متحكم ہو گی ویساں پھر اسے قتل کرنے کا ارادہ کر گا مگر قتل نہ کر سکے گا۔  
اس بارے میں ابو ہریرہؓ اور رافیٰ بن مالک کی جو روایتیں امام بخاریؓ نے  
نقل کی ہیں ان میں صاف طور پر یہ الفاظ آئے ہیں :-

عَلَى افْتَاقِ الْمَدِينَةِ مُهَمَّكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا  
الدِّجَالُ - اورَ إِنَّ الْمَدِينَةَ يَا تِيمَةَ الدِّجَالِ فِي حِجَّةِ الْمُذْكُونَ  
يَحْرُسُهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدِّجَالُ - (بخاری باب لا يدخل المدینۃ الدجال)

”یعنی مدینہ کے دروازوں پر فرشتے بطور پھرہ دار کھڑے ہو کر مدینہ  
کی حفاظت کریں گے تو طاعون بھی اس میں داخل نہ ہو گا اور دجال بھی  
جب آئے گا تو دیکھے گا کہ فرشتے نگرانی کیلئے ہوئے ہیں تو مدینہ میں داخل نہ ہو سکتا ہے  
ان روایات میں مذکورہ بالا دس صفات میں سے دو صفتیں ضریع طور پر  
مذکور ہیں ایک یہ کہ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور دوسری یہ کہ وہ اس

وقت کے ایک نیک آدمی کو قتل کر لیا اور بھروس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اُسے زندہ کر دیگا۔

عن مجاهد قال أطْلَعْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّن الْأَنْصَارِ قَبْلَنَا  
حَدَّثَنَا إِمَامًا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي الدُّجَالِ فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: تَنْظَرُ الْأَرْضَ وَلَا يَنْبَغِي  
إِلَى الشَّجَرِ وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُكَ جَنَّةٌ وَرَحْيَتَهُ نَارٌ وَمَعَهُ  
جَبَلٌ خَيْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَهُ دُجَالٌ الْخَيْرُ وَالْجَهَنَّمُ الْمَاءُ وَرَاحِمٌ  
دِبْحُونَ اللَّهُ قَطْعَ الْبَارِي (ج ۱۳ ص ۷۷)

”مجاہدؓ کا بیان ہے کہ ہم ایک انصاری صحابیؓ کے پاس گئے اور ان  
سے یہ کہا کہ حضورؐ سے دجال کے بارے میں تم نے جو کچھ سنا ہو وہ ہم سے  
بیان کرو۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں دجال کے مستقبل یہ  
ذکر تھا کہ اس وقت زمین پر باشیں تو خوب بر سینیں گی مگر زمین کی پیلوں  
نہ ہوگی اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے۔ مگر دوزخ جنت ہوگی  
اور جنت دوزخ ہوگی۔ غلطہ بھی اس کے پاس بچشت ہو گا۔ دوسری ایک  
روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ پہاڑ کی مانند غلطہ کے دھیر ہوں گے۔  
اور نہریں بھی پانی کی اس کے ساتھ ہوں گی۔“

اس روایت میں دش صفات میں سے عکا اور عک کی دو صفتیں بیان ہوتی  
ہیں۔ ایک یہ کہ دجال کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو گا۔ دوسری یہ کہ جنت اور  
دوزخ کی نعموری بھی ساتھ ہوں گی۔

۸۸) عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله

علیہ وسلم الدجال فقال إن يخرج وانا نیکم فانا حججه اهداه خادم  
دونکر وان يخرج ولست نیکم فامرأ حججه نفسه را لله  
خليفة على كل مسلم قلنا دعاليته في الارض قال  
اربعون يوماً... ثم ينزل عيسى بن هریث عليه السلام  
فيقتله۔ والبوداود۔ پابپ خروج الدجال،

حدیث عیسیٰ بن مسیح عمان کہتے ہیں کہ حضور نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا  
کہ اگر وہ میری مجرم رک میں ظاہر ہٹا تو میں خود اس کا مقابلہ کروں گا۔  
لیکن اگر وہ میرے بعد ظاہر ہٹا تو ہر شخص کو بطور خود اس کا مقابلہ کرنا  
پڑے گا۔ اور اللہ ہی میری طرف سے ہر مسلم کا محافظ رہے گا یہ نے  
عرض کیا کہ دجال یہاں کتنی مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ چالیس دن۔  
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اُزکر اُسے قتل کریں گے۔  
اس حدیث میں دنی صفات میں سے آخری در صفتیں بیان ہوتی ہیں۔  
ایک یہ کہ دجال چالیس دن کا دورہ کرے گا۔ دوسری یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
اُسے قتل کریں گے۔

یہ وہ صحیح اور مستند روایات ہیں جن میں دجال کی دنی مشہور صفات بیان کی  
گئی ہیں۔ یہ روایات اگرچہ اکثر بخاری گی ہیں مگر صفات کے بارے میں دوسری  
تمام کتب حدیث میں چور دو ایسیں آئی ہیں وہ بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ تمام  
روایتوں میں دجال کی یہ صفات بیان ہوتی ہیں۔ اگرچہ کسی روایت میں کم کا ذکر آیا  
ہے اور کسی میں زیادہ کا۔ کسی مبتدی کے تفاوت کے علاوہ اصل صفات میں کوئی

اختلاف ان کے درمیان نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی مکمل علامت ہے کہ خوبصورتی  
اور صفاتِ دجال کے بارے میں حضور کے ارشادات علمی وحی پر مبنی ہیں اور کسی گمان  
اور اندازیہ کا اس میں کوئی داخل نہیں ہے۔

### دجال کی شخصیت

رمایہ امر، کہ مذکورہ بالادس صفات کا حامل شخص ہو گا کون؟ آیا وہ کوئی ایسا  
شخص ہو گا جو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے، مذکورہ اس کا تعین ہو سکا ہے، بلکہ قیامت  
کے قریب ظاہر ہو گا اور ان مذکورہ صفات کا مظہر ہو گا۔ یادہ کوئی معین شخص  
ہے، جو حضور کے زمانے میں پیدا ہو کر پھر روپوش ہو گیا ہے۔ یادہ کسی جزیرے میں  
ابھی مقید ہے۔ اور جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت جزیرے سے باہر اگر  
امتحنت میں فتنہ و فساد پھیلاتے گا۔ یا اگر روپوش ہو گیا ہو تو اس وقت ظاہر ہو  
جائے گا۔

(( ترجمان تک حاویت اور روایات کا تعلق ہے اُن سے دجال کی شخصیت کے  
بارے میں اس بات کا کوئی قطعی فیصلہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اونہ اس بات کا تعینی  
علم حاصل ہو سکتا ہے کہ دجال حضور کے زمانے کا کوئی معلوم اور معین شخص تھا جو بعد  
میں روپوش ہو گیا ہے۔ اور قیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔ یادہ آج کہیں مقید ہے  
اور جب اس کے ظہور کا وقت آئے گا تو آناد ہو کر دنیا میں فساد پھیلاتے گا۔  
اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا ہے۔  
بلکہ دجال کے بارے میں مجموعہ روایات سے جو بات تھی معلوم ہوتی ہے وہ ہے  
یہ ہے کہ دجال قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے اور جب

قیامت قریب آجائے گی اس وقت دوسری علامات کی طرح دجال بھی ایک معین شخص کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اور مندرجہ بالا نئے صفات کا حامل ہو گا۔ لیکن یہ کہ حضور نے اپنے زمانے کے کسی معین شخص کے پارے میں یہ فرمایا ہو کہ یہی شخص دجال اکبر ہے جو بعد میں ظاہر ہو کا تو روایات سے اس طرح کا کوئی قطعی فیصلہ معلوم نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر امت کو ازروے شریعت اس بات کا مکملت بنایا گیا ہو کہ اسی معین شخص کے پارے میں وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہی شخص دجال اکبر ہے لور پھر اس عقیدے کو اسلامی عقائد میں شمار کیا گیا ہو۔

یہی وجہ ہے کہ دجال کی شخصیت کے متعدد علمائے سلف بھی کسی ایک فیصلہ پر تتفق نہیں ہوئے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر انہوں نے کسی ایک معین شخص کے پارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہی شخص آنے والا دجال اکبر ہو گا۔ بلکہ وہ اس پارے میں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں چنانچہ آگے چل کر جہاں مذاہب سلف بیان کیے جائیں گے۔ دجال یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ سلف اسی معاملے میں کسی ایک فیصلہ پر تتفق نہیں ہیں۔

روایات اور علمائے سلف کا یہ اختلاف خود تبلارہا ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصیت دجال کے منتعل وحی الہی کے ذریعے کوئی قطعی علم نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اس پارے میں تہ روایات میں ناتایلی تطبیق تعارض ہوتا اور نہ علمائے سلف کے مابین اس قدر شدید اختلافات پڑتے جاتے۔ لیکن کہ وحی الہی میں ناتایلی تطبیق تعارض ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اسلام کے اعتقادی اور بنیادی مسائل میں سلفوں کے مابین اختلافات رونما ہو سکتے ہیں۔ بلکہ وحی کے ذریعہ سے حضور کو جو علم دیا گیا تھا۔ وہ

صرف صفات کا علم تھا تو جس شخص کے بارے میں کسی وقت آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں دجال اکبر کی اکثر صفات پائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے دجال ہونے کا خیال اور اندریشہ ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح جب دوسرا سے وقت کسی دوسرے شخص کے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں دجال اکبر کی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس وقت اس کے بارے میں یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ شاید یہی دجال اکبر ہو۔ — ذیل میں ہم تمام وہ روایات ذکر کرتے ہیں جن میں بعض بعض ائمہ ص کے متعلق دجال ہونے کا خیال اور اندریشہ ظاہر فرمایا گیا ہے۔ پھر ان سے محدثین نے جو تلفیخ افادہ کیے ہیں اُن کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ آیا ان سے کسی خاص اور معین شخص کے بارے میں یقینی نیصدہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ہے یا نہیں؟

### ابن صیاد

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ الْمَنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتَ جَابِرَ إِنَّ عِبْدَ اللَّهِ يَحْلِفُ بِأَنَّهُ أَنِّي أَنْتَ الصَّيَادُ الدَّجَالُ قَلَتْ تَحْلِفُ بِأَنَّهُ قَالَ أَنِّي سَمِعْتُ عُرْبَةَ يَحْدُثُ عَلَى ذَاكَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمْ بِيَنْكَرُهُ الْبَنِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بخاری)

”محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے خود کیا ہے کہ حضرت جابر فدا کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ : ابن صیاد ہی دجال ہے“ میں نے کہا کہ تم خدا کی قسم کیوں کھلتے ہو؟ جابر نے کہا کہ میں نے حضرت عمرؓ سے سنا ہے کہ وہ حضورؐ کے سامنے ابن صیاد کے دجال ہونے پر قسم کھاتے تھے۔ اور حضورؐ

اس پر انکار نہیں فرمائے تھے ۴

اخرج عبد الرزاق بسنند صحيح عن ابن عمر قال لقيت  
 ابن حميداً ذا عبيدة قد طفت قلت صلي طفعت عبيداً  
 قال لا ادري والرحمن عللت كذبت لا تدرى وهى في رأسك  
 فمسحها ونثر ثلاثاً... فذكرت ذلك لحفصة فقالت  
 حفصة اجتنب هذه الرجل فانما يتحدث ان الدجال  
 يخرج عند تضليله يغضبهـ انتهى رفتح الباري (ج ۱۳ ص ۲۰۷)  
 وعبد الرزاق نے ابن عمر سے یہ سند سیح یہ روایت نقل کی ہے کہ  
 ابن حمید سے میری ملاتت ہرثی پس میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ کی  
 بنیاتی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا یہ کب ختم ہوتی ہے۔ کہنے لگا۔ رحیم  
 کی قسم بمحض عدم نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا۔ تمہیں علوم  
 کیسے نہیں، درآنخایکہ آنکھ تیرے سر میں ہے پس اس نے تین دفعہ زور سے  
 سانس نکال کر اس پر با تھپڑ پھیر لیا۔ میں نے حفصۃؓ سے یہ واقعہ بیان کر  
 دیا تو حفصۃؓ نے مجھ سے کہا کہ اس شخص کو نہ پھیرو۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ  
 درجہ اس وقت ظاہر ہو گا جبکہ اُسے عصمتہ میں ڈالا جائے۔  
 عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما شک ان  
 المیم الدجال ابن حمیدـ رابو راوی صحیح (ج ۲ ص ۵۹۵)  
 ونافع گفتہ ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات میں فرو رابر  
 بھی شک اور تردید نہیں ہے کہ درجہ خاص ابن حمید ہے ۵

ان تینوں روایتوں میں یہ بات بصیر احمد ذکر کی گئی ہے کہ حضرت عمرؓ جابر رضی اللہ عنہ اپنے عصر میں اپنے مسیح دجال کے بارے میں یہ تھا کہ وہی مسیح دجال ہے۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرامؐ کی جماعت میں چند ایسے حضرات ملئے ہیں جو ابن صیاد کے بارے میں یہ پختہ تفہیم رکھتے تھے کہ وہ دجال اکبر ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابوذر گورا دوسرے عبد اللہ بن مسعودؓ میں مسند الامام الحنفیؓ میں یہ موقوف حضرات اسی بات کے متعلق بیان کیے گئے ہیں کہ ابن صیاد ہی دجال اکبر ہے۔ چنانچہ اسے اس کا ذکر کئے گا۔

لیکن صحابہ کرامؐ کے اس خصیصے کی بیان ابن صیاد کے بارے میں حضور کا کوئی تکمیل فہیم نہیں تھا۔ بلکہ مررت یہ امر تھا کہ دجال اکبر کی جو صفات حضور کی زبانِ مبارکہ سے سنی گئی تھیں، ان میں سے بعض صفات ابن صیاد کے اندر پائی جاتی تھیں یا بعض اوقات جب ابن صیاد کے بارے میں کسی نے دجال ہونے کی پختہ راستے ظاہر کی ہے۔

تو حضور نے تردید کی بخاطر اس برخامرثی اختیار فرمائی ہے۔ جس سے ان بعض صحابہ کرام کو ابن صیاد کے بارے میں پختہ تفہیم حاصل ہو گیا تھا کہ وہی شخص دجال اکبر ہے۔

وہ نہ مرفوع روایات میں ابن صیاد کے متعلق حضور کا کوئی قطعی فہیم موقول نہیں ہے بلکہ اس بارے میں مرفوع روایات آتھائی خاموش ہیں۔ الجملہ اس کے بارے میں حضور نے بعض موقوف پرشک کا اظہار حزور فرمایا ہے۔ چنانچہ جب ایک وقت حضرت عمرؓ نے اس کے قتل کا ارادہ ظاہر کر دیا تو اپنے فرما یا۔ ان یکن ہوال دجال فلن تسلط علیہ و ان لا سکن فلا خیر قی فتدہ را بوداؤ۔ ۷۲۹۰ھ

و اگر ابن صیاد ہی وہ مصروف دجال ہو، تو اُسے قتل نہ کر سکو گے۔ اور اگر یہ وہ مصروف دجال نہ ہو تو اس کے قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ۷۴۰۶۰ھ

ہیں کہ ابن صیاد کے درجاتِ اکابر میں نے پر حضور کو خیز اور لقینی نہیں تھا بلکہ آپ اس کے متعلق متعدد تھے کہ یہ معرفت درجاتِ اکابر ہے یا کہ نہیں ہے۔

### جزیرہ سے میں قیدی شخص

یہاں تک جو روایتیں ذکر کی گئیں ہیں وہ روایات ہیں جن سے ابن صیاد کا درجہ اکابر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ زیل میں فاطمہ بنت قیس کی وہ حدیث ذکر کی جاتی ہے جس میں ایک مقیدی انجزِ شخص کا ذکر کیا گیا ہے۔

عَنْ فَاطِمَةِ بَنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَذَكَرَ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَ رَكِيبُ الْمَسْفِينَةِ مَعَ ثَلَاثَتِينَ رِجَالًا مِنْ قَوْمِهِ تَلَعَّبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا ثَلَاثَةَ نَزَلُوا إِلَى جَزِيرَةِ فَلَقِيَاهُمْ دَابَّةً كَثِيرَةَ الشَّعْرِ فَقَاتَتْ لَهُمَا نَاسًا لِجَسَاسَةَ وَدَلَّتْهُمْ عَلَى رَجُلٍ فِي الدِّيرِ قَالَ فَانْطَلَقْتَنَا سَرَاعًا حَدَّدَنَا الدِّيرُ فَأَذَا نَيْمَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ رَأَيْتَا لِقَطْنِيَّ خَلْقَهُ وَأَشْدَهُهُ وَعَنْ قَاتِلِهِ مَحْرُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عَنْقِهِ يَا الْجَدِيدِ فَقَلَنَا وَرِيدَكَ مَا أَنْتَ قَالَ إِنَّا مُسِيمُ الدِّجَالِ وَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَرُدَّنَ لِي فِي الْخَفْرِ رِجْ قَالَ إِنَّمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ وَبَحْرِ الْيَمَنِ لَا يَلِ مِنْ قَبْلِ الْمَشْرُقِ وَمَا بَيْدَهُ إِلَى الْمَشْرُقِ۔ اهـ

رسلمؓ ابو داؤد

«فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضرتؐ نے ایک رفعہ خطبہ دیا جس میں

آپ نے فرمایا کہ تمیم داری اپنی قوم کے قیس افراد کے مہراہ ایک کشتی میں سوار ہوتے تھے۔ اور ایک ماہ تک دریا کی طغیانی کی وجہ سے دریا ہی میں چکر کاٹتے رہے۔ پھر ایک جزیرے میں آتر گئے جس میں ایک جوان نے ان کی ملاقات ہوئی جس کے پدن پر بال بہت زیادہ تھے۔ اس جیوان نے اُن سے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں۔ اور ایک آدمی کی بھی نشان دہی کی جو ایک گرجے میں تھا۔ تمیم نے کہتے ہیں کہ تم جلدی سے گرجے میں پہنچے۔ اس میں ایک موٹے مضبوط آدمی کو ہم نے لوہے کی مضبوط زنجروں میں حکمر، ہٹوار کیجا ہنس کے دنوں ہاتھ گردن کے ساتھ زنجروں سے باندھ کر تھے۔ ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں یعنی دجال ہوں اور بہت جلد پہنچنے کی اجازت ملے گی۔ حضور نے فرمایا کہ: دجال بھرتا میں ہے یا بھرمن میں نہیں، بلکہ وہ شرق کی جانب سے نکلے گا۔ اور اتنے سے آپ نے شرق کی طرف اشارہ فرمادیا۔“

تمیم داری کی اس روایت کی بنیاد پر بعض صحابہ کرام کی راستے یہ تھی کہ دجال اکبر ہونے کی راستے ظاہر فرمائی تھی۔ اس کی بنیاد پر یہ راستہ تھی کہ حضور نے مخصوص فی الجزرہ کے بارے میں دجال اکبر ہونے کا کوئی قطعی فیصلہ فرمایا تھا بلکہ صرف یہ امر تھا کہ دجال اکبر کے متعلق حضور کو جن صفات کا علم دیا گیا تھا۔ اس

قیدی شخص کی اکثر صفات ان کے موافق تھیں، تو صفات کی اس باہمی متوافقت اور توافق کی وجہ سے حضور نے اس مقیدی فی الجزیرہ شخص کے بارے میں دجال کیہ ہوئے کا زیادہ اندیشہ اور قوی خطرہ ظاہر فرمادیا تھا کہ حضور نے اس کو لفظی طور پر آنے والی فتنہ پر دجال الکبر قرار دے دیا تھا۔ ورنہ پھر اس کے بارے میں نہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف ملکی تھا۔ اور نہ ان کے بعد انہم، محدثین کے مابین۔ حالانکہ صحابہ کرام کی طرح بعد کے آئندہ حدیث بھی شخصیت دجال کے بارے میں باہمگر مختلف ہیں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت دجال کے بارے میں حضور کو بذریعہ وحی کوئی علم نہیں دیا گیا تھا جو کچھ علم اس کے بارے میں آنحضرت کو دیا گیا تھا۔ وہ صرف یہی تھا کہ دجال ایک شخص ہو کا جو فیاضت کے قریب ظاہر ہو گا۔ اور اس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ اور اقتدار کے بیسے بڑے فتنے کا باعث ہو گا۔"

### اختلاف روایات کا نتیجہ

احادیث اور روایات کے اختلاف ہی کا نتیجہ ہے کہ دجال کی شخصیت کے بارے میں علمائے سلف ایک مرکزی نقطہ پر متفق نہیں ہوئے میں بلکہ آپس میں بے حد مختلف ہیں۔ صحابہ کرام میں اس مشکلہ کے متعلق دو مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ابن حیان صیادی دجال اکبر ہے اور جزیرہ کا قیدی شخص دجال نہیں ہے۔ اسی جماعت میں حضرت عمر بن جاہن اور ابن عمر ہیں۔ اسی طرح ابو ذر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ بلکہ ابو ذر اور ابن مسعود نے تو پہاڑ نکل این صیاد کے دجال ہونے پر اپنا جسم اور رقبیں ظاہر کیا ہے کہ دونوں

حضرات نے یہ کہا ہے: کہ ابن صیاد کے دجال ہونے پر اگر دس دن قبیل ہجی ہم کی نیل گی  
تریں بہت پسند ہو گا۔ نسبت اس سکے کہ ہم اس کے متعلق ایک وفعتی ہی صفحیہ کہیں  
کروہ دجال نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے متعلق درج ذیل روایت  
امام احمد اور طبرانی کے حوالہ سے نقل کی ہے:

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذِئْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَانَ

أَحْدَثَ عَشْرَ هَرَاتِ أَنَّ أَبْنَ صَيَادَ هُوَ الدَّجَالُ أَحَبُّ الْمُنْ  
أَنْ أَحْدَثَ وَاحِدَةً أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ وَسَنْدَهُ صَحِيحٌ وَمِنْ حَدِيثِ  
أَبْنِ مُسْعُودٍ نَحْوُهُ - لِكُنْ قَالَ سَبْعًا يَدِلُ عَشْرَ هَرَاتِ أَخْرَجَهُ  
الْطَّبَرَانِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ - رَفْعَ الْبَارِيِّ ج ۳۸ ص ۴۸

”امام احمدؓ نے بہ سند صحیح ابوذرؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا  
ہے کہ دشی باری کی قسم اٹھانا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے مجھس سے زپاوہ  
پسند ہے کہ میں ایک وفصری قسم المحتاثوں کہ ابن صیاد دجال نہیں ہے۔  
طبرانیؓ نے ابن مسعودؓ سے بھی اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے جس  
میں یہ ذکر ہے کہ ابن مسعودؓ نے بھی ابوذرؓ کی طرح ابن صیاد کے دجال ہونے  
پر قسم کھلنے کو نہیں کیا ہے۔ لیکن اس میں دشی باری کی بجائے سائبہ بالکا ذکر  
کیا گیا ہے“

اسی کے برخلاف صحابہ کرامؓ میں دوسری ایک جماعت کا ذہب پر رہا ہے کہ  
ابن صیاد کی بجائے دجال جزیرے والا قیدی شخص ہے۔ جو حیم فاری دالی روایت میں  
ذکر کیا گیا ہے۔ اور جس کے ماتحت تمیم داری کی ملاحتات ہمیں تھی۔ فاطمہ بنت قبیلؓ

اور دوسرے چند صحابہ اسی کے قابل رہے ہیں۔

### محمد بن علیؑ کے مذاہب

صحابہ کرام کے بعد جب ہم محمد بن علیؑ کے احوال کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان میں بھی وجاں کی شخصیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور کسی ایک شخص کے درجاءں اکبر سونے پر وہ متفق نہیں ہیں۔ بلکہ اس بارے میں ان کے ہائی قمی مشہور فتاویٰ پائے جاتے ہیں۔

اللہ یعنی انہر کا مذہب یہ ہے کہ درجاءں این صیاد ہے۔ اور یعنی دوسرے محمد بن علیؑ کا مذہب یہ ہے کہ این صیاد اگرچہ مختلف درجاءوں میں سے ایک درجاءں مفرود تھا مگر وہ درجاءں ہرگز نہ تھا، جو قیامت کے قریب ایک علامت کے طور پر ظاہر ہو گا۔ اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے ہاتھوں ملا جائے گا۔ یہ درجاءں وہ شخص ہو گا جو جزیرے میں مقید ہے۔ اور تسمیہ داری کی اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ لما

ثیران مذہب یہ ہے کہ درجاءں اکبر کوئی انسان نہیں۔ بلکہ ایک شیطان ہے جو میں کے یعنی جزیروں میں قید کیا گیا ہے۔ اور جب اس کے خروج کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آزاد کرے گا۔ اور پوری امتت کے لیے باعث فتنہ ہٹنے گا۔ اس اختلاف سے یہ بات خود تجدید واضح ہو جاتی ہے کہ شخصیت درجاءں کا مسئلہ کوئی قضی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نہ پوری امتت میں متفق علیہ ہے کہ یونکہ نہ احادیث اور روایات کسی خاص اور معین شخص کے درجاءں اکبر سونے پر قضی طور سے لا ات کرنی ہیں اور نہ مختلف کسی معین شخص کے درجاءں اکبر سونے پر تفقی ہوئے ہیں بلکہ اسی خاص شخص کے بارے میں پر عقیدہ رکھنا کوہی آئے والا درجاءں اکبر ہو گا، اسلامی عقیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسلامی عقائد نہ

اختلافی ہو سکتے ہیں اور نہ طبقی، ملکبند وہ سبکے سب اتفاقی اور قطبی ہو کرتے ہیں اسلامی غیرہ  
بھی ہے کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہو گا اور ان صفات کا حائل ہو گا جو صحیح  
امدادیت میں وارد ہو گی ہیں۔ اور امانت کے بیانے پر نہ کہا جائے کہ اسی عقیدے کو کسی چل کر ہم چوتھے  
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اسی عقیدے کو کسی چل کر ہم چوتھے  
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے ولائی کے ساتھ ذکر کریں گے۔

ذیل میں اور پر کے تین ایسے بخوبیں کے تواں سے سپش کیا جاتا ہے:-

### محمد بنین کی تصریحات

قال الخطابي اختلفوا في أمر ابن حميد بعد كلامه  
فروعى أنَّه تاب من ذلك القول وما ت بالمدية وانهم  
ما أرادوا الصلوة عليه كشفوا وجهه حتى ميراهم الناس  
وقيل لهم أشهدوا -

وقال النووي قال العلماء قصة ابن حميد مشكلة و  
اهره مشتبه لكن لا شك انه دجال من الدجالية -  
والظاهر ان النبي صل الله عليه وسلم لم يوح اليه في  
اهره بشيء جز وانما اوح اليه بصفات الدجال وكان في  
ابن حميد قرائن متحملة على ذلك همان صل الله عليه وسلم  
لا يقطع في اخره بشيء بدل قال نعم لا خير في قتله الحديث

(فتح الباري بیو ۱۳ ص ۲۹)

«دجال نے کہا ہے کہ ابن حميد کے معاملے میں اس کے بالغ ہونے کے بعد

علامہ سلف مختلف ہوئے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے تائب  
ہو کر مدینہ میں مسلمان رہا ہے جب اس پر لوگوں نے ناز جنازہ پڑھنے کا ارادہ  
کیا تو اس کے چہرے کو بے نقاب کر دیا تاکہ لوگ اُسے دیکھیں اور لوگوں  
سے کہا گیا کہ تم اس پر گواہ رہو۔

اور امام فرویٰ نے کہا ہے کہ علامہ نے کہا ہے کہ این صیاد کا قصہ  
مشکل اور اس کا معاملہ مستحب ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ مختلف  
وجازوں میں سے ایک درجاتی حزور تھا۔ اور ظاہر ہے کہ حضور کریم  
صیاد کے بارے میں بزری عروجی کرنی علم نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ وحی کی خدیجه  
حضرت یہ علم دیا گیا تھا کہ درجات کی یہ اور یہ صفات ہوں گی چونکہ اب صیاد  
میں بھی درجات ہونے کی علامات اور صفات موجود ہیں۔ (اگرچہ شخصیت کے  
متعلق کرنی علم نہیں تھا) اس لیے حضور نے اس کے بارے میں کرنی قطعی  
فیصلہ نہیں فرمایا۔ ابتدۂ حضرت ہر شے یہ فرمایا کہ اس کو قتل کرنے میں  
آپ کا کرنی فائدہ نہیں ہے۔

اس عبارت میں امام فرویٰ اور علامہ خطابی کے چو اقوال نقل کیے گئے ہیں  
اُن سے این صیاد کے بارے میں صریح طور پر درج ذیل پائی باقی معلوم ہوتی ہیں۔  
ایک لیے کہ این صیاد کے درجات اکابر میں پر سلف متفق نہیں ہیں بلکہ اس میں اُن کے  
دریان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسری لیے کہ بعض علماء سلف کا اس کے متعلق دعویٰ  
یہ ہے کہ وہ اپنی تمام غلط باتوں سے تائب ہو کر مدینہ پر میں مسلمان رہ چکا ہے۔ ثبوی  
یہ کہ این صیاد کا معاملہ علماء سلف کے نزدیک مستحب رہا ہے اور یقینی طور پر انہوں نے

اس کو مالاً تفاوت دجال نہیں قرار دیا ہے چونچی یہ کہ کو وہ دجال اکبر نہیں تھا، مگر ان دجالوں میں سے بعض علیہ کے نزدیک ایک دجال خود تھا جو حضور کی بعثت کے بعد ظاہر ہونے والے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور کو دجال کی شخصیت کے بارے میں پدر بیعت وحی کرنے علم نہیں دیا گیا تھا۔ وحی کے ذریعہ سے جو کچھ علم حضور کو عطا کیا گیا تھا وہ صرف صفاتِ دجال کا علم تھا نہ کہ شخصیتِ دجال کا۔ ان پانچ باتوں کے علاوہ اختلاف السلفت فی اہل این صیاد کی جبارت سے اور پر کے تین مذاہب میں سے پہلا مذہب بھی معلوم ہوا کہ این صیاد کے بارے میں بعض الحشر کا مذہب یہ ہے کہ وہ دجال اکبر ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے این صیاد کے بارے میں امام بیہقی کی راستے اس طرح پیش کی ہے:

وَاحِدَابِ الْبَيْهِقِيِّ عَنْ قَصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ فَقَالَ لِيْسَ فِي  
حَدِيثِ جَابِرٍ أَكْثَرُ مِنْ سَكُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَلَى حَلْفَتِ عَرَبٍ فَيَحْتَلُّ إِنْ يَكُونَ الْعَبْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ مَتْوَقِفًا فِي اهْرَبِهِ ثُمَّ جَاءَهُ الْتَّثْبِيتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى  
بِأَنَّهُ غَيْرُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَصَّةُ تَبَيَّنَ الدَّارِيِّ وَبِهِ  
تَبَيَّنَ مِنْ جَزْمِ بَنِ الدِّجَالِ غَيْرُ ابْنِ صَيَّادٍ وَطَرِيقُهُ  
اصْحُ وَنَكُونُ الصَّفَةُ الَّتِي فِي ابْنِ صَيَّادٍ وَإِنْ قَتَ مَا فِي  
الْدِجَالِ -  
فتح البخاری، ج ۱۳ ص ۲۲۸

ابن صیاد کے قصہ کا امام بیہقی نے یہ جواب دیا ہے کہ حضرت چابر کی

حدیث میں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کہ حضرت عمرؓ کی قسم پر حضور ﷺ نے خدا تعالیٰ اختیار فرمائی ہو کہ آپؐ کو اس عالم میں اس وقت تک تو قصہ رینا ہو۔ پھر اس کے بعد حضورؐ کو اللہ کی طرف سے یہ امینان حاصل ہوا ہو، کہ دجال این صیاد نہیں بلکہ کوئی اور ہے جیسے تمیم داری کے قصہ سے حرم ہوتا ہے۔ اسی تمیم داری کے قصہ سے ان لوگوں نے استدلال قائم کیا ہے جو جرم اور تعین کے ساتھ کہتے ہیں کہ دجال این صیاد کے علاوہ کوئی اور شخص ہے ساران کا یہ طریقہ استدلال زیادہ صحیح ہے۔ اور این صیاد کی صفت دجال کی صفات کے ساتھ موقوف تھی۔ اس لیے حضورؐ نے اس کے حق میں تو قصہ کیا۔)

اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تمیم داریؓ کی روایت نقل کر کے لکھا ہے:

وَفِي بَعْضِ طرِيقَهِ عَنْ الْبَيْهِقِيِّ أَنَّهُ شَيْخٌ وَسَنَدٌ هُما عَصِيمٌ

فتح ج ۳ ص ۱۶۸

”تمیم داریؓ کی حدیث کے بعض طریقوں میں یہ ذکر ہے کہ جزیرے میں قیدی شخص بولٹ ماتھا اور اس کی سندریج ہے۔“

پھر تمیم داریؓ کی حدیث پر امام بیہقی نے جو تبصرہ کیا ہے اور اس سے جو تجویز لخذ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے:

قَالَ الْبَيْهِقِيُّ فِيهِ أَنَّ الدَّجَالَ الْأَكْبَرَ الَّذِي يُخْرُجُ فِي آخِرِ

الزَّمَانِ غَيْرَ اِبْنِ صَيَادٍ - وَكَانَ اِبْنُ صَيَادٍ اَحَدُ الدَّجَالَيْنِ  
الْكَذَا بِيَتَهُ الْذِي اَخْبَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَرْجِ رَجُلِهِ

وكان الذين يجذرون بان ابن صياد هو الدجال لغير سمعوا  
بعصته تحييم والا فالجمع بينها بعيد -

اذكىت بيلتم ان يكون من كان في اشاعر الحياة العبرية  
شيء المحتل ويعجم به النبي صل الله عليه وسلم ويسأله  
ان يكون شيخاً كبيراً مسجوناً في جزيرة من جزر امير البحار موثقاً  
باحدى دلائله عن خير النبي صل الله عليه وسلم على  
خرج ام لا - غال او لى ان يحمل على عدم الاطلاع - ا

رجح ح ۱۲ - ص ۲۷۰

”بہتی نے کہا ہے کہ تمیم داری کی روایت سے ثابت ہے کہ دجال  
اکبر جو آخری زمانے میں ظاہر ہو گا۔ وہ ابن صیاد کے ماسوا دوسرا  
کرنی شخص ہو گا۔ البتر ابن صیاد دوسرے آن رجالوں میں سے ایک  
وجال تھا جن کے خروج کی حضور نے خبر دی ہے۔ اور جنہوں نے ابن صیاد  
کے وجال اکبر ہونے پر جرم کیا ہے، انہوں نے تمیم داری کا قصرہ نہیں تا  
ہے۔ ورنہ دونوں کے ماہین جمع بہت ہی بعید ہے“

آخر یہ کیسے ملک ہے کہ جو شخص رابن صیاد و حیاتِ نبوی کے اثنا زاد  
میں قریب البلوغ ہوا اور حضور نے اس سے مل کر کچھ باتیں بھی پڑھی ہوں  
پھر وہ حضور کی آخری زندگی میں یکدم پورا ہامی بھی ہو جائے اور لوہ ہے کی  
نزدیکوں میں ہکڑا ہوا دریا کے ایک جزیرے میں قید بھی ہو جائے اور  
حضور کے متعلق یہ دریافت بھی کرے کہ وہ نکلے ہیں یا نہیں ؟ رہنمایہ

دو نوں ایک شخص نہیں ہو سکتے) اس لیے بتیرہ ہے کہ ان کا یہ جزم تمیم  
داری کے قدر سے لاصلی پر حمل کیا جائے:-

امام جسیقی کے ذکر وہ بالا آقوال سے جو امور بطور ماحصل دجال کے متعلق صور  
ہوتے ہیں عده درج ذیل ہیں:-

(۱) دجال اکبر این صیاد نہیں ہے۔ بلکہ قیدی فی الجزر ہے۔

(۲) این صیار اور مقیدی الجزر وہ دو نوں الگ الگ شخصیتیں ہیں یہ دلوں  
شخصیتیں ہرگز ایک نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ این صیاد کو حضور نے اپنی حلی زندگی میں  
ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ وہ ابھی باخ بھی نہیں تھا۔ اور قیدی شخص سے تمیم دانی کی  
جو ملاقات ہوتی تھی اس وقت وہ پڑھا تھا۔ تو یہ کہیے ممکن ہے کہ ایک نابانج بچ  
ذیارہ سے زیادہ دس سال میں بوڑھا ہو جائے۔ نیز این صیار کو حضور کا خروج اور  
ظہور پہلے سے معلوم ہو چکا تھا تو تمیم داری سے وہ کس طرح یہ دریافت کر سکتا ہے کہ  
هل خرج رسول الاصیلین ام لا؟

مکر رج، حضرت عمر غنیم نے این صیاد کے دجال اکبر پر پرچشم کھاتی تھی اور حضور  
نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ وہ این صیاد کے دجال ہونے کی تقریر قویٰ  
نہیں قرار دی جاسکتی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے خاموشی اس بنا پر اختیار فرمائی ہو کہ  
دجال کی شخصیت کے متعلق حضور کو نذر دینہ وحی پر علم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ این صیاد  
یا کوئی دوسرا شخص ہو گا۔ بلکہ صفاتِ دجال کا علم دیا گیا تھا۔ اس این صیاد میں دجال  
کی صفات موجود تھیں۔ اس لیے آپ نے اس کے بارے میں توقیت فرمادیا لیکن  
خاموشی اختیار فرمائی۔

د- جن عملتے سمعت نے ابن حمیاد کے دجال ہرنے پر اپنا جسم اور لقین ظاہر کیا ہے انہوں نے تمیم داری میں کا قصہ نہیں سناتا۔ بعد میں ملکن ہے کہ انہوں نے اپنی راستے بدل دی ہوئی

وَجَالُ الْكَبِيرُ إِنْسَانٌ نَّهِيْنَ بِكَهْ أَيْكَ شَيْطَانٌ هُنْ

وَجَالُ كُلُّ شَفَعَيْتَ كَمَا يَأْتِي مِنْ تِبْيَارٍ نَّدِيبٌ يَهْ هُنْ كَمَا يَأْتِي اِنْسَانٌ نَّهِيْنَ بِكَهْ  
ایک شیطان ہے جو میں کے بعض جزیروں میں قید کیا گیا ہے۔ یہ ندیب محدثین میں سے  
جبیر بن فضیلہ- شریح بن عبید- علر و بن اسود۔ اور کثیر بن مرہ کا ہے۔ حافظ ابن حجر الحادث  
نے ان حضرات کا یہ ندیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نسیم پن خاد کے حوالہ سے  
اس طرح ذکر کیا ہے :-

وَذَكْرُ نَعِيمٍ بْنِ حَمَادٍ شِيخِ الْبَخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْفَقْنِ الْعَادِيَّةِ  
تَتَعَلَّقُ بِالدِّجَالِ وَخَرْوَجَهُ - مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقٍ  
جَبَيرُ بْنُ نَفِيرٍ وَشِيخُ بْنُ عَبِيدٍ وَعَمَرُ وَبْنُ الْأَسْوَدِ وَكَثِيرٍ  
بْنُ مَرَّةَ - قَالَ الْوَاجِيْعُ الْدِجَالُ لَيْسَ هُوَ إِنْسَانٌ وَلَا هُوَ  
شَيْطَانٌ - مَوْثِقٌ بِسِبْعِينِ حَدِيقَةٍ فِي بَعْضِ جَزَائِرِ الْيَمِينِ  
لَا يُعْلَمُ مِنْ أَوْثَقَهُ فَإِذَا آتَى ظَهُورَهُ فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ كُلَّ  
عَامِ حَدِيقَةٍ - اهـ رَفِيقُ ج ۱۳ ص ۲۰۹

«امام بخاری کے شیخ نسیم پن خاد نے کتاب الفقون میں دجال نوادری کے  
خروج کے متعلق چند احادیث ذکر کی ہیں جن میں سے ایک وہ حدیث ہے۔  
جن کو اس نے جبیر بن فضیلہ- شریح بن عبید- علر و بن اسود- کثیر بن مرہ کے

طريقہ سے روایت کیا ہے۔ ان سب نے یہ کہا ہے کہ وصالِ کری انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو کسی جزیرہ میں میں تھرستھکنڈوں سے پاندھک تید کیا گی ہے۔ مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے اُسے تید کر دیا ہے جب اس کے خپور کا وقت آئے گا تو ہر سال اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک ہٹھڑی کھول کھول کر اُسے آزاد کرے گا۔

اس روایت سے جہاں یہ بات بصراحت ثابت ہوئی کہ وصالِ اکبر کے متعلق بعض علمائے صافت<sup>۲</sup> کا مذہب یہ ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ان کے نزدیک وصالِ اکبر این صیادِ بھی نہیں ہے اور جزیرے کا وہ قیدی بھی نہیں جو تمیم داری<sup>۳</sup> کی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ دونوں نے تھے اور وصالِ ان کے نزدیک انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔

این صیاد کا انسان ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک یہودی انسل شخص تھا جو دینے میں یہودی باپ اور یہودیہ ماں سے پیدا ہوا تھا۔ اور محبوس فی الجزرہ کے بارے میں بھی تمیم داری کی روایت میں یہ تصریح ہے کہ: فاذا اعظم انسان سراً بناه فیہ دینی مدہاں ایک مرٹے بدن کے انسان کو سجن نے دیکھا۔ اور یہاں اس روایت میں وصال سے انسان ہونے کی نفی کی گئی ہے البتہ لیس ہو انسان۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان علمائے صاف کے نزدیک وصالِ اکبر این صیادِ تمیم داری کی روایت میں ذکر کو قیدی کے علاوہ ایک تیرا شخص ہے جو دونوں سے مختلف ہے۔

## حافظ ابن حجر کا رجحان

اوپر کے تین مذاہب میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجحان دوسرے مذہب کی طرف ہے کہ دجال اکبر وہ شخص ہے جو جزیرہ میں مقید ہے اور تمیم داری کی اس سے ملاقات ہوتی ہے۔ جس طرح کہ امام بیہقی لکھتے ہیں۔ اور ابن حیاد کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک شیطان تھا جو اس وقت دجال کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اور پھر اصحابہ ان کی طرف جا کر مردیں روپوش ہو گیا ہے۔ جب دجال اکبر خاہ ہو گا۔ اس وقت وہ یعنی اُس کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ تمیم داری اور ابن حیاد والی دونوں روایتوں کے ماہینہ تطبیق کرتے ہوئے حافظ موصوف نہ کہتے ہیں:

وَا قَرِيبٌ مَا يَحْمِلُ بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ تَمِيمٍ وَكُونِ اَبْنِ حَيَادٍ  
هُوَ الْدَّجَالُ اَنَّ الدَّجَالَ بِعِينِهِ هُوَ الَّذِي شَاهِدَهُ تَمِيمٌ مُّوْتَعَا  
وَ اَنَّ اَبْنَ حَيَادٍ شَيْطَانٌ تَبَدَّى فِي صُورَةِ الدَّجَالِ فِي تَلْكَ  
الْمَدِّةِ الَّتِي اَنْ تُوجِهُ إِلَى اَصْبَاحَنَ فَامْسَتْرَمَعْ قُرْبَيْدَهُ اَلِيْ اَنْ  
تَجْعَلُ الْمَدِّةَ الَّتِي قَدْ رَأَتُهُ تَعَالَى خَرُوجَهُ فِيهَا۔ اَه

تمام علمیوں میں سے قریب ترین طریقہ جس سے کہ تمیم داری کی حدیث اور ابن حیاد کو دجال اکبر ثابت کرنے والی حدیثوں کے ماہینہ مجمع ہو سکتا ہے یہ ہے کہ دجال اکبر تو وہ معین شخص ہے جو تمیم داری کے ایک جزیے میں مقید رکھا ہے۔ اور ابن حیاد ایک شیطان تھا جو اپنے وقت میں صورت دجال ظاہر ہوا تھا۔ پھر اصحابہ ان میں جا کر اپنے ساتھی کی طرح روپوش ہو گیا۔ اور خروج دجال کے زمانے تک روپوش رہے گا۔

اس جبارت میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اگرچہ اپنی رائے یہ ظاہر کر دی کہ وجہ اکبر وہ شخص ہے جو محبوس فی الجزر یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وجہ اکبر کا معاملہ انتہائی مشتبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے تبیہ داری کی حدیث کے مقابلے میں این صیاد والی حدیثوں کو ترجیح دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں وجہ اکبر این صیاد ہے نہ کہ محبوس فی الجزر ۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :-

و لشدة التباس الامر في ذالك سدك المختارى مسلك

الترجيح فاقتصر على حدیث جا برعن عمر فی ابن صیاد

ولم يخرج حدیث فاطمة بنت قیس فی قصة تبییم۔

”اور چونکہ وجہ اکبر کا معاملہ انتہائی مشتبہ ہے اس لیے امام بخاری نے ترجیح کا سدک اختیار کیا ہے لیکن اس نیا پر امام موصوف“ نے این صیاد کے بارے میں جائز کی حدیث عن عذر پاکتنا کے فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو جس میں تبیہ داری کا ذکر کیا گیا ہے، نقل نہیں کیا۔

اوپر کے تین مذاہب پر تبصرہ

شخصیتِ وجہ کے بارے میں اوپر جو تین مذاہب ذکر کیے گئے اگر ان کو مسلماتِ دین اور اصولِ شریعت کی بعدشتی میں دیکھا جائے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ اس پر وجہ اکبر کے بارے میں اسلامی عقیدے کی بنیاد رکھی جائے اس لیے ہمارے پاس چند وجوہ ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں :-

وجہ اول۔ تحریکت مقدسہ میں ہم کو جو اسلامی عقائد معلوم ہو چکے ہیں ان میں خاصیت ہے کہ امت کے اسلام اور مختلف نہیں بلکہ متفق ہوا کرتے ہیں۔ اور دجال کی شخصیت کے بارے میں اسلام بیرونی مختلف ہیں اور کسی ایک شخص کے دجال اکبر ہونے پر متفق نہیں ہوتے ہیں۔ ایک جماعت اس بات کی قائل رہی ہے کہ دجال اکبر این صیاد ہے۔ اس کے برخلاف ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اب صیاد کہے جائے۔ اس قیدی شخص کو دجال اکبر سمجھو رہی ہے جس سے کہ تمیم داری کی ملاقات ہوتی تھی۔ اسلام میں مذکورہ بالادنوں جاھتوں کے علاوہ ایک تیری جماعت بھی ملتی ہے جو اس بات کی متعقد رہی ہے کہ دجال اکبر انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جو میں کے بعض جزائر میں مقید ہے۔ اور قیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔ اور یہ اختلاف صدر اول سے برابر ہر زمانے میں چلا آیا ہے۔ یہ اختلاف خود تبلارہ ہے کہ اسلام میں کسی شخص معین کے بارے میں یہ حقیقتہ رکھنا کہ وہی دجال اکبر ہو گا نہ ضروری ہے اور نہ اسلامی عقائد میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کہ اسلامی عقیدے میں ملت اسلامیہ کے اکابر اور امت کے اسلام کے ماہین اس قدر شدید اختلاف ہرگز زدنما نہیں ہو سکتا جس قدر کہ شخصیتِ دجال میں ہے۔ بلکہ اس کا متفق علیہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں کسی ایک شخص پر بھی آفاق موجود نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ اسلامی عقائد قطبی اور نقیبی ہو گرتے ہیں۔ اور نقیبیات کے لیے غیارہ یا تو قرآن کریم کی قطبی الدلائل آئیں ہو سکتی ہیں جو اسلام کے نقیبی عقیدے پر قطبی دلائل کرتی ہوں۔ اور جن میں متعلقة حقیقتہ کے علاوہ دوسری کسی چیز کا اصل احتمال نہ ہو۔ یاد رہیں ہو سکتی ہیں جو ثبوت کے

اعتبار سے متواتر اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہوں۔ اور جن میں ذکورہ عقیدہ کے مساوا  
دوسری کسی چیز کے لیے اصلاً کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ اور یا پھر تفسیر سے درجے میں  
اسلامی عقیدے کی بنیاد وہ اجماع ہو سکتا ہے جو عہد صحابہؓ میں تمام صحابہؓ کی تصریح کے  
ساتھ متفق ہو چکا ہو۔ اور ہم تک تواتر کے طریقے سے منقول بھی ہوتا چلا آیا ہو۔

اللہ تعالیٰ بنیادوں کے علاوہ اسلامی عقیدے کے لیے چونچی کوئی چیز بنیاد نہیں بن  
سکتی۔ اور یہ بات انہر میں اشتمس ہے کہ آج تک کوئی بھی معین شخص ایسا نہیں مل سکتا ہے  
جس کا دجال اکبر ہر ہن قرآن کریم کی کسی صریح اور قطعی الدلالۃ آیت سے ثابت ہو چکا ہو  
یا اس کے دجال اکبر ہونے پر متواتر اور قطعی الدلالۃ احادیث فارغ ہوئی ہوں، یا پھر  
اس معین شخص کے دجال اکبر ہونے پر عہد صحابہؓ میں اجماع قصی ہو چکا ہو۔ اور تو اکبر  
کے پنچا بھی ہو۔ اور جب یہ تینوں بنیادوں میں موجود نہیں ہیں تو معین شخص کو دجال اکبر  
قرار دینا بھی کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔

زہیں وہ روایات اور احادیث ہیں میں خاص خاص اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے تو فہ  
تمام کی تمام طبق الشیوه تجھی ہیں اور طبق الدلالۃ تجھی۔ اور ایسی روایات اگر چہ عمل کے لیے  
تو بنیادین سکتی ہیں مگر ایک شرعی عقیدے کے لیے بنیاد ہرگز نہیں بن سکتی ہیں۔ کہا ہو

المسروح في اسفارهم و زبدهم

تیسرا وجہ یہ ہے کہ اگر معین شخص کے متعلق دجال اکبر ہونے کا عقیدہ رکھنا  
اسلامی عقائد میں شمار بردا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معین شخص کے پاسے  
میں جرم اور حرامت کے ساتھ یہ فرمایا ہوتا کہ یہ شخص دجال اکبر ہو گا۔ لیکن صحاح است  
میں کوئی بھی صحیح اور مفروض روایت ایسی نہیں مل سکتی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے کسی معین شخص کے حق میں جرم اور راحت کے ساتھ دجالِ اکبر ہونے کا کوئی حکم اور فیصلہ فرمایا ہو۔ اور جن اشخاص کے پارے میں اسلام کے مخالف گر رہو نے دجالِ اکبر ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے یا ان کے پارے میں اپنے جرم کا انہما کیا ہے، وہ محض ان کے اپنے اچھا دی فیصلے تھے، جو بعض روایات میں یہ نہ اہم نے مستبط کیے تھے، نہ کہ حضرت نے ان اشخاص میں سے کسی معین شخص کے پارے میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہی دجالِ اکبر ہو گا۔

اصح ترین روایتوں کا حال

ان بارے میں اس نید کے اعتبار سے اصح تین روایتیں رونق کی ہیں۔ ایک دو جن میں اب صیاد کا ذکر آگیا ہے۔ دوسری میں جن میں تمیم داری کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ان دونوں قسم کی روایتوں کا حال یہ ہے کہ ان میں کوئی نقطہ ایسا نہیں ملتا، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات میں اب صیاد کو قطعی طور پر دجال اکبر فرار دیا ہے یا اس قیدی شخص کو جس کے ساتھ تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی۔

ان رعایات سے حد سے حد جو کچھ ثابت ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضور  
کو رجالِ اکبر کی جن صفات کا علم پذیر یہ وحی دیا گیا تھا اُن میں سے بعض صفات  
چونکہ اب صیاد میں پائی جاتی تھیں، اس لیے حضرت عمر حضور نے جب حضور کے سامنے<sup>ر</sup>  
این صیاد کے دجالِ اکبر سہرنے کی قسم کھاتی تو اس اندیشہ سے کہ شاید یہی رجالِ اکبر  
ہو۔ حضور نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی طرح تمیم داری ٹھنے جب اس  
کے بعد آنحضرت مسلم سے محسوس فی الجزر وہ حسکے حالات اور صفات بیان کیں تو

حضرت کو ابن حبیب کی پہنچت اس سے زیادہ خطرہ اور اندریشہ المحتی ہمدا اور پت نے اس کے بارے میں بھی است کو منتسب فرمایا کہ کہیں یہی شخص دجال اکبر شہزادہ باقی رہی یہ بات کہ حضور نے اپنے ارشادات میں ان دونوں شخصیات میں کسی تکمیل کے بارے میں دجال اکبر ہونے کا کوئی قطعی تنبیہ فرمایا ہے تو یہ ان روایات سے ہرگز ثابت نہیں ہے چنانچہ سلفت کے سابقہ اختلافات سے واضح ہے۔

اسی طرح جن لوگوں نے تیم داری کی روایت کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قطعی طور پر قیدی شخص کے دجال اکبر ہونے پر دلالت کرتی ہے، ان کا یہ دعویٰ بھی قابلٰ تسلیم نہیں ہے۔ چنانچہ آگئے چل کر ہم اس کو واضح کریں گے جہاں تیم داری کی روایت پر بحث کی جائے گی۔ رہنمایرانہ ہے کہ دجال اکبر انسان نہیں ہے بلکہ ایک شیطان ہے؛ ترا اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَعْلَ هُؤُلَاءِ مَعَ كُونَهُمْ ثَقَاتٌ تَلْعُوا ذَالِكَ مِنْ بَعْدِ

کتب اهل امکتاب۔ ۱۴ (فتح ج ۱۳ ص ۲۶۹)

”اویشايدان لوگوں نے باوجود یہ وہ ثقافت ہیں۔ اس کو اہل کتاب

کی بعض کتابوں سے پایا ہے“

ہندا اس کو بھی یہ تفاصیل حاصل نہیں ہے کہ اس پر دجال کے تعلق کسی قیدے کی نیپاد رکھی جاسکے۔

تفصیلت دجال کے بارے میں ایک اور تہذیب

اور پر کے تین مذاہب کے بعد تفصیلت دجال کے بارے میں چوتھا مذہب یہ

زد جاتا ہے کہ درجاء اکبر کو اپنا معلوم دعویٰ شخص نہیں ہے جس کے متعلق خنور نے یہ  
قطعی فیصلہ فرمایا ہو کہ بھی شخص درجاء اکبر پر گا جو قیامت کے قریب ظاہر ہو گا پھر  
حضرت علیہ السلام اس کو اگر قتل کریں گے تو کہ درجاء اکبر ایک نامعلوم شخص ہے جو  
قیامت کے قریب اقتدار کے لیے ایک غمیم قدرین کر ظاہر ہو گا۔ اہم صفات  
کا حامل ہو گا جو صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ پھر اسماں سے حضرت علیہ السلام  
نزوں فرما کر اُسے قتل کریں گے ॥

اصول شریعت، اور مسلمات دین کے پیش نظر ہم اس مسئلہ میں اپنی دیانت را  
راٹے پر لکھتے ہیں کہ اقرب الصلاب یہی آخری ذرہب ہے۔ اس لیے درجاء  
کے بارے میں ہمارے نزدیک اگر کوئی اسلامی حقیقت ہو سکتا ہے، تو وہ صرف یہی  
ہے کہ درجاء اکبر تا حال معلوم نہیں ہو سکا ہے البتہ قیامت کے قریب خاص خاص  
صفات کا حامل بن کر ظاہر ہو گا۔ اور پھر علیہ ابن مريم کے ہاتھوں مارا جائے گا۔  
اس ذرہب کو اقرب الصلاب ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس  
چند ولائل ہیں جنہیں ہم ذیل میں فیروار ذکر کر دیتے ہیں:

یہ بات تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق مسلم ہے کہ درجاء دوسری متعدد علماء  
کی طرح قریب قیامت کی ایک علامت ہے۔ اور یہ ایک قطعی مسئلہ اور مسلم حقیقت  
ہے کہ قیامت کے متعلق جو علم خدا کے سوا دوسروں کو دیا گی ہے۔ وہ صرف آنے ہے  
کہ قیامت آئے گی۔ اور نظام عالم در ہم بیہم پر کے رہے گا تاکہ ہر شخص کو اپنے  
اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے۔ رہا اس کے متعلق خصوصی وقت کا علم باقیرہ  
علم خدا کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے ॥ حضرت جرجیلؑ نے جب اس کے متعلق

حنوہ سے دریافت کر دیا کہ: متى الساعة؟ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو پڑھا بے دیا کہ: ما المسئول عنها باعذر من السائل۔ یعنی میرا علم تم سے اس بارے میں زیادہ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آناتم بھی جانتے ہو کہ قیامت ایک وقت پر ضرور آتے گی۔ اور یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن خصوصی وقت کا علم جیسے طرح تم کو حاصل نہیں ہے اسی طرح مجھ کو بھی حاصل نہیں ہے۔

و جال بھی چونکہ قیامت ہی کی ایک علامت ہے تو پاہیزے کیاں کی خصوصی شخصیت کا علم بھی مخلوق سے پر شیدہ ہو۔ کیونکہ قیمت شخصیت کے ساتھ شریعت کا کوئی مقصد وابستہ نہیں ہے اور نہ شخصیت کا زیل کسی شرعی اصل سے متعادم ہے۔ قیامت کی علامات میں صرف ایک و جال ہی تر نہیں بلکہ بہت سی دوسری چیزوں کو بھی قیامت کی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ مثلًا دایۃ الارض۔ یعنی وہ جو ان بھی قیامت کے لیے بطور علامت بیان کیا گیا ہے۔ جوز میں سے قیامت کے قریب نکالا جائے گا۔ ارشاد ہے:

و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم راية من الارض  
نكلهم ان انسان كانوا با يتنا لا يوقفون۔

و جب ہر چکے گا ان پر فیصلہ تو نکالیں گے ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور۔ جو باقی کرے گا ان سے کہ لوگ پھر می نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔

اسی طرح قیامت کی علامات میں یا جوچ اور جوچ اور مغرب سے سورج کا ملکی بھی ہیں۔ حالانکہ یہ تمام پیروں ایسی ہیں جن کی خصوصیات اور تفصیلات کسی کو معور

نہیں ہیں سکیا یہ بات ابھی تک کسی کو معلوم ہے کہ داتہ اراضی کس قسم کا حیوان ہرگا اور کہاں سے نکلے گا ؟ اور اس کی کیا خصوصیات ہوں گی ؟ اسی طرح آج تک بخوبیات اور قیامت کے علاوہ کسی کو تینی ذرائع معلومات سے یہ پتہ چل سکا ہے کہ یا جو ماجرو  
کو ہوں گے اور کب اور کہاں سے نکلیں گے یا مغلان سنہ اور فلان ماہ اور فلان  
دن میں مغرب کی جانب سے سورج طلوع کرے گا ؟ اگر ان تمام چیزوں کی خصوصیات  
اور تفصیلات آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی ہوں اور ماں کے باوجود راہبہام کے ساتھ  
قیامت کے لیے علامات کے طور پر تسلیم کی گئی ہوں تو ایک دجال کی شخصیت متعین کرنے  
اور اُسے خواہ تجوہ اسلامی عقائد میں داخل کرنے پر اس قدر صراحت کیا جائے ہے ؟  
کیا دجال کی شخصیت نامعلوم ہو کر قیامت کی علامات نہیں بن سکتی ہے ؟ اگر  
اس کی شخصیت متعین نہ کی جائے اور نہ کسی معین شخص کی دجالیت پر ایمان لا جائے  
 بلکہ اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ قیامت کے قریب ایکہ ٹرانسہ پر دار الدجال الکبر  
ظاہر ہرگا جو فلان صفات اور خصوصیات کا حامل ہرگا تو اس سے ایک مسلم  
کے ایمان یا اسلام میں کوئی تقصی پیدا ہوگا ؟ یا وہ کسی مسلم اصل شرعت کے خلاف  
ایک نیا عقیدہ قائم کر دینے کا ترتیب ہوگا ؟ جس کے خلاف ایک مستقل محاذ قائم  
کیا جائے اور اُسے گراہ قرار دینے کے لیے اشتہار باندی اور پوشش بازی سے  
کام لیا جائے یا حاشا و حلا -

اس مذہب کے اقرب الاصوات ہونے کے لیے تیری دلیل یہ ہے کہ  
اسلامی عقائد جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے قطعی اور تینی ہو کرتے ہیں لہذا  
حربی ہے کہ ان کا ثبوت بھی شرعت سے قطعی اور تینی ہو۔ اور دجال کے

متعلق اسلامی شریعت سے جو خریں قبینی طور پر ثابت ہیں وہ دجال کا موجود، اور اس کا ظہور اور اس کی صفات اور خصوصیات ہیں۔ انہی چیزوں پر تمام اہل استدلال بحث متفرق ہیں۔ چنانچہ بحث کی ابتدا میں عاصی عیاض کی تصریح ان چیزوں کے متعلق گزرا چکی ہے۔

اور یہی تین چیزوں میں جن پر پوری امت کا اجماع بھی ہے لاد متوالۃ المعنی احادیث سے بھی ان کا ثبوت قبینی ہے۔ کیونکہ تمام روایات میں قدر مشترک کے طور پر دجال کے متعلق یہ تینوں چیزوں مذکور ہیں۔ ایک دجال کا شخص سبھی ہونا، دوسرہ دجال کا قیامت کے قریب زمانے میں ظہور۔ اور تیسرا چیز دجال کی صفات اور خصوصیات۔ اس بنابر دجال کے متعلق اگر کوئی اسلامی عقیدہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دجال موجود ہو گا۔ اور قیامت کے قریب ظاہر ہو کر امت کے لیے ٹڑا فتنہ پہنچے گا۔ اور ان صفات و خصوصیات کا حامل ہو گا جو صحیح احادیث میں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ ربا اس کی شخصیت کا تعین ا تو اس کو اسلامی عقیدے کی خلیت سے اس لیے تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ شریعت اسلامی سے اس کا ثبوت قبینی نہیں ہے۔ نہ کسی خاص شخصیت کے دجال ہونے پر صاف ہے سے لے کر خلفت تک کسی دور میں اجماع ہو سکا ہے بلکہ شخصیت کے بارے میں ہر دوسرے علمائے امت مختلف ہے ہیں۔ چنانچہ سابقہ مباحثت میں اس کی محلہ وضاحت ہو چکی ہے۔

باقی جن احادیث میں بعض اشخاص کا ذکر آیا ہے جیسے این حبیار۔ یا جزیرے میں مقید شخص ا تو وہ احادیث نہ قطعی الشہوت ہیں اور نہ قطعی الدلالة۔ اور ایک اسلامی عقیدے کے لیے مأذوذہ شے ہو سکتی ہے جو قطعی الشہوت بھی ہو اور قطعی الدلالة

بھی اس کے بغیر ظنی الشیوٰت اور ظنی الدلالۃ روایات سے اسلامی عقائد ثابت نہیں ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ ابن حیان صیاد کے دجال اکبر ہونے پر کسی دفعہ میں آفاق ہو سکا ہے اور نہ اس قیدی شخص کے دجال اکبر ہونے پر جو تسلیم داری نے ایک جزیرے میں دیکھا تھا۔

### ایک اشکال اور اس کا جواب

ممکن ہے کوئی صاحب ہمارے مندرجہ بالا معروضات پر یہ اعتراض کریں کہ احادیث کے متعلق یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ آنے میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں مل سکتی جو معین شخص کے دجال اکبر ہونے پر ایک طرف قطعی طریقہ سے دلالت کرتی ہو اور دوسری طرف وہ قطعی الشیوٰت بھی نہ ہو۔ کیونکہ فاطمہ بنت قیمیں کی وہ حدیث شدید حس مل تھی مذکوری کا تصریح بیان کیا گیا ہے کہ طور پر فرمائیے میں اس تعلیم شخص کے دجال اکبر ہونے پر لذت کرتی ہے جس سے تسلیم داری کی ملاقات ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے محدثینؓ کی اکثریت اس روایت کے موجب اسی محبوس اور مقید فی الجزریہ شخص کے دجال اکبر ہونے کی قابل ہے۔ پس یہ دعویٰ کس طرح صحیح تسلیم کیا جائے گا کہ احادیث میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کسی خاص اور معین شخص کے پارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ وہی دجال اکبر ہو۔ اس اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے کہ تسلیم داری کی روایت میں جس مقید شخص کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو اسلامی عقیدے کی جیشیت سے دجال اکبر اس یہے نہیں تسلیم کیا جاسکتا کہ اس روایت میں اس کے دجال اکبر ہونے پر قطعی دلالت موجود نہیں ہے۔ اور نہ اس روایت سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس مقید شخص کے پارے میں یہ قطعی فیصلہ فرمایا ہے کہ وہی دجال اکبر ہو گا۔ حدیث کے الفاظ اور

حضور کے انداز بیان سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضور کو صفاتِ دجال کا جو علم نہ ریغہ دھی دیا گیا تھا، پونکہ اس مقید شخص کی اکثر صفات بھی اپنی دجالی صفات کے زیادہ موافق تھیں، اس لیے حضور کو اس کے متعلق یہ عظیم اندیشہ اور خطرہ لائق ہے۔ کہ شاید پھر دجال اکبر ہو۔ اس بنا پر آپ نے اس کے بارے میں اتنت کو اس بات پر منعہ فرمادیا کہ تسلیم داری نے اس شخص کی جو حالت بیان کر دی وہ دجال اکبر کی اس حالت کے زیادہ موافق ہے جو میں تم سے بیان کرتا رہا ہوں۔“ چنانچہ حدشی حدیث اداقت الذی كنت حدشتکر عنہ کے الفاظ صاف طور پر تبلیغ ہے میں کہ حضور کا مقصد صرف اس بات پر امت کو منعہ کرنا تھا کہ اس شخص اور دجال اکبر کے مابین صفات اور خصوصیات کے لحاظ سے زیادہ باہمی موافقت پائی جاتی ہے، نہ کہ حضور کا مقصد اس پر قطعی طریقہ سے دجال اکبر کا حکم لکھنا تھا۔ ورنہ پھر اس مقصد کی ادائیگی کے لیے زیادہ مناسب الفاظ یہ ہو سکتے تھے کہ: هذَا هُوَ الَّذِي  
كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ عَنْهُ أَنَّهُ الدَّجَالُ ۖ ۖ یعنی خاص وہ شخص ہے جس کے متعلق میں تم سے بیان کرتا رہا ہوں کہ وہ دجال اکبر ہو گا۔“

یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے باوجود یہ وہ اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ مگر بھرپوری وہ مقید فی الجزر وہ شخص کو دجال اکبر تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ ابن میاہ ہی کو دجال اکبر سمجھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤدؓ نے حضرت چابرؓ کے متعلق صاف طور پر تصریح کی ہے کہ وہ بھی تسلیم داری دالی حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ مگر اس کے باوجود اُن کے ثابت و این ابی سلمہ اُن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ:

شَهَدَ جَابِرَنَ الدَّجَالَ هُوَ إِنْ صَيَادَ قَدْمَاتٍ فَإِنَّهُ قَدْمَاتٌ

قال وان مات۔ قلت فانه قد اسلم قال وان اسلم  
قلت فانه قد دخل المدینہ۔ قال وان دخل المدینہ۔  
رابرداوود۔ ج ۲ ص ۵۹۵)

رد جابرؓ نے گواہی دی کہ دجال ابن صیاد ہے۔ میں نے کہا وہ تو مر  
چکا ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ رچکا ہے۔ میں نے کہا وہ تو سلان ہو چکا  
ہے۔ فرمایا، اگرچہ سلان ہو چکا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا وہ تو مدینہ میں  
بھی داخل ہو چکا ہے فرمایا، اگرچہ مدینہ میں بھی داخل ہو چکا ہے۔“

۷۷ اب بتائیئے کہ اگر تیم داری کی اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے  
قیدی شخص کو قطعی طور پر دجال اکبر قرار دیا ہوتا اور حدیث کے لیے اس کے دجال  
اکبر ہونے پر قطعی دلالت حاصل ہوتی تو حضرت جابرؓ کے لیے کس منطق کی رو سے  
یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کے ایک راوی ہونے کے باوجود اس کے قطعی  
مفہوم اور معنی سے انکار کر کے این صیاد ہی کے دجال اکبر ہونے پر اصرار کریں؟ اور  
حنویرؓ کے ایک قطعی الدلالۃ ارشاد کو پس پشت ڈال دیں۔ معلوم ہوتا کہ تیم داری  
کی روایت میں مجبوس فی الجزیرہ کے منقول حنویرؓ نے دجال اکبر ہونے کا کوئی قطعی  
حکم نہیں فرمایا ہے۔ اور نہ حدیث میں اس پر کوئی قطعی دلالت ہے۔

۷۸۔ اشکال مذکور کا درسراج اب یہ ہے کہ پچھلے مباحثت سے یہ حقیقت واضح  
ہو چکی ہے کہ شخصیت دجال کے بازے میں حنویرؓ کی وفات کے بعد عہد صحابہ سے  
لے کر متاخرین کے زمانے تک ہر قور میں علمائے افتخار کے مابین بخت اختلاف  
رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دجال اکبر ابن صیاد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ

متقدید فی المجزیہ انسان ہے جس کے ساتھ تمیم داری کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور بعض دوسرے  
ملاقات علمائے محدثین کا دھوی ہے کہ وہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے بلکہ لیک شیطان  
ہے۔ جو میں کے بعض جزو اُر میں تجدید کیا گیا ہے۔ اور زیر بات سمجھ سے باہر کو رکھتا ہے  
ناممقبول ہے کہ تمیم داری والی روایت میں تو حضور ﷺ نے طور پر متقدید شخص کو دجال  
اکابر قرار دے دیں۔ اور پھر حضورؐ کے وصال کے بعد پڑی امت کے عما اُسی کے آ  
پارے میں اس قدر مختلف ہو چاہیں کہ علماء کی لیک شیعہ جماعت اور صحابہ کرام میں بعض مدلل القده  
صحابہ صریح طور پر اس کے دجال اکبر ہے نے انکار کر دیں معلوم ہوا کہ تمیم داری کی روایت میں آنحضرت  
نے کسی عین شخص کو دجال اکابر نہیں یا، وہ نہ اس کے باوجود میں علمائے مسلم اس قدر ہرگز مختلف  
نہ ہوتے نہ اس کے دجال اکبر ہونے سے کوئی شخص انکار کر سکتا۔

۲۰۔ اشکان ندکو کا تیر احوال ہے کہ فاطمہ بنت علیؓ کی زیریخت حدیث میں جب حضورؐ سے تمیم  
داری نے قیدی شخص کا فقصہ بیان کیا تو حضورؐ نے صحابہ کرام کے سلسلے اس قدر کے پیارے نے کہ نہ ہو بلکہ  
الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق

### وَاوَمَا بِيَدِكَ الْمَشْرُقُ - روایۃ مسلم

وہ پادر کھو دجال بحر شام یا بحر یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ جانب  
مشرق سے نکلا گا اور اپنے ساتھ سے حضورؐ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمادیا۔  
حدیث کے یہ افاظ تو صاف طور پر تبلار ہے میں کہ حضورؐ نے متقدید شخص کو  
دجال اکبر نہیں قرار دیا ہے۔ نہ کچھ نے تمیم داریؓ کی اس روایت کی تو شیق فرمائی ہے  
کیونکہ متقدید شخص کو دجال اکابر قرار دیشے اور تمیم داریؓ کی اس روایت کی تو شیق کرنے  
کی سورت میں حضورؐ کے افاظ وہ نہ ہوتے جو یہاں یہم دیکھ رہے ہیں بلکہ صفات پر

آپ یہ فرماتے کہ: الا انہ هوا الدجال الا کبود سیخ خرج من تلک الحجز میرۃ بھیں  
 اس کی بجائے آپ نے یہ فرمادیا کہ: الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن۔ لا بل  
 من قبل المشرق۔ ان الفاظ سے تو صریح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے  
 دجال کی شخصیت اور مقام خروج دونوں کو سمجھم اور نامعلوم قرار دے دیا۔ اور تمیم  
 داری کی روایت سے اختلاف ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی توثیق فرمائی۔ اس طرح یہ عیش  
 ذہب رابع کے اثبات کیلئے دلیل بن جائے گی اس کے لیے مقید شخص کے  
 دجال اکبر ہونے پر اصلہ ولاحت حاصل نہ ہو گی۔

حدیث مذکور کے یہ معنی ہے نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیے ہیں بلکہ شرح حدیث  
 نے اس جملہ کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ اور صریح طور پر یہ کہا ہے کہ اس جملہ سے حضور  
 کا مقصد یہ بتانا تھا کہ مکانِ دجال سمجھم ہے، معلوم نہیں ہے۔ اور حب اس جملہ سے  
 حضور نے مکانِ دجال کو سمجھم اور نامعلوم قرار دے دیا تو یہ بھی اس حدیث سے ثابت  
 ہوا گا کہ جزیرے میں اس مقید شخص کے بارے میں دجال اکبر ہونے کا کوئی قطعی حکم اور  
 فیصلہ نہیں فرمایا گیا ہے۔

شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے تحریر  
 فرماتے ہیں:-

لما ابھر اللہ تعالیٰ اہر الساعۃ و اوقات ظہر اما راتها  
 بالتعین والهدایۃ اوقع اختلاف فی الاحادیث فی ترتیبها  
 الیہم مکان الدجال موئقاً مردداً بین هولاء الاماکن  
 الشدیدة مع غلبة الغنی فی آخرها و هو ايضاً غیر متعین

بِلَّا أَذْنِي عَلَمْ كُوْنَه مِنْ قَبْلِ الْمَشْرَقِ وَهَذَا مَعْنَى نَفْي الْأَوْلَى  
وَأَثْبَاتُ الثَّالِثِ - اه دلوات بر جاشیہ مشکوٰۃ)

وہ خداوند تعالیٰ نے جب قیامت کا معاملہ پہم کر کے رکھا ہوا مطہر  
علمات کے اوقات بھی متین نہیں کرو پیشے اور احادیث میں اسی یہے  
علمات کی ترتیب میں اختلاف بھی واقع ہو گیا تو دجال مقید کے مکان کو  
بھی قیوں مقامات کے درمیان پہم کر کے رکھا جسی میں سے آخری مقام کے  
متعلق گماں غالب یہی ہو سکتا ہے کہ وہی مقام دجال ہو۔ اگرچہ قیوں و  
بھی نہیں ہے یقینی بات صرف یہ ہے کہ مشرق کی جانب سے وہ خلاہ  
ہو گا۔ اور یہی مطلب ہے پہلے دونوں کی نفی کا۔ اور تیرست کے اثبات  
کا۔

اس عبارت میں شیخ عبد الحق نے الائمه فی بحر الشام او بحر البیعت لابل  
من قبیل المشرق کی حوزت شریع کی ہے، اس سے یہ بات تو بصراحت ثابت ہے  
گئی کہ قیامت کی علمات میں سے جو دجال ہے اس کا مکان اور مقام معلوم  
نہیں ہے صرف اتنی بات یقینی ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا۔  
تو اس سے یہ بات بھی خود بخوبی ثابت ہو گئی کہ دجال اکبر حزیرے میں وقوع  
شخص نہیں ہے جس کا قصده تمیم داری ٹھنے حضور سے بیان کیا تھا۔ اور نہ اس حدیث  
میں اس شخص پر حضور تھے دجال اکبر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ کیونکہ الائمه میں یہ  
ضمیر مطلق دجال کی طرف لوٹتی ہے۔ نہ کہ مقید فی الجزریہ کی طرف۔ کیونکہ اگر  
اس مقید شخص کی طرف یہ ضمیر لوٹا رہی جاتے۔ تو اس پر یہ حکم صحیح نہیں ہو سکتا۔

کہ وہ بحیرہ شام یا بحیرہ میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے ॥ کیونکہ وہ ایک معلوم شخص تھا جو معین مکان میں مقید تھا۔ تو اگر وہ جزیرہ بحیرہ شام میں ہو تو بحیرہ میں میں ہونے کا اس پر حکم صحیح نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ جزیرہ بحیرہ شام اور بحیرہ میں کے علاوہ کسی دوسرے بحیرہ اور دریا کا جزیرہ ہو تو بحیرہ شام اور بحیرہ میں دونوں میں ہونے کا حکم اس پر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس مقید شخص کے بارے میں یہ کہنا تو انتہائی ناقابل غہم ہے کہ وہ مشرق کی جانب ہے ॥ کیونکہ جس جزیرے میں وہ مقید تھا وہ جزیرہ کسی ایسے بحیرہ کا جزیرہ ہرگز نہ تھا جو جانب مشرق میں ہو۔

اس طرح یہ کلام پیغمبر اُن کلام نہیں ہو گا بلکہ اس کی مثال ایسی ہو گی جیسے ایک شخص کے بارے میں چوکراچی کے کسی جبل میں نظر پڑے ہو۔ یہ کہا جائے کہ وہ شخص کراچی میں ہے یا راولپنڈی میں یہ بھرلوں کہا جائے کہ وہ نہیں وہ تو یقیناً پشاور میں ہے ॥ اب بتائیجئے کہ اس کلام کو کسی معقول آدمی کا کلام کہا جا سکتا ہے؟ لہذا آمانا پڑے گا کہ الا اندھی میں ضمیر کا مردح مطلق دجال ہے۔ اور اس پر بحیرہ شام یا بحیرہ میں ہونے کا حکم گان پڑتی تھا۔ لیکن اس کے بعد متصل دھی کے ذریعہ سے حضور کو تنبیہ ملی کہ دجال اکبر کا مقام نہ بحیرہ شام ہے اور نہ بحیرہ میں۔ بلکہ وہ ماسفل ہے۔ آنا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا ॥ اس پیغمبر نے پہلے دو مقامات سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا کہ: لا یل من قبیل المشرق۔ تو اگر دجال اکبر وہی قیدی شخص ہوتا جس کی تیسم داری نے خردی تھی۔ اور اسی پر دجال اکبر کا حکم لگانا بھی مقصود ہوتا۔ اور تیسم داری کی زیست کی تعلق ابھی مقصود ہوتی تو اس کے پیدھے سادھے مناسب اغاظتی یہ ہو سکتے تھے۔

کہ: الا ان الذی قد حدث عنہ تھیم هو الدجال الاکبر و هو  
یخوج من تلک الجزیرۃ۔ نہ کہ وہ جو بیان اس کے لیے استعمال کیے گئے  
ہیں۔ ایسے ہم جیلان میں کہ تھیم داری کی حدیث سے جو لوگ اُس قیدی شخص کے  
دجال اکبر ہونے پر استدلال کرتے ہیں انہیں اس حدیث کے الفاظ میں کوئی  
وہ جملہ ملا ہے جس میں خصوصی اس شخص کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہی شخص آئے  
والا دجال اکبر ہو گا؟

اوپر الا انه فی بحر الشام او فی بحر الیمن لا بل من قبیل  
الشرق کی جو تشریح کی گئی یہ بعدینہ وہی تشریح ہے جو ملاعی قاری رحمۃ اللہ علیہ  
نے علامہ اشرفت سے نقل کی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں،  
قال الا شریف یسکن انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان  
شاما فی موضعہ و کان فی ظنه انہ لا يخلو عن هذہ  
المواضع المثلثة فلما ذکر بحر الشام و بحر الیمن تین  
لہ من جهة الوجه او غلب على ظنه انہ من قبیل  
الشرق فتفی الاولین وا ضرب عنہما و حق  
الثالث۔ اہم در مقاطعہ ۵ ص ۲۰۸)

وہ اشرفت نے کہا ہے کہ مکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان  
دجال کے بارے میں شک اور تردید میں تھے۔ اور آپ کا گمان یہ تھا  
کہ دجال ان تین متحامات میں سے کسی ایک میں ضرور ہو گا۔ پس جب  
بحر الشام اور بحر الیمن کا آپ ذکر فرمائیے، تب آپ کو وہی کے ذریعہ

سے یہ تفہین حاصل ہوا۔ یا آپ کا اس بات پر گمان غالب ہوا کہ دجال  
مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا۔ اس لیے آپ نے پہلی دو ہجھوں سے  
اعراض کرتے ہوئے ان کی نفع فرمائی اور تغیرے مقام کو متعین کر دیا۔

شرح حدیث کے یہ اقوال صفات طور پر تلا رہے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کی  
حدیث میں تبیہ داریؓ نے جس مقید شخص کی حالت بیان کی تھی۔ حضور نے اسے  
دجال اکبر نہیں قرار دیا تھا۔ اور نہ قطعی طور پر تبیہ داریؓ کی اس روایت کی آپ نے  
توثیق فرمائی تھی۔ بلکہ چونکہ اس شخص کی صفات دجال اکبر کی صفات سے زیادہ مشابہ  
تھیں اس لیے آپ کو اس کے متعلق خطرہ لاتھی ہوا کہ کہیں یہ دجال اکبر نہ ہو اور  
اس خطرے کے پیش نظر حضور نے اس کے متعلق بھی لوگوں کو متنقیبہ فرمادیا۔ پھر  
اصل دجال کے متعلق فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا۔

بالفرض اگر تبیہ بھی کیا جائے کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث میں تبیہ داریؓ  
کے بیان کے بوجب مجموعی اجزریہ شخص پر حضور نے دجال اکبر کا حکم لگایا ہے اور  
اسی کو آپ نے دجال اکبر قرار دیا ہے۔ پھر تبیہ داریؓ کی یہ حدیث اصول  
حدیث کی رو سے اس پایہ کی ہرگز نہیں ہے۔ جس پر کسی اسلامی عقیدے کی بنیاد  
رکھی جاسکے۔ یہ روایت اسانید کے اعتبار سے حد تو اتر کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ  
صحابہ کرام کے طبقہ میں اس کا تبہہ خبر واحد سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جن  
محمدیین نے اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ یہ "غریب فرد" ہے۔ اور فاطمہ بنت  
قیس کے علاوہ کسی دوسرے صحابیؓ نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ چنانچہ  
حافظ ابن حجر گفتہ ہیں : و قد تو هم بعضهم اندھے غریب فرد یو بعض

محمد بن علیؑ نے یہ لگان خلاہر کیا ہے کہ یہ حدیث غریب فرد ہے ॥ ان کا یہ دعویٰ اگرچہ  
حافظ موصوف نے یہ کہہ کر رد کیا ہے کہ : - و یعنیں کذالک فقد روایۃ مع  
فاطمۃ بنت قیس ابوہشیرۃ و عائشۃ وجابرؓ یہ حدیث غریب فرد  
اس لیے نہیں ہے کہ اس کو فاطمۃ بنت قیس کی طرح ابوہشیرۃ و عائشۃ اور جابرؓ نے بھی  
روایت کیا ہے ॥ فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۸۰ مگر پھر بھی روچار صحابیؓ کی روایت کرنے  
سے حدیث متواتر نہیں بن سکتی بلکہ خبر واحد ہی رہے گی اور اخبار احادیث پر اسلامی عقائد  
کی بنیاد نہیں بھی جاسکتی ہے ۔ تو اگر فاطمۃ بنت قیس کی اس روایت کو مجبوس فی الجزریہ  
شخص کے دجال اکبر ہونے پر قطعی الدلالۃ بھی تسلیم کیا جائے، تب بھی اس سے یہ اعتقادی  
مشکلہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ۔ دجال اکبر تینی طور پر وہ قیدی فی الجزریہ ہے جس  
کے ساتھ تمیم داریؓ کی مذاقات ہوتی تھی ۔ کیونکہ اعتقادیات کے ثبوت کے لیے یا  
قرآن کریم کی قطعی الدلالۃ ابتدی ضروری ہیں ۔ یا پھر متواتر احادیث اور یہاں ایسی کوئی  
دلیل موجود نہیں ہے ۔

### دجال کا مقام خروج وزمانہ خروج

مقام خروج کے متعلق کتب حدیث میں جواہادیت ملتی ہیں اُن پر مجبوٹی لگاہ  
ڈالنے سے انسان اس توجیہ پر پنچاہے کہ حضورؐ کو اللہ کی طرف سے مقام خروج کے  
متعلق بذریعہ وحی صرف آنحضرت ریا گیا تھا کہ مشرق کی جانب سے دجال خلاہر ہو گا میں  
کے علاوہ کسی مخصوص مقام کے متعلق وحی کے ذریعہ سے حضورؐ کو علم نہیں دیا گیا تھا ۔  
یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے مشرق کی جانب سے خروج دجال کا حکم جسم کے ساتھ کیا ہے  
چنانچہ تمیم داریؓ کی روایت میں حضورؐ نے جسم کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ : لا بل من

قبل المشرق اور محدثین نے بھی باعثوم یہ تسلیم کیا ہے کہ مقام خروج کے متعلق جو بتے جزم اور تعین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا۔ اگرچہ بعض کے نزدیک یہ تعین سمت بھی غالب ہلن کی بنابر ہے، نہ کہ عین بردھی، جیسا کہ مرقاۃ کے حوالے سے اور پر مذکور ہوا۔

اس کے علاوہ روایات اور احادیث میں چودھری مقامات کا ذکر آیا ہے۔

وَإِمَامٌ مَنْ يَخْرُجُ وَمَنْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ حِزْمًا - ثُمَّ جَاءَ

فِي رَوَايَةِ أَنَّهُ بَيْخُرُجُ مِنْ خَرَاسَانَ - اخْرُجْ ذَالِكَ أَحَدُ

والحاکم من حدیث ابی مکر - و فی اخیری انہ یخرج من

اصیهان - اخراجہ مسلم راجہ رفتح الباری سج ۱۲ ص ۶۴)

بڑی جال کے متعلق بیانات کہ دُوہ دیکھاں سے ظاہر ہو گا؟ اس کے بارے

میں خزم اور نصیب کے ساتھ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرق کی جانب

سے درجاء خروج کرے گا۔ پھر ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ خراسان سے درجاء ظاہر ہو گا۔ امام احمد اور حاکمؓ نے ابو بکرؓ کے واسطہ سے یہ حدیث نقل کی ہے مسلمؓ کی ایک روایت میں ہے کہ اصیہان سے درجاء ظاہر ہو گا۔“

بہر حال احادیث میں جن خصوصی مقامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ علم وحی پر منسوب ہے۔ اور نہ حضورؐ کو ان مقامات کے متعلق بذریعہ وحی کو تعلقی علم دیا گیا تھا۔ بلکہ گمان اور اندریشی کی بنا پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا کسی خاص مقام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ: ”درجاء لازماً وہاں سے ظاہر ہو گا۔“ اسلامی عقیدہ پر گز نہیں ہے۔

باکل اسی طرح کی حالت زمانہ خروج کی بھی ہے۔ اس کے متعلق تبلیغی جوابات جزم اور تینی کے ساتھ کبھی جاسکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ”قيامت سے قبل کسی قریب زمانہ میں درجاء کا ظہور ہو گا۔“ اس کے علاوہ کسی مخصوص وقت کے متعلق نہ حضورؐ کو وحی کے ذریعہ سے کوئی علم دیا گیا تھا اور نہ جزم اور تینی کے ساتھ حضورؐ نے یہ فرمایا ہے کہ ”خاص فلاں وقت میں درجاء ظاہر ہو گا۔“ وحی کے ذریعہ سے صرف اتنا علم دیا گیا تھا کہ قیامت کے قریب اس کا ظہور ہو گا۔ اور یہ علم بھی ابتداء میں نہیں بلکہ لذیر میں ریا گیا تھا پسی وجہ ہے کہ ابتداء میں حضورؐ نے اپنے زمانے میں بھی خروج درجاء کا اندریشی ظاہر فرمایا تھا۔ ابوداؤدؓ کی درجہ ذیل روایت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے:-

عن النواسِ بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وهو فيكم فانا جيجه

دونكم وان عجز عنك ولست فيكم فامرنا جيجه نفسه والله خليفة على كل مسلم۔ رابوداؤد۔ ج ۲۔ ص ۵۹۳۔

”تو اسیں سمعان کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ درجہال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: کہ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جائے تو میں خود آپ کی طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن اگر وہ میرے بعد ظاہر ہو جائے تو یہ شخص بطور خود اس کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے ہر مسلمان امتی کا محاقطعہ اور تجھیاں ہے۔“

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان بیخوج و انا فیکم کی تشریع کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

اَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اَنْذَالِكَ كَانَ قَبْلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ وَقْتُ خَرْوَجِهِ وَعَلَامَاتُهُ فَكَانَ يَحْبُرُ دُنْدُبَيْنَ لَهُ وَقْتُ خَرْوَجِهِ فِي حَيَاةِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوَّهَ بَيْنَ لَهُ وَقْتِ خَرْوَجِهِ فَأَخْبَرَ بَهُ فِي ذَلِكَ تَجْمُعُ الْأَخْيَارِ۔ اَهْ رَفْعَ الْبَارِي۔ ج ۱۳ ص ۸۰

مد حضور کا ارشاد، ان بیخوج و انا فیکم اس وقت کا ارشاد ہے جس وقت کہ حضور کو خروج درجہال کا وقت بھی معلوم نہ تھا اور علامات بھی معلوم نہ تھیں۔ اس وقت آپ یہ ملکی سمجھتے تھے کہ درجہال آپ کے زمانے میں ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعہ سے خروج کا وقت بتا دیا گی تو آپ نے اس کی خبر دے دی۔ اسی توجیہ سے تمام احادیث آپ میں بیخ جو ملکتی ہیں۔“

حافظ ابن حجر کے اس قول سے صاف طور پر یہ بات واضح ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانہ میں وحی کے ذریعہ سے کوئی علم درجہال کے زمانہ

خودج کے متعلق نہیں دیا گی تھا۔ اس وقت جو کچھ زمانہ خودج کے متعلق آپ نے اشارات فرمائے ہیں وہ علم و حج پر مبنی نہیں تھے بلکہ خیال اور گمان پر مبنی تھے۔ انہی میں سے ایک ارشاد یہ ہے: ان بخوج و انا فیکھ فانا جھیجہ دو تکم۔ اس کے بعد زمانہ خودج کے متعلق وحی کے ذریعہ سے علم دے دیا گیا تو آپ نے دجال کے زمانہ خودج سے ہت کر آگاہ فرمادیا۔

لیکن یہ پادر پے کروحی کے ذریعہ سے بعد میں جو علم دیا گیا تھا وہ کسی معین اور مخصوص وقت کا علم نہ تھا۔ کیونکہ روایات اور احادیث سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور نہ حضور نے اس کی کوئی خیردی ہے۔ بلکہ وہ صرف اس بات کا حذر تھا کہ، ”دجال آپ کے عہد میں نہیں بلکہ نیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہو گا۔“ لہذا آپ کا یہ اندازہ کہ دجال میرے زمانے میں کہیں پیدا نہ ہو یا سے ”قبل از وقت ہے۔“ مسئلہ دجال کے متعلق اور پرچم مباحثت پیش کیے گئے، ذیل میں ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے پل کر سکیں کہ مولانا مودودی نے دجال کے متعلق جو کچھ اپنی تحقیق پیش کی ہے وہ علمائے صفتؓ کے مذاہب میں سے کسی مذہب کے ساتھ موافق ہے یا نہیں۔ اور دور حاضر کے مخصوص علمائے کرام نے اس مسئلہ میں مولانا مودودی پرچم احتراضات کیے ہیں وہ کہاں تک مسیح اور صرف ہو سکتے ہیں۔

### گذشتہ مباحثت کا خلاصہ

سابقہ مباحثت جو اس مسئلہ کے متعلق پیش کیے گئے ہیں، خلاصہ کی صورت میں اُن سے جو امور واضح طریقہ سے معلوم ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:-

۱۰۔ روایات اور صحیح احادیث سے دجال کے متعلق جو چیزیں نقینی طور پر ثابت ہیں۔  
اور جن پر پورسکہ اپل السنۃ متفق تمجیدی ہیں اور اسلامی عقیدے کی حیثیت تمجیدیں  
مامل ہے اور علم وحی پر بنی بھی معلوم ہوتی ہیں وہ چار چیزیں ہیں ایک دجال کا  
وجود، دوسرا فیاضت کے کسی قریبی زمانے میں اس کا خروج۔ تیسرا ان صفات کا  
خالی ہونا۔ چوتھا مصدق صحیح احادیث میں مارد ہوتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام  
اُسے قتل کریں گے۔

۱۱۔ مسئلہ چہرہ بالا چار چیزوں کے متعلق جو صحیح احادیث وارد ہیں اُن میں کوئی نبیانی اختلاف  
یا تعارض ایسا نہیں پایا جاتا جو آسانی کے ساتھ وقوع نہ کیا جاسکے اس سے معلوم  
ہوتا ہے کہ حصہ کو ان چار چیزوں کا علم وحی الہی کے ذریعہ سے دیا گیا تھا۔ نہ  
کہ آپ نے ان چیزوں کی خبر کسی خیال یا گمان کی بنا پر دری تھی۔

۱۲۔ مذکورہ بالا چار چیزوں کے علاوہ روایات اور صحیح احادیث سے حیثیت دجال۔

مقام خروج اور زمانہ خروج کے متعلق کوئی قطعی اور نقینی فیصلہ معلوم نہیں ہوتا  
ہے کہ دجال اکابر خصوصی طور پر این صیاد ہو گا، یا جزیرے میں تعمید شخص۔ اسی  
طرح اس کا مقام خروج بھی کوئی معین اور خصوص مقام نہیں ہے۔ صرف اتنی  
بات جزم کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ «دجال مشرق کی جانب سے ظاہر ہو گا»۔  
نیز زمانہ خروج کے متعلق بھی کوئی مخصوص وقت معین نہیں کیا گیا ہے کہ اسی میں  
دجال خروج کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک امر پر بھی کسی وہر میں  
علم کئے امت متفق نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ ہر دو میں محدث رہے ہیں۔ اس لیے  
حیثیت، مقام خروج، زمانہ خروج کا تھیں اسلامی احتمال میں داخل نہیں ہے۔

(۵)۔ ان امور کے متعلق جتنی روایات اور احادیث وارد ہیں میں وہ مطلعی ثابت ہیں اور نہ مطلعی الدلالۃ۔ میں میں سے کسی ایک امر پر چند صحابہؓ میں اجماع فضی ہوا ہے جو ہم تک تواریخ پر سکا ہے۔ اور اسلامی عقائد کی بنیاد میں قطعیات پڑھا کر تھیں نہ کہ مطلعیات۔ اس سے بطور توجہ یہ بات خود تجوہ ثابت ہوتی ہے۔ کہ ان چیزوں کے متعلق حضور کے ارشادات علم وحی پر مبنی نہیں تھے بلکہ خالی خلصہ اور اندر دشیر پر مبنی تھے۔

اس کے بعد مندرجہ بالا خلاصہ کے چار امور کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مولانا مودودی نے دجال کے متعلق اپنا ہونظر پر پیش کیا ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط۔ اور عملتے کرامہ کے اتحاد ہے ہوئے اختراءات میں کوئی دزد بھی ہے یا کہ نہیں؟ ذیل میں یہ دونوں باتیں ملا حضرہ فرمائی چاہیں:

### مولانا مودودی کا نظر

ایک شخص نے دجال کے متعلق مولانا مودودی سے یہ سوال کیا کہ:

”ترجمان القرآن میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کافی نہیں دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے۔ تو آخر دہ کوئی سبھی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کوئی کوئی انسان نے چنان مارا ہے۔ پھر کسیں کافی نہیں دجال کا پتہ نہیں چلتا؟“

اس کا جواب آپ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ:

”کافی نہیں دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی بیانیت نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ایکم سینٹ روایات میں دجال کا ذکر ہے۔“

موجود ہے جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی۔ شرح السنہ اور  
بیہقیؑ کے ملاحظہ سے کی جاسکتی ہے۔ پھر آپ کا جواب کس مندرجہ میں ہے؟  
مولانا نے اس سوال کا درج ذیل جواب دیا ہے:

جواب: میں نے جس چیز کو انسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خال ہے کہ دجال  
کوئی مقید ہے۔ باقی سایہ امر کر ایک ٹرا فتنہ پر دواز را الدجال، ظاہر ہوئے  
والا ہے تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل  
ہوں۔ اور سہیشہ اپنی نماز میں وہ دعائے ماثورہ پڑھا کر تماہوں، جس  
میں نجدہ دوسرے تعریفات کے ایک یہ بھی ہے کہ اعوذ بیک من  
فتنة المسيح الدجال۔ (رسائل درسائل حصہ اول)

اس عبارت میں مولانا نے صاف طور پر آنے والے دجال کا اختلاف کیا ہے جو  
قیامت کی ایک حلامت ہے اور احادیث میں اس کے متعلق خبر دی گئی ہے اور بتایا  
کہ میں نہ صرف اس کا قائل ہوں بلکہ اس کے متعلق علام حضورؐ کی سنت کا پیر و بھی ہوں  
حضرتؐ بھی اپنی نماز میں نجدہ دوسرے تعریفات کے دعائے ماثورہ اعوذ بیک من فتنۃ  
المیم الدجال پڑھا کرتے تھے۔ اور میں بھی پڑھا کر تماہوں۔ آگے دجال کی شرعی  
جیشیت اور اس کے متعلق اسلامی عقیدے کی توضیح اور مختلف روایات کے  
مابین تطبیق کرنے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”دجال کے متعلق حقیقی احادیث بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی  
ہیں ان کے مضمون پر محضی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی  
ہے کہ حضورؐ کو اللہ کی طرف سے اس معاملہ میں جو علم ملا تھا وہ صرف

اس تک تاکہ ایک بڑا رجال خلابر ہر شے والا ہے۔ اس کی سیرو  
یہ صفات ہوتی ہیں اور وہ ان ان خصوصیات کا حامل ہو گا۔  
اس عبارت میں مراد نئے و جمال کے متعلق جن امور کا ذکر کیا ہے یہ بعض  
وہ امور ہیں جن پر و جمال کے متعلق اہل السنۃ والمجاہدین متفق ہیں۔ مثلاً و جمال کی  
اتباد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ترے کا فاضی عیاض کا قول نقل کرتے ہوئے ذہبی  
اہل السنۃ والمجاہدین کی جو ترجیحی بیان کی ہے۔ اس میں جو امر نہ کر رہی وہ  
بعضیہ یہی امور ہیں جو مرداناً مردودی نے اس عبارت میں و جمال کے لیے ذکر  
کیے ہیں۔ توضیح کی غرض سے یہاں پھر وہ عبارت نقل کی جاتی ہے جو بحث کی اتباد  
میں ایک و فقر نقل کی جا چکی ہے۔

قال القاضی عیاض فی هذہ الاحادیث حجۃ لاہل  
السنۃ فی صحة وجود الدجال و انه شخص معین یعنی  
الله بیه العباد و یقدیس علی اشیاء کا حیاء المیت الذی  
یقتله و ظہور الخصب والانوار والجنة والنار وغیرہ  
... وقد خالع فی ذات بعض المخواج والممعزفہ و  
الجهنمیة فانکروا وجود الدجال و من دعا الاحادیث  
الصحاب وذهب طوائف منہم کا الجیانی الی انه صدیق  
الوجود لکن کل الذی معہ مخواج و خیالات لاختیفة  
لها۔ اہد رفع البازی۔ ج ۱۲ ص ۹۰-۹۹

وہ فاضی عیاض نے کہا ہے کہ یہ احادیث اہل السنۃ والمجاہدین کے

لیے اس بارے میں جنت ہیں کہ دجال کا درجہ میخ ہے۔ اور یہ کہ وہ ایک ممیں شخص ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے ہندوں کو آئانش میں ڈالے گا اور اُسے چند چیزوں پر قدرت بھی دیگا جیسے اس متین کو دوبارہ زخم کرنے جس کو وہ پہلے قتل کرے گا۔ اور رزق کی فراوانی نہیں، جنت و دوزخ اور دوسرا چیزیں۔ رہے بعض خوارج دعتمر لہ اور جمیہ، تو وہ دجال کے وجود سے منکر ہوئے ہیں۔ اور صحیح احادیث کو انہوں نے روکیا ہے۔ جانی اور بعض دوسرے اہل باطل کے کو وہ نے دجال کا درجہ تو تسلیم کیا ہے لیکن دجال کے ہمراہ جو چیزیں ہوں گی اُن تمام کو خارق عادات امور اور خیالی چیزیں فرار رہیں ہے، جن کی ان کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اس عبارت میں دجال کے متعلق اہل السنۃ والجماعۃ، اور فرقہ باطلہ کے دینی چیزیں مابہ النزاع اور اخلاقی بیان ہوئی ہیں وہ دجال کا وجود اور ظہور اور وہ صفات و خصوصیات میں جو صحیح احادیث سے دجال کے لیے ثابت ہیں۔ انہی چیزوں کے بارے میں اہل السنۃ کا مذہب یہ ہے کہ وہ دجال کے شایست اور صحیح ہیں۔ اور فرقہ باطلہ کا مذہب ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ اور بھی تمام امور محدثنا کی سابقہ عبارت میں دجال کے لیے ثابت کیے گئے ہیں۔

اس کے بعد فرید تو فتح کیلئے مقام خروج زمانہ خروج اور شخصیت دجال پر تبصرہ کرتے ہوئے ہوئے ہوئے جو کچھ تحریر کیا تھا اس کے بارے میں ایک

صاحب نے مولانا کو سمجھا تھا کہ اس کے بعض الفاظ اور فقرہوں سے جناب رسالت کا حل  
الش علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا پھلوٹ لکھتا ہے۔ مولانا نے ان کے حوالہ میں جو کچھ تجزیہ  
کیا وہ درج ذیل ہے :

معاذ اللہ، کیا کوئی مسلمان اس بارگاہ میں گستاخی کا کبھی خیال بھی کر سکتے  
ہے؟ اور اگر کسے تو ایک لمحہ کے لیے بھی رائہ اپناں میں رکھتا ہے؟  
میرے کسی دینی بھائی کو یہ سُوْنُخُلٰ تو مجھے نہ ہونا چاہیے کہ میں کبھی اس  
کفر سے بھی ملوث ہو سکتا ہوں، البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلہ کے بیان میں  
ایک طرز تعبیر میرے نزدیک حدود شرع و ادب کے اندر ہو جاؤ زیر  
اس میں کوئی تجاوز محسوس کرے۔ میں نے اس مضمون میں جو کچھ سمجھا تھا،  
پورے احسان ذمہ داری کے ساتھ یہی سمجھتے ہوئے سمجھا تھا کہ یہ حوثرہ  
ادب کے اندر ہے اور ایب بھی اپنے دوست کے توجہ دلانے کے بعد  
کافی غور کرنے پر بھی میں اس پیں کوئی تجاوز محسوس نہیں کر سکا ہوں تاہم  
یہ معلوم ہو بلکہ کوئی شخص اس میں تجاوز محسوس کر سکتا ہے،  
میں ان عبارتوں کو بدل دینا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ کسی غلطیہ  
کی گنجائش باقی نہ رہے۔

ترجمان القرآن، جمادی الاول ۱۴۲۴ھ

اس کے بعد مولانا نے رسائل وسائل حصہ اول کے پہلے ایڈیشن کی عبارت  
کا بشیر حصہ بدل دیا اور دوسرے ایڈیشن میں نئی عبارت کامن رسی ذیل صورت  
میں ثانیع ہوا ہے۔

و دجال کے متعلق حقیقی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی میں، ان کے مخصوص پر مجروحی نظر دنئے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت کو الشک طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا، وہ صرف اس حذیک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کی یہ اور یہ صفات ہر دلگی اور دلہان ان حصوصیات کا حامل ہو گا۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ظاہر ہو گا اور کہاں ظاہر ہو گا اور یہ کہ آیا وہ آپ کے چند میں پیدا ہو چکا ہے یا آپ کے بعد کسی بعد زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق چون مختلف باشیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں ان کا اختلاف مخصوص خود پر ظاہر کرتا ہے اور حضور کے طرز کلام سے بھی یہی ترشیح ہوتا ہے، کوہ آپ نے برندتے وحی نہیں بلکہ برندتے نہیں وہ قیاس ارشاد فرمائی ہیں کبھی آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خواسان سے اٹھے گا۔ کبھی پر کہ اصرہان سے اور کبھی یہ کہ شام و حراق کے درمیانی علاقے سے پڑ کبھی آپ نے ابن حبیاد نامی اس بیرونی نپکے پر جو مدینہ میں (غائب ۲ یا ۳ مسیحی) پیدا ہوا تھا، پوشاہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو۔ اور آخری روایت یہ ہے کہ سن و ہجری میں جب فلسطین کے ایک عیسیائی راہب دیلمون داری نے آگرا اسلام قبول کیا اور آپ کو یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ حسندر میں رعاب بھروسہ مایوس حوب میں سفر کرتے ہوئے ایک غیر ایاد جزیرے میں پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ غربی دجال ہے، تو آپ نے ان کے بیان کو

بھی غلط بادر کرنے کی کوئی وجہ نہ بھی، امہمہ اس پر اپنے شک کا انہمار فرمائیا  
کہ اس بیان کی رو سے وصال بحر دم یا بحر عرب میں ہے مگر میں خیال کرتا  
ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہو گا۔

ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجرمی نظر دلے گا وہ اگر علم دین  
اور اصول دین سے کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے یہ سمجھنے میں کوئی نہ صحت  
پیش نہ کئے گی کہ اس معاملہ میں حنفی کے ارشادات درجہ اولیہ  
مشتمل ہیں:

جزء اول یہ کہ وصال آئے گا، ان صفات کا حامل ہرگما احمد رضا صدر  
یہ سمجھنے پر پاکرے گا، یہ با بل نقیبی خبری ہیں جو اپنے الشرک کی طرف سے  
دی ہیں۔ ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔  
جزء دوم یہ کہ وصال کیسا اور کہاں ظاہر ہو گا اور وہ کون شخص ہے۔

اس میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ الشرک روایات میں شک لوثیہ  
اور گمان پر دلالت کرنے والے انفاظ بھی مردی ہیں۔ مثلاً ابن الصیار کے  
متفق آپ کا حضرت علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ اگر وصال یہی ہے تو اس کے مقابلے  
کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو تمہیں ایک معاہد کو تسلیم  
کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک حدیث میں آپ کا یہ ارشاد کہ اگر وہ  
میری زندگی میں اگر تو میں محبت سے اس کا مقابلہ کروں گا اور نہ یہ  
بعد میرا رب تو ہر مرمن کا حامی وناصر ہے ہی  
اس دوسرے جز کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں

ہو سکتی جو پہلے جزو کی ہے۔ جو شخص اس کی بھی تامن تفصیلات کو اسلامی عقائد  
 میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دھوئی  
 کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب صیاد پر آپ کو شبیر ہوتا تھا کہ شاید ہی بیال  
 ہم اور حضرت عمرؓ نے تو قسم بھی کھالی تھی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ  
 مسلمان ہوتا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں رہا اور اس کی ناز جزا  
 مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک اپنے صیاد  
 پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے؟ قسم داری کے بیان کو حضور نے اس  
 وقت تک تقریباً صحیح سمجھا تھا، مگر کیا سارے ہے تیرہ سوریں تک بھی اس  
 شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت قیمؒ نے جزیرے میں محبوب و مکھا تھا یہ  
 ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو  
 خبر حضرت قیمؒ کو دی تھی وہ صحیح نہ تھی؟ حضور کو اپنے زمانہ میں یہ اندیشہ تھا  
 کہ شاید دجال آپ کے چہرے میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی  
 زمانہ میں تلاہ ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ سارے ہے تیرہ سوریں گزر  
 چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا؟ اب ان چیزوں کو اس طرح نسل و  
 روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح  
 نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ  
 میں حق کو چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے  
 قیاس یا لگان یا اندیشہ کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب بنت  
 میں پر گلزار نہیں ہے۔ نہ اس سے صرف اپنی کوئی عقیدے پر

کرنی ہوتا آتا ہے اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لاتے کے بیٹے شریعت  
تے ہم کو مکلفت کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو تابیر خل والی حدیث میں  
بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود واضح فرمائے گئے ہیں:-

اور سائل وسائل حفظہ اول، بیح ثانی مص ۷۴۷ تا ۷۴۸

مولانا نے اپنے اس مفصل جواب میں دجال کے متعلق اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے  
یا مشکل کی جو تشریعی اور تحقیقی پیش کی ہے یہ حقیقت ہے کہ اس میں دجال کے تمام  
گوشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اگر اس کے متعلق یہ کہا جاتے کہ مولانا نے دریا کو  
کوڑہ میں بند کر دیا ہے تو زیادہ صبا الغرہ آئیز نہ ہو گا۔ اس تحقیقی اور تشریعی کے مطابق  
خداہ کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ مگر بھائی خود یہ حقیقت ہے کہ بچپنے مباحثت  
میں علمائے سلف کی تصریحات کی روشنی میں مشکل دجال کی جو نظریہ کی گئی ہے اس کے  
پیش نظر ایک خدا اترس آدمی اور حقیقت پند عالم پیکھنے کی جرأت ہرگز نہیں کر  
سکتا کہ دجال کے متعلق مولانا کی یہ تحقیق اصول شریعت سے متصادم ہے۔ یا  
مسئلات دینی سے مکار ہی ہے۔ یا علمائے سلف اور اہل اشتہر و ابیاعتنی  
وجال کے متعلق اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے۔ مولانا محدودی کا نظریہ اس سے مختلف  
ہے۔ گذشتہ مباحثت میں مشکل دجال کے متعلق علمائے سلف اور ائمہ حدیث  
کے جو مذاہب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں دجال کے اعتبار سے ایسی ترین مذہب  
چو تھا مذہب ہے۔ اس مذہب کا فیصلہ دجال کے متعلق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم سے دجال کے متعلق کتب حدیث میں خوبی احادیث مروی ہیں۔ ان سے  
جو بات تلقینی طور پر معلوم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دجال قیامت کے قریب

ظاہر ہو گا۔ اور اس میں یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ اور ان ان خصلتوں کا حامل ہو گا۔ ”رہا یہ کہ وہ کون شخص ہو گا۔ کہاں سے ظاہر ہو گا اور کب ظاہر ہو گا؟ تو یہ چیزیں نہ احادیث سے بقینی طور پر ثابت ہیں اور نہ یہ اسلامی عقائد میں شامل کی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ اسلامی عقائد کی بنیاد قطبی وجی ہو سکتی ہے۔ اور مذکورہ بالاتمین چیزوں کا ثبوت وجی علمی سے ہنسیں ہو سکتا۔

نیز آن مباحثت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ بعض روایات میں جن اشخاص یا اتفاقات کا ذکر کیا ہے وہ علم و حجی پر مبنی نہیں بلکہ حضور کے ذاتی خیال اور گمان و اندر پیشہ پر مبنی تھا۔ ورنہ ان روایات میں ناقابل تطبیق حد کا تعارض اور اختلاف واقع نہ ہوتا۔ اور نیز ان چیزوں کے بارے میں علمائے سلف اور ائمہ حدیث مختلف ہو جاتے، کیونکہ علم و حجی پر مبنی ارشادات میں ناقابل تطبیق تعارض واقع نہیں ہو سکتا۔ اور نہ آن میں بیان شدہ اعتقادی مفتاویں میں علمائے سلف کے درمیان اس قدر اختلافات واقع ہو سکتے ہیں۔ جس قدر کہ دجال کی شخصیت۔ مقام خروج اور زمان خروج میں اُن کے مابین واقع ہو سے ہیں۔

اور یہ ساری باتیں مولانا مودودی کے اس فصل جاپ میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن پھر بھی اتفاقات کے علیرغم اور ہب کے ٹھیکدار اور ارباب رہد و تقویٰ حضرت مولانا مودودی کو معاف نہیں کرتے اور کہا کرتے ہیں کہ دجال کے متعلق مولانا مودودی کا انظر یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابق نہیں ہے بلکہ اُن سے مخالف ہے۔ قاضی مظہر حسین صاحب کا پہلا اعتراض

زیل میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفن فوائد درود

کے ایک خلیفہ مجاز کے وہ اخترا صفات ذکر کیے جاتے ہیں جو مولانا مودودی کے نظریہ دجال پر انہوں نے اضافے ہیں۔

محترم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب اپنی کتاب دہودی چاعت کے عائد نظریات پر ایک تنقیدی نظر، میں مولانا کی مذکورہ بالا عبارت کے کچھ اقتباسات پیش کرنے کے بعد ان کا خلاصہ درج ذیل چار چیزوں کی صورت میں اس طرح پیش کرتے ہیں  
”بہر حال مذکورہ اقتباسات میں مودودی صاحب نے حسب ذیل امور کی تصریح کر دی ہے۔

(۱) ”حضور کو دجال کے متعلق تفصیلات کا علم نہ تھا کہ کہاں اور کب ظاہر ہو گا۔

(۲) ”یہ بھی اندریشہ تھا کہ شاید کہ حضور کے عہد میں ہی ظاہر ہو جائے۔

(۳) ”حضور نے یہ باتیں حرفاً پسے قیاس کی پتا پر فرمائی تھیں نہ کہ وجہ کی نیا پر  
”سال سے تیرہ سو سال کے تاریخی تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ دجال کے متعلق  
حضور کا یہ اندریشہ کرو کہیں مقید ہے، یا آپ کے عہد میں یا اس کے بعد  
قریبی زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے صحیح نہ تھا۔“

پھر اس کے بعد محترم قاضی صاحب ان چار چیزوں کا رد اس طرح کرتے ہیں۔

”دجال کے متعلق حضور کے ارشادات میں گلے گئے حق رکھے

ہیں اور یہ بات منصب سالت سے بصیرت ہے کہ حضور ربی امور میں حضور نے  
”قیاس کی پتا پر پیش گئی فرمائی۔ انسیاں بیہمِ اسلام آئندہ کے متعلق  
کوئی غیر قدردار اثر بات نہیں فرماتے اور نہ ہی انسیاں دینی امور میں  
کی پتا پر قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ رسول خدا صدمہ شک کی پتا پر کوئی پیش  
گئی نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ آئندہ کے متعلق کہتے ہیں وجہ کی پتا پر کہتے ہیں

۱۰

دجال کے پارے میں حضور کے تمام ارشادات کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کرو۔ پیشین گفتہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حدود یہ غلط ہے۔ پیشین گفتہ سے صرف وہ ارشادات تعلق رکھتے ہیں جو خوب و دجال اور صفات دجال سے متعلق ہیں۔ اور یہ ارشادات ہونا مفہودی کے نزدیک بھی ممکن بود ہیں۔ جیسا کہ حیات ساقی میں وہ اس کی تصریح کر چکے ہیں۔ اور جن ارشادات کو مولانا مفہودی نے ممکن قرار دیا ہے وہ ارشادات وہ ہیں جو شخصیتِ دجال، مقامِ خروجِ دجال اور زمانہِ خروج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ وہ بھی ممکن بود ہیں۔ نہ صرف غلط ہے بلکہ مفہوم کہ خیز بھی ہے۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ جبکہ ارشادات آپ حضرات کے نزدیک بھی بر دلی ہیں تو ان میں مقامِ خروج یا شخصیتِ دجال کے متعلق یہ ممکن تطبیق تعارض اور اختلاف کس طرح ماقع ہوا ہے کہ نہیں میں خراسان کو مقامِ خروج بتایا گیا ہے۔ اور بعض میں اصفہان کو اور بعض دوسرے ارشادات میں شام و عراق کے دریافتی علاوہ۔ اور بعض دوسری احادیث میں کسی مخصوص مقام کی بجائے صرف مشرق پر اپناء جرم فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ تمہاری کی رعایت میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ لا ایں من قبیل المشرق۔ کیا وحی الہی میں بھی ناجاہل تطبیق تعارض اور اختلافات واقع ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کا فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ اختلافات وحی الہی میں نہیں بلکہ دوسرے کے

کلام میں ہوتا کرتے ہیں۔ ارشاد ہے:

وَنَوْمَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ رَبِّهِ لَوْجُودٌ وَارْفَابِ الْخَلَاقِ شَيْرَا وَاهَيْ،

”اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہوتا تو لوگ اس

میں بہت سے باہمی اختلافات اور تضاد بیانی پاچکے ہوتے۔“

شاپنگ، حضور سے پہلے جتنے انہیاں مگر رے ہیں ان سب کے متعلق حضور ہی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فقدان سے اپنی قسم کو ڈالا یا ہے۔ ما من نبی اللاد قد انذر قومہ اللد جمال رنجاری، تو کیا ان انبیاء علیہم السلام کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے متعلق ان کے اس قسم کے تحریکی ارشادات میں بروجی تھے؟ کیا ان کو اس قسم کی کوئی وحی خدا کی طرف سے آئی تھی کہ دجال آپ کی انتقال میں ظاہر ہو گا جبکہ امر واقعیتی تھا کہ دجال خاص حضور ہی کی انتقال میں ظاہر ہو گا اور ان کا زمانہ خروج دجال کا زمانہ تھا ہی نہیں۔ پھر کس بنیاد پر آپ سارے انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے یہ قاسم ارشادات میں بروجی ہیں؟

شاپنگ، دجال کے زمانہ خروج کے متعلق حضور کے ارشادات کا انداز بیان خود بتلاتا رہا ہے کہ وہ میں بروجی نہیں بلکہ شک اور گان پر میں ہیں۔ ہمارے اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے حضور کا یہ ارشاد واضح دلیل اور بیکار بوجہ ہے:- ان بیخروج فانا فیکھ فانا جیججه و ان بیخروج دلست فیکھ فاماً جیجے نفسه۔ جو لوگ عرب زبان کے محاورے سے تحریر ہی بہت واقعیت رکھتے ہیں وہ ابھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ارشاد شک اور تردید پر مبنی ہے کیونکہ عربی محاورات میں لفظ ان شک اور تردید کے لیے وضع کیا گیا ہے اور شک و تردید میں استعمال بھی کیا جاتا ہے پھر کس

محل عقل سلیمان یہ بادر کرے گی کہ زمانہ خروج کے بارے میں حضور کے یہ ارشادات از قسم پیشیں گئی ہیں اور ان کی بنیاد علم وحی پر بھی گئی ہے جیسا کہ انبیاء علیهم السلام کو بھی اپنی وحی کے بارے میں شک اور تردود لائق ہو سکتا ہے؟

آپ نامیں یاد نہ مانیں۔ مگر ہے یہ حقیقت کہ ان بخراج وانا فیکو کو مولانا محمد عدی کی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی شک اور تردود پر حمل کیا ہے۔ چنانچہ اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے حافظ موصوف لکھتے ہیں:

اَنَّهُ حَمْوَلَ عَلَى اَنْ ذَكَرَ كَانَ قَبْلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لِهِ رَقْتُ  
خَرْوَجَهُ وَعِلَامَاتُهُ فَكَانَ يُجْوَزَانَ بِخُرُوجٍ فِي حَيَاَتِهِ ثَمَّ بَيْنَ

لِهِ رَقْتٍ خَرْوَجَهُ فَأَخْبَرَ يَهُ اَهْدَى رَفْعَةٍ (۱۳ ص ۱۶)

وہ حضور کا یہ ارشاد اس وقت کا تھا جبکہ آپ کو خروج درجال کا وقت اور علامات نہیں بتائے گئے تھے تو اس وقت آپ ملکی سمجھتے تھے کہ شاید درجال آپ کے زمانہ میں ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ کو وقت خروج بتا دیا گیا تو آپ نے اس کی خبر دے دی۔

تو کیا آپ کے زو دیک حافظ ابن حجر ائمہ بھی منصب رسالت پر ناروا حمل کیا ہے؟ پھر امام فوہی کے متعلق آپ کی فتویٰ صادر فرمائیں گے جبکہ اس نے بھی حضور کے ای ارشادات کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ:

مَا لَظَاهِرُ اَنَّ الْبَيْوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ دِيْوَاجُ اَلِيْهِ  
فِي اَصْرَى بِشَيْوَرِ وَانْعَا اَدْمَى اِلِيْهِ بِصَفَاتِ الدِّجَالِ وَكَانَ  
فِي اَبْتِ صَيَادِ قَرَائِنَ مُحَمَّلَةً فَلَذِ الْكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَقْطُعُ فِي امْرٍ بِشَيْءٍ بِلَّا قَالَ نَعَمْ لَا خَبَرَنِكَ فِي قَتْلِهِ -

دستخط ابشاری ۱۳ اص ۲۲۹

دعا پڑی ہے کہ حضورؐ کو این صیاد کے متعلق وحی کے ذریعہ سے کوئی علم نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ وحی کے ذریعہ سے آپؐ کو صرف صفاتِ رجال کا علم ملا تھا۔ این صیاد میں بھی چونکہ رجال پہنسنے کی علامات موجود تھیں اس لیے حضورؐ نے اس کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرمایا۔ بلکہ عرض کے صرف آنانفرما یا کہ اس کو قتل کرنے میں آپؐ کی بخلافی نہیں ہے۔

کیا ان عبارات میں صریح طور پر حضورؐ کی طرف رجال کے معاملہ میں شک استور تردد کی نسبت نہیں کی گئی ہے؟ پھر چاہیے کہ آپؐ جرأت سے کام نے کر لام فروج اور حافظ این حجر دنوں کے متعلق بھی مولانا مودودی کی طرح یہ فتویٰ سے دے دیں کہ انہوں نے بھی منصبِ رسالت پر ناپاک حملہ کیا ہے؟ لہذا آپؐ کا یہ اذم کہ مولانا مودودی نے اس طرح کا دعویٰ کر کے منصبِ رسالت پر ناروا حملہ کیا ہے؟ بجانبِ خود مولانا مودودی پر لیکے ناپاک اور ناروا حملہ ہے۔

راجua، مولانا مودودی کے متعلق مختصر قاضی صاحب کا یہ دعویٰ کہنا کہ انہوں نے حضورؐ کے متعلق یہ کہا ہے کہ:

”حضرت رجال کے خبروں کے بارے میں خود شک میں تھے۔“ (تفصیلی تحریث) حضر افترا اور صریح بہتان ہے جس کی ترقی کم سے کم ایک ایسے عامہ سے تو نہیں کی جاسکتی جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نوکری مرقدہ کا ایک مجاز خلیفہ غاہر کر رہے ہیں۔

ٹپور دجال کے بارے میں تو مولانا مودودی نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ حضور  
دھی کے ذریعہ سے اس کا علم دیا گیا تھا۔ یہ بھی مولانا نے تصریح فرمائی ہے کہ ظپور  
دجال اور صفاتِ دجال کے بارے میں حضور کے تمام ارشادات دھی پر بنی ہیں اور  
یہی وجہ ہے کہ ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔

### دوسری اعتراض

اس کے بعد مفترم قاضی مظہر حسین صاحب اخرا من میں ارشاد فرماتا ہے

ہیں:-

”دجال اگر کے معاملہ میں حضور نے تصریح فرمادی ہے کہ اس کو  
حضرت علیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نزول فرمائیا باب کُدرِ قتل  
کریں گے۔ اور چونکہ حضرت علیٰ علیہ السلام قریب قیامت میں نازل ہو گے  
اس لیے یہ محقق ہو گیا کہ دجال کا ظپور بھی اس وقت ہو گا۔ ہند ایشیہ شہر  
جاتا رہا کہ حضور کریم ایشیہ شاکر دجال آپ کے چہرہ میں خلاہ ہو جائے۔  
اسی طرح دجال کی دوسری علامات بھی جو احادیث میں منقول ہیں،  
قریب قیامت سے تعلق رکھتی ہیں۔“

(متقیدی نظر ص ۱۷)

### تبصرہ

جناب عالیٰ ایہ بات سبکے نزدیک ستم ہے کہ دجال قیامت کے قریب  
زمانہ میں خلاہ ہو گا۔ اور حضرت علیٰ علیہ السلام اُسے آکر قتل کریں گے۔  
لیکن اس سے یہ شبہ کیسے رفع ہو گا کہ حضور کو ان مخرج و انافیکو کے ارشاد

فرمانے کے وقت یہ اندیشہ تھا کہ دجال آپ کے چہر میں ظاہر ہو جائے گے؛ یہ علم کہ دجال خیامت کے قریب ظاہر ہو گا۔ یہ تو ٹھاپہ تول چھوڑ دیوں میں دیا گیا تھا اور ابتدہ میں۔ ورنہ این صنیلوں کے بارے میں آپ کو یہ شبہ کیسے پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں وہ دجال اکبر نہ ہو۔ تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ابتداء میں حضور کو اپنے چہر میں ظاہر دجال کا اندیشہ ہو۔ اور اسی بنا پر آپ نے فرمایا ہو کہ: ان بخروج وانا ذیع زنا فنا جسے ہجی طرح کہ مولانا مردودی کہتے ہیں ہ پھر یہ بات تو حافظہ ابن حجر الحادیہ اللہ تعالیٰ ہی کے کہ اس ارشاد کے وقت حضور کو اپنے چہر میں دجال ظاہر ہونے کا شہادہ اندیشہ تھا، تو اس کے متعلق جوابِ عالیٰ کی رائے کیا ہے؟

ثانیا: حضور کی مجرد اس تصریح سے کہ حضرت علیہ السلام دجال کو مجب  
لہ پر قتل کریں گے ؟ آپ کا یہ اندر شہر کیسے زائل ہو سکتا ہے کہ دجال آپ کے بعد  
میں ظاہر نہ ہو جائے ؟ کیونکہ حضرت علیہ السلام اگرچہ قریب قیامت میں زائل  
ہوں گے مگر حضور کا عہد بھی قریامت کے قریب عہد ہے۔ آپ نے فرمایا ہے  
یعنی اتنا واساعۃ کھاتین۔ میں اور قیامت دونوں دن انگلیوں کی طرح  
ایک سالخہ بیسجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں میں فرمایا ہے :  
اقربت الساعۃ والشّق العسر۔ قیامت قریب ہو گئی اور چارہ دھپٹ گیا۔  
نیز فرمایا ہے : اُنْتَ رَبُّ الْأَنْسِ حِسَابُهُ فِي النَّاسِ لَوْلَا كُوْنَ كَافِتْ حِسَابٌ قَرِيبٌ  
ہو گیا۔ نیز بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت نے امداد اغیرہ خیال فرمایا ہو کہ شاید دجال کا  
خدوچ میرے عہد میں ہو اور زوال میمع و قتل دجال بعد میں واقع ہو۔  
درامیں آپ حضرات کے دل و دماغ پر تصور کا خذیر غالب ہو گیا ہے۔

اس نے یہ آپ مولانا مودودی کی ہر بات کی تردید کرنا اپنا فرض کیا تھا ہیں۔ حالانکہ ہر بات قابل تردید نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اصولِ دین اور مسئلَتِ شریعت کی روشنی میں دجال کے متعلق اگر صحیح اسلامی تفہید کرنے ہو سکتا ہے تو وہ صرف وہی تفہید ہے جو مولانا مودودی نے اپنی تحریک میں بیان کیا ہے تو اور جو لوگ اس پر اقتراض کرتے ہیں وہ خواہ مخواہ ایک سیدھی بات میں ٹیڑھ نکالنے کی ناکامی کر شکر لئے ہیں۔“

### تیسرا اعتراض

پھر محترم جانبی قاضی منظہر حسین صاحب اختراعض مکمل میں ارشاد فرماتے ہیں:-  
کہ ”ابن صیاد بھی معتقد درجاؤں میں سے ایک دجال تھا۔ حضور نے اس کو دجال اکابر  
نہیں سمجھا۔“

### چوتھا اعتراض

”بما فرض اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضور نے کچھ باتیں اپنے قیاس کی بنی  
پر فرمائی تھیں تو پھر بھی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرفت سے بذریعہ  
وہی حضور کے شکر کو دور نہ فرمایا گیا ہو۔ کیونکہ انہیاں علیمِ اسلام  
کا خطاء پر باقی رہنا محال ہے۔“ دتفہیدی نظر میں

### تبصرہ

محترم قاضی صاحب نے اختراعض مکمل میں جو یہ فرمایا ہے کہ ”ابن صیاد  
معتقد درجاؤں میں سے ایک دجال تھا۔ حضور نے اس کو دجال اکابر نہیں سمجھا۔“  
اس سے شاید وہ مولانا مودودی کے اس نکتہ کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ

ابن صیاد پر آپ کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی درجال ہو۔ اور حضرت عمرؓ نے تو قسم بھی  
کھالی سمجھی کہ یہی درجال ہے مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا۔ جو میں میں رہا عالمتِ اسلام میں ہوا  
اوہ اس کی نمازِ جانشہ مسلمانوں نے پڑھی۔ آب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابھی صیاد  
پر درجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے ہے؟ اگر حضرتِ ناضری سا سب کا مقصد فی الواقع یہی ہر قو  
اس کے متعلق ہم عرض کریں گے کہ آپ کا یہ جواب آپ کے اس نظریہ کے خلاف ہے جو  
صحابہ کرام کے متعلق آپ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے متعلق آپ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس  
سمنی میں سیارِ حق ہیں کہ ان کا ہر قول اور فیصلہ دینی معاملات میں مبنی برحق اور مسواب  
ہے۔ اور جو بھی قول یا فیصلہ ان کے قول اور فیصلہ کے خلاف ہو گا وہ باطل بھی ہو گا  
(اور گمراہی بھی)۔

یہ جواب اس نظریہ کے خلاف اس لیے ہے کہ ابن صیاد کے متعلق حضرت عمرؓ ایں غیر  
جاہل۔ ابن سعود اور حضرت ابو قرہ بنی اللہ عنہم اجمعین کا یہ مذہب اور قطعی فیصلہ تھا کہ  
وہی درجالِ اکبر ہے یہاں تک کہ اس کی مرث، جو میں میں رہائش اور مرث کے بعد  
اس پر نمازِ جانشہ پڑھنا یہ سب امرِ آن کے اُس جزم کو متزلزل نہ کر سکے جو ابین  
صیاد کے درجالِ اکبر ہونے کے متعلق انہیں حاصل تھا۔ حضرت جابرؓ سے ان سے  
ٹاگر و ابن ابی سلمہ نے کہا کہ ابن صیاد کے متعلق آپ کے کہتے ہیں کہو درجالِ اکبر  
ہے حالانکہ اونہ قدamat ہو تو مرچکا ہے۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا، وان ماتھ  
اگرچہ مرچکا ہے۔ پھر ابن ابی سلمہ نے کہا کہ فاتحہ قدامت اسلام“ و تو مسلمان ہو چکا  
ہے۔ فرمایا: وان اسلام“ اگرچہ مسلمان ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فاتحہ  
دخل المدینۃ“ و تو مدینہ میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا وان دخل

المدینۃ میں اگرچہ مدینۃ میں بھی داخل ہو چکا ہے ۔ (ابوداؤد، ج ۲ ص ۵۹۵)۔  
 فتح البیاری (ج ۱۳ ص ۲۷)۔ ابن عمر نے ابن صیاد کے متعلق اپنا جسم ان نقطوں  
 میں ظاہر کیا تھا کہ: دا عَلَه مَا أَشْكَى إِنَّ الْمَسِيحَ الدِّجَالَ هُوَ أَبْرَأُ  
 کی قسم بھی اس بات میں فرقہ برابر بھی شک نہیں کہ ابن صیاد ہی دجال اکبر ہے ۔

فتح البیاری (ج ۱۳ ص ۲۷)، ابن سعید اور حضرت ابوذرؓ نے تو یہاں تک فرمایا تھا  
 کہ اگر ہم دس دس قصیل کھا کر یہ کہہ دیں کہ دجال اکبر ابن صیاد ہے تو یہ بات میں بہت  
 پسند ہے یہ نسبت اس کے کو ہم ایک رفع بھی قسم کہا میں کہ ابن صیاد دجال نہیں ہے ۔  
 (فتح، ج ۱۳ ص ۲۸)

اب ہم محترم قاضی مظہر حسین صاحب اور اُن کے حواریوں سے یہ پوچھتے ہیں  
 کہ اس بارے میں ہم آپ کو اور آپ کی طرح اُن محدثینؓ کو معاشر حق مانیں جن کی آپ  
 نے راستے نقل کی ہے یہ آپ کے مقابلے میں حضرت حمزہ، ابن عمر، جابرؓ، ابن سعید اور  
 ابوذرؓ جیسے صحابہ کو معاشر حق مانیں جنہوں نے ابن صیاد کے بارے میں اپنا جسم اور  
 یہ تین خاہر کیا ہے کہ دجال اکبر ہو گا ہے اگر ہم آپ کو معاشر حق مان لیں اور کہہ دیں  
 کہ ابن صیاد دجال اکبر نہیں ہے تو حضرت عمر وغیرہ صحابہ کرام صیاد حق نہیں رہتے کیونکہ  
 انہوں نے این صیاد کو دجال اکبر تسلیم کیا ہے اور یہ آپ کے حقیقتہ معاشر حق کے مخالف  
 خلاف ہے۔ اور اگر ہم معاشر حق کو صیاد حق تسلیم کریں کہ دجال اکبر ابن صیاد ہے، تو  
 آپ کا یہ فرمانا کہ این صیاد دجال اکبر نہیں ہے، درست نہیں رہ سکتا۔ فہل الی خروج من سبیل؟

محترم قاضی مظہر حسین صاحب نے اخراجیں پڑائیں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کے متعلق

اوّلاً ہم عرض کریں گے کہ بیشک انبیاء و علیہم السلام کا خطاب پر باقی رہنا ممکن نہیں بلکہ حال ہے۔ لیکن اس کا تعلق انبیاء و علیہم السلام کے ان فیصلوں سے ہے جو انہوں نے اپنے اجتہاد سے کسی ایسے محاں کے متعلق جزماً دیئے ہوں جو اجتہادی ہو۔ اور اس کے ساتھ حکم فقہی کا تعلق ہو۔ ایسے اجتہادی معاملات میں احکام شریعت کے استنباط میں اگر انبیاء سے اجتہادی خطاب مقرر ہو جائے تو اس پر ان کا باقی رہنا محال ہے کیونکہ یہ اُن کی ایک اجتہادی لغزش ہے۔ اور انہی لغزشات پر انبیاء و علیہم السلام کو تنبیہ ملنی ضروری ہے کیونکہ احکام شریعت میں امت کے لیے ان کا اتباع ا ضروری ہے۔ اور لغزشات میں اتباع درست نہیں ہے۔ ربا کسی واقعہ کے متعلق اُن کا اندریشہ ظاہر کرنے کا کوشش کرنا کہ ممکن ہے یہ فلاں چیز ہوئے تو اس میں مرے سے کوئی حکم اور فیصلہ ہے یہی نہیں کہ اس کو صحیح کیا جائے برخطا کہہ سکیں۔ نہ اس طرح کے معاملات میں تنبیہ و تصحیح کی حاجت ہے کہ اخراجیں کے معاملے میں کوشی وحی نازل ہوتی تھی، حالانکہ اس میں آنحضرت نے اپنے گان کی نا پر ایسی بات ارشاد فرمائی تھی جو نافع ثابت نہ ہوئی۔ و تعالیٰ کی خصیت، تعالیٰ خود اور زمانہ خود کے بارے میں حضور کے جتنے ارشادات میں وہ اقسام کا نہیں، نہ اُن میں حضور نے جزماً کی فیصلہ دیا ہے کہ بتقدیر خطا اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آئئے۔ بلکہ وہ ارشادات مخصوص ایک گان کو اندریشہ پر بنتی تھے جو بعض اشخاص کے متعلق صرف اس بنا پر خلاہر کیے گئے تھے کہ اُن میں و تعالیٰ کے صفات اور خصوصیات میں زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے حضور نے ان اشخاص کے متعلق یہ گان اور اندریشہ خلاہر فرمایا کہ کہیں ان پر

کوئی شخص دجال اکبر نہ ہو۔

ٹھانیاً، اگر یہ مان لیا جائے کہ دجال کی شخصیت، مقام خودج اور زمانہ خودج کے متعلق حضور کے ارشادات، فیصلوں اور احکام کے قبل سے تھے، تو پھر بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ حضور کو بعد میں تنبیہ نہیں ملی ہے۔ بلکہ حضور کو ان ارشادات کے بعد وہی سکھ دیا گیا تھا کہ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہو گا اور باہر لہ پر اُسے حضرت عیین صدیقہ السلام اُکر قتل کریں گے۔ یہ علم جو حضور کو سابقہ ارشادات کے بعد دیے دیا گیا اس میں حضور کو اس پات پر گورا مستحبہ کر دیا گیا کہ شخصیت دجال، مقام خودج، زمانہ خودج کے بارے میں آپ کے سابقہ احکام اجتہاد پر مشتمل تھے۔ اور این مسیاد وغیرہ اشخاص کے بارے میں دجال ہونے کا اندازی یا آپ کا یہ اندازی کہ دجال میرے زمانہ میں ظاہر ہو گا، یہ مبارے اندازی شے قبل از وقت تھے۔

لیکن اس تھے پھر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ حضور کو جو بعد میں علم دیا گیا تھا وہ کسی خاص شخص یا خاص معین وقت، یا کسی مخصوص مقام کا حلم تھا۔ بلکہ اس کا طلب صرف یہ ہے کہ آنحضرت کو بعد ایجادی یہ بتا دیا گیا کہ جن اشخاص کے متعلق آپ نے خیال خاہر فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک دجال اکبر ہو گا، اُن کی بجائے دجال اکبر کوئی اور شخص ہو گا جو اس وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی اپنے چند میں دجال کے خودج کا جو خطرہ لا حق تھا وہ قبل از وقت خطرہ تھا۔ دجال بعد میں قیامت کے قریب زمانہ میں ظاہر ہو گا اور اس کے خودج کے بیسے کوئی معین مقام کسی کو معلوم نہیں ہے۔

## پانچواں اعراض اور جوابی معرفات

آخر میں محترم قاضی منظہر حسین صاحب نے اعراض کو میں جو کچھ فرمایا ہے  
وہ مخفی مولانا مردوی پرڈل کی بھڑاس نکالنے کا ایک مکروہ مظاہر ہے اس  
میں کوئی حلی بات اس قابل نہیں ہے کہ اس پر تبرہ کیا جائے۔ البته اس سے یہ  
بات مسترد ہوتی ہے کہ درجآل کے متعلق محترم قاضی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ  
درجآل اکبر وہ محبوس فی الجزر ہے جس سے نیم داری نے طاقت کی تھی۔ اور  
چونکہ حضور نے قطعی طور پر درجآل اکبر اُس کو قرار دیا ہے لہذا اسی کو درجآل اکبر سمجھنا  
ایک اسلامی عقیدہ کی حیثیت سے فرض ہے۔ اور جو بھی اس کو درجآل اکبر نہ بخشد وہ  
صحیح العقیدہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔

اگر محترم قاضی صاحب کا مقصد فی الواقع یہی ہو تو اس کے متعلق وجہ ذیل  
معرفات کو خور سے نہیں۔ پھر تھوڑا سا وقت نکال کر سچارے اطمینان کے لیے  
تمسلی بھیش طریقہ سے جوابات عنایت فرمائیں۔

(۱) تمام علمائے اسلام نے بالاجماع یہ تسلیم کیا ہے کہ اسلامی عقائد کے ثبوت  
کے لیے ایسے دلائل کا راستہ رکھ سکتے ہیں جو قطعیات ہوں غلطیات سے  
عقائد کا اثبات نہیں ہو سکتا۔ اور قطعیات یا تو قرآن کریم کی قطعی الدلالۃ  
آئیں ہو سکتی ہیں یا قطعی الدلالۃ متواتر احادیث اور یا پھر تحریر سے دیدہ ہی  
صحابہ کرامؓ کا وہ اجماع ہو سکتا ہے جو فضیلی ہو۔ اور جب معاشرے سے  
لے کر ہم تک جو اثر ہے چاہی ہو۔ اور محبوس فی الجزر کے درجآل اکبر ثابت  
ہونے کے لیے ان تینوں دلائل میں سے ایک بھی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی۔

تو اس کو دعیاں اکبر جبنا آنکھ س طرح اسلامی حدائق میں شمار کیا جا سکتا ہے؟

بعض حضرت نبیمؐ کی روایت ہے تو وہ بتصریح محدثینؓ اخبار آحادیں سے ہے بعض محدثینؓ نے اُسے غریب فردؓ قرار دیا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے طبقہ میں اس حدیث کو صرف فاطمہ بنت قیسؓ نے روایت کیا ہے اور دوسرے کسی صحابیؓ نے اس کو نہ سے روایت ہی نہیں کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ غریب فردؓ تو نہیں ہے مگر اس کے رواہ چار سے ستمان فذر بھی نہیں ہیں، اور اس سے ایک حدیث متواتر حدیث نہیں بن سکتی۔ حافظ ابن حجر الحسینؓ میں :

وَقَدْ تَوْهِمَ بِعَصْمَمْ أَنَّهُ غَرِيبٌ فِرْدٌ وَلَا يَسِّدِيْكَ الْكَفَرَ نَقَدْ  
رَدَّا مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرَ

(رتبہ، ج ۱۲ ص ۴۸۰)

بعض محدثینؓ نے یہ فرضی کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیسؓ کی حدیث غریب فرد ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فاطمہؓ کی طرح ابوہریرہؓ، عائشہؓ اور جابرؓ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(ب) اس کے ملاوہ یہ حدیث مجروس فی الجزیرہ کے دعیاں اکبر جہانگیر قطبی الدلاۃ بھی نہیں ہے۔ درہ اگر یہ قطبی الدلاۃ ہوتی تو حضرت جابرؓ پاوجو داس کے کہ اس حدیث کے روایات میں سے ہیں، این صیاد کے دعیاں اکبر جہانگیر پر اس کی روایت کے بعد اصرار ذکرتے۔ حالانکہ پہلے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ دو، این صیاد ہی کو ماہر دعیاں اکبر سمجھتے رہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ فاطمہ بنت قیسؓ کی یہ حدیث اخبار آحادیں سے ہے

او قطعی الدلالۃ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے آخر کیونکر یہ عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے، کہ مجبوس فی الجزرہ یہی دجال اکبر ہے؟

(ج) اگر آپ اس حدیث کو قطعی الشہوت بھی تسلیم کرتے ہیں اور قطعی الدلالۃ بھی تو براہ کرم حدیث میں کوئی ایسا فقط بتائیں جس میں مجبوس فی الجزرہ کے دجال اکبر ہوتے پر قطعی دلالت پائی جاتی ہو۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ حدیث کے قطعی الدلالۃ ہونے کے باوجود حضرت جابرؓ نے اس کے دجال اکبر ہونے سے کس بنابر صریح انکار کیا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ابن حبیاد کے دجال اکبر ہونے پر کیوں مُصر رہے ہیں؟ حالانکہ راوی حدیث صحابی کے لیے مخالفتِ حدیث ہرگز چاڑنے نہیں ہے۔

(د) کیا آپ یہ بتاسکتے ہیں کہ قرآن مجید میں خلاں جگہ ایک آیت ہے جو مجبوس فی الجزرہ کے دجال اکبر ہونے پر قطعی طور پر دلالت کر رہی ہے؟ یا پھر یہ بتاسکتے کی جو ات کر سکتے ہیں کہ مجبوس فی الجزرہ کے دجال اکبر ہونے پر صحابہ کرامؓ کے ہدایتی جماعت ہو چکا ہے، جو نصی بھی ہے اور تباہ متفقون بھی ہوتا چلا آیا ہے؟ اگر نہیں بتاسکتے ہیں اور یقیناً نہیں بتاسکتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ مجبوس فی الجزرہ کے دجال اکبر ہونے کے آپ کس بنیاد پر اسلامی عقائد میں شمار کرتے ہیں؟

براہ کرم! ہماری ان معروضات پر ہر روانہ طریقے سے خوف زدہ کر جیں میلش کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جب چاکر یہ سمجھیں گے کہ دجال کے متعلق آپ کا مسئلہ اور نظریہ درست ہے اور مولانا محمد وردی کا نظریہ خلط ہے۔

# ضیغمہ نمبر ا

## (بسلک اغراضات و حجات)

**حَامِدًا و مُصَلِّيًّا :** ماہ اگست ۱۹۴۶ء میں میری یہ کتاب شائع ہوئی جس کا  
نام ہے "مولانا مودودی پر اغراضات کا علی جائزہ"۔ میں اس کتاب کے متعلق قبل از  
اشاعت بھی اس حقیقت سے ایک لمحہ کے لیے بے خبر نہیں رہا ہوں کہ جیب یہ کتاب شائع  
ہو کر منتظر عام پر آجائے گی تو جماعت اسلامی اور مولانا مودودی سے اختلاف رکھنے والے  
بعن ای علم کے لیے باعث تشویش اور موجب رنج بھی ثابت ہو گی۔ اور ان کی طرف  
سے تنقیدوں کے لیے شانہ بھی بن کر رہے گی۔ کیونکہ کتاب جس موضوع پر کلمی گئی ہے وہ  
اپنے اندر اچھی خاصی جاذبیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں اس پر گرماگرم بھی  
ہو رہی ہیں، اور موافق و مخالفت کی صورت میں اس پر انہیاں خیال کیا جا رہا ہے۔  
اس کے علاوہ اس کتاب میں صندل عصمت انبیاءؐ کی بحث میں حضرت مولانا  
مدفن رحمة اللہ علیہ نے مولانا مودودی کی تفہیمات والی عبارت اور اس کے مضمون پر  
جو تنقید لکھی تھی اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ان حضرات کے لیے کچھ کہ باعث  
تشویش اور موجب رنج نہ ہو گا جو حضرت مولانا مدفن مرحوم سے تلذذ کی نسبت یا تعلق  
ارادت کی بنا پر خن عقیدت اور محبت کے گھر سے بذبات رکھتے ہیں۔ الیسی جاذبیت

کے عامل موجود پر کتاب بھی ممکنی ہے، اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چیزیں تقدیم کرنے والے اور رہنمائے دین کی تقدید کا جواب بھی دیا جاتے اور پھر بھی اس پر نہ کوئی تقدید رکھنے آئے اور نہ کوئی تبصرہ، یہ دعویٰ ہے باقیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں۔ مزید پر آئی بھی یہی یہی مسئلہ حقیقت ہے کہ من صفت فقد استهداف ہے جس نے کوئی کتاب بھی ہے وہ تقدید کے لیے نشانہ بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر میری کتاب پر بھی کوئی تبصرہ یا تقدید بھی جلتے تو یہ میرے لیے کوئی خیر توقع امر نہیں، زادس سے میری بھیت نشانہ ہو سکتی ہے، بلکہ بہت ملکن ہے کہ اُن تقدید میرے لیے باعثِ مرتضیٰ اور موجبِ رنجانی ثابت ہو۔ اور نہایت خندہ پیشائی سے میں اس کا خیر مقدم کروں۔ البتہ جو لوگ کمال گھوڑ کا نام تقدید یا تبصرہ رکھتے ہیں، ان کی تقدیدیں ایک شرطیت اوری کے لیے باعثِ مرتضیٰ نہیں ہیں بلکہ۔

کتاب پر ابھی تک کوئی تقدید قدر سے نہیں گزری ہے۔ بجز ایک مضمون کے جو یہی دینی مدرسہ کے شیخ الحدیث صاحب نے تقدید کی خرض سے مختناشر درج کیا ہے، جس کی پہلی قسط شائع بھی ہو چکی ہے۔ جیاں تو یہ تھا کہ اس مضمون کا جواب مکمل کر شائع نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے متعلق میرا اپنا ذاتی تاثر یہ تھا کہ اس سے کتاب کے مفہاییں کے پار سے میں کوئی خلط فہمی پیدا نہ ہوگی، نہ سابقہ خلط فہمیوں کا اعادہ کیا جائے گا لیکن اب چونکہ یہ معلوم ہوا کہ اس کی اشاعت سے پہر سابقہ خلط فہمیوں کا اعادہ کیا جانے کا ہے، اس لیے مزدوری معلوم ہوا کہ اس کی پہلی قسط کا جواب مکمل کر شائع کیا جائے، تاکہ حالیہ خلط فہمیاں زائل ہو جائیں اور مزید خلط فہمی پیدا نہ ہو۔

”تبصرے“ کے عنوان سے جو تقدیدی مضمون شائع ہوا ہے، اس کے درست

ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں مجھ پر اذنات اور سی کتاب پر اخراجات ہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو تفہیمات کی عبارت میں ایک توجیہ سے متعلق ہے اور جس میں اس توجیہ کی بنیاد پر لانا مروودی صاحب پر اذنات لگاتے گئے ہیں۔ فیل میں پاتر تیب و فتوح حصوں کا جواب عرض کیا جاتا ہے۔

### پہلے حصہ کا تجزیہ

مضبوں کے پہلے حصہ پر خود کرنے سے درج ذیل چند امور ملائے آئے ہیں:

(الف) ”علیٰ جائز سے“ میں عبارت تفہیمات کی جو توجیہات پیش کی گئیں وہ اپنی علم کے نزدیک قابل قبول اس بنا پر نہیں ہو سکتیں کہ ان کی صحت پر وہ مودودی کے تصدیقی و تخطیثیت نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ البتہ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو توجیہات ایک حد تک مان پیش کئے قابل ہوتیں۔

اس عبارت میں گرایا یہ اصول و منع کیا گی کہ کسی زندہ عالم کی عبارتوں کی توجیہات، یا تفہیمات جیسی معتبر اور قابل قبول ہوں گی کہ ان کی صحت پر اس عالم کی طرف سے تصدیقی و تخطیثیت ہو چکے ہوں۔ ورنہ وہ ہرگز قابل قبول نہ ہوں گی۔

### جواب

اس اصول کو حبّ عقل اور تقلیل کی روشنی میں پہم دیکھتے ہیں تو اس کی صحت پہنچ دجوہ قابل تسلیم معلوم نہیں ہوتی:

اولاً، اس یہے کہ اس پر کوئی تقلیل یا عقلی دلیل پیش نہیں کی گئی ہے، اور دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

شانیاً عقل سلیم بھی یہ فرق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، لیکن کہ کسی عالم کی وجہ  
میں کوئی توجیہ اگر ناقابل قبول قرار پاسکتی ہے تو عالمی حکایت سے اس کی وجہ صرف  
یہی ہو سکتی ہے کہ متعلفہ عبارت میں اس توجیہ کے علاوہ دوسری کسی توجیہ کا  
بھی اختیال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اختیال کا اعلان دراصل نفس عبارت ہے۔  
عالم کی مرث و حیات کا اس میں کتنی دخل نہیں۔ اب کس طرح عقل سلیم یہ باوڑ  
کر سکتی ہے کہ جبارت میں اختیال تو مرث و حیات کی دونوں حالتوں میں یکساں  
طور پر موجود ہو۔ اور محتملہ دو توجیہات میں پسے ایک توجیہ ایک حالت میں تو  
صاحب عبارت کی تصدیق کے بغیر قابل قبول نہ ہو۔ اور یہی توجیہ دوسری حالت  
میں اختیال کے باوجود بغیر اس کے کہ صاحب عبارت اس کی تصدیق کرے قابل  
قبول قرار پاتے، بلکہ عقل سلیم کہتی ہے کہ جب دوسری توجیہ کا اختیال درنوں  
حالتوں میں موجود ہے تو حکم بھی دونوں حالتوں میں ایک ہونا چاہیے۔

**عائشہ:** بعد در تسلیم، یہ اصول جس طرح بندول کے کلام اور جبارات میں قابل  
رعایت ہو گا، اسی طرح کوئی درود نہیں کر افتد اور رسول کے کلام اور جبارات میں  
اس کی رعایت ضروری نہ ہو، بلکہ یہاں بھی یہ اصول قابل رعایت ہو گا۔

### تفسیر قرآن

اب میں وضن کر دن گا کہ قرآنِ کریم خدا نے پرتر کی کتاب پختے اور وہ نہ صرف زندگی  
ہے بلکہ خالی حیات ہونے کی وجہ سے دوسرے دو زندگی کو زندگی بخشنے والا بھی ہے، بھی ویت  
دھوکی لا یموت، اس کی شان ہے۔ اسی کتاب میں کی مینکروں تغیریں لکھی جا چکی  
ہیں جن میں قرآنِ کریم کے مطالبہ کی ترجیحات اور عبارتوں کی ترجیہات کی گئی ہیں۔ اور

کسی ایکس تفسیر کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی توضیحات اور ترجیحات کی صحت پر خداستہ برتر نے فہرِ تصدیقی ثبت فرمائی ہے تو کیا اس اصول کی رو سے تفاسیرِ قرآن کا یہ بیش بہا ذخیرہ ترجیحات کا ایک انبار اور سبب کا سبب اس بنا پر ناتقابل قبول بھی جانتے گا کہ اس پر خداستہ برتر کی طرف سے فہرِ تصدیقی ثبت نہیں ہوئی ہے؟ ماثلاً

### كتب حديث اور ان کا شرق

اسی طرح توجیح عالم اسلام میں حضورؐ کے اشارات کا صحیح علم حاصل کرنے کے لئے ہر جگہ کتب حديث موجود ہیں۔ جن میں محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اشارات رسولؐ جمع کر رکھے ہیں اور تراجم ابواب، کی صورت میں ان کے مطابق و متعاصد بیان کیے گئے ہیں اور بہت سے فقیہ مسلمی بھی ان سے مستنبلا کیے گئے ہیں۔ پرانی کتابوں کی بھی مختلف کتب تعداد میں شروع و حاشی لکھ گئے ہیں، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اشارات کی فزید توضیحات اور عبارات کی ترجیحات بیان کی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امتت کی اکثریت کے نزد یکسانہ ہیں، اگرچہ حیات کی کیفیت میں اختلاف ہزو رہے۔ تو کیا یہاں بھی کتب حدیث، اور ان کی شروع و حاشی کا یہ سارا قسمی ذخیرہ مندرجہ بالا اصول کی رو سے صرف اس بنا پر خصوصیات کا مجموعہ، اور دریا پرور کردینے کے قابل سمجھا جانتے ہوں کہ ان میں سے کسی ایک پر بھی حضورؐ کی فہرِ تصدیقی ثبت نہیں ہے؛ ہرگز نہیں۔ ترجیحات کی صارت میں میں نے جو ترجیحات کی میں ان میں آخر کیا خصوصیت ہے کہ اپنے علم کے ہاں وہ اپنے یہے مقام قبولیت اس بنا پر پیدا نہیں کر سکتیں کہ وہ ایکسانہ علم کی علامتوں میں اسی ترجیحات

یہ جن کی صحت پر اس علم کی ہر تصدیقی ثابت نہیں ہے؟  
 اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ جو بات کبھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تفاسیر  
 قرآن اور تشریع حدیث کا یہ تبیین ذخیرہ خداوند رسول کی ہر سے عورم ہونے کے باوجود بھی  
 اس بنا پر اہل اسلام کے نزدیک مقبول ہے کہ اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے  
 جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ عربی محاورات، قرآن و حدیث کے سیاق و سیاق، اور  
 دوسری جگہ تصریحات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے پُردی امت اس کو  
 استحسان کی تظریسے دیکھتی ہے۔

لیکن یہی بات اُن ترجیمات کے بارے میں بھی کبھی جا سکتی ہے جو تفہیمات کی وجہ  
 میں ہعملی جائز ہے میں پیش کی گئی ہیں۔ وہ بھی توجہ بارہ تفہیمات کے سیاق و سیاق، انداز  
 بیان اور مولانا مودودی کی تصریحات کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اور جو عبارتیں ان  
 کی تائید کے لیے مولانا حترم کی دوسری تصانیف سے نقل کی گئی ہیں اور ان میں کتنی کی  
 پیشی نہیں کی گئی ہے، بلکہ پُردی کی پُردی نقل کی گئی ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اہل علم حضرت  
 کے ہاں مرد اس بنا پر مقبول نہیں ہو سکتیں کہ ان کی صحت پر مولانا مودودی کی ہر  
 تصدیقی ثابت نہیں ہوتی ہے؟ یا اس کتاب پر مولانا کی کتنی تقریظ نہیں کی گئی ہے؟  
 فرق کے لیے ہمارے نزدیک کوئی محتقول وجہ نہیں ہے۔ اور اگر تصریحات کا رجسٹر کے  
 ذہن میں اس کے لیے کوئی محتقول وجہ ہو تو پہاڑیے کہ اس کو سامنے لایا جائے، تاکہ  
 ہم اس سے اطمینان حاصل کر سکیں۔

رابعاً، واقعات کی روشنی میں بھی یہ اصول قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ امر واقعہ  
 کی حقیقت سے یہ حقیقت قابل انکار نہیں ہے کہ بہت سے علماء اور مشائخ نے درس

قرآن اور حدیث کے وقت، تفسیر قرآن اور تشریح حدیث سے متعلق بہت سے مفہامیں بیان کیے ہیں۔ پھر ان کی زندگیوں ہی میں یہ مفہامیں ترتیب کر کے شاگردوں نے کتابی شکل و صورت میں شائع کیے ہیں اور آج بھی برابر یہ سلسلہ ہر علاج جاری ہے۔ یہ مفہامیں جب مرتب شکل و صورت میں اساتذہ کے سامنے آئے ہیں تو انہوں نے اس کو نہ کوئی تکمیر کیا ہے اور نہ ان کی تردید کی ہے۔ چنانچہ یہ مفہامیں اسی بنابر پشاگر دوں نے ان سے تصدیقی و تخطیقی بغير کتابی شکل و صورت میں طبع کر کر شائع کیے ہیں اور پوری علمی دنیا میں نہ صرف مقبول ہو چکے ہیں، بلکہ عالمِ اسلام کے علماء سے خراج تحسین و حوصل کر چکے ہیں۔ اس کے لیے اگر ماضی یعید کی تاریخ سے باہ استقصاء فٹائیں پیش کی جائیں تربات ٹڑی طویل ہو جائے گی، اس لیے میں صرف ماضی قریب کی تاریخ تدوین سے دو تین مثالیں پیش کرنے پر اکتفا کر دیں گا کہ ان سے بھی کافی حد تک مقصود کی وضاحت میں مدد مل سکتی ہے۔

### مثال اول۔ تفسیر المزار

یہ حقیقت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالآخر ہے کہ تفسیر "المزار" محدث کے مشہور عالم اور نامور مفتی محمد حبده کے دروس قرآن کا وہ جگہ مجموعہ ہے جو ان کے ایک نامور شاگرد علام ریشد رضا مرحوم نے ان کی زندگی میں ترتیب دے کر کتابی شکل و صورت میں شائع کیا ہے۔ اس میں بعض مفہامیں تواریخ ہیں جو انہوں نے اپنے استاد محمد حبده سے درس قرآن کے وقت سے ہیں۔ پھر ان کو فرید آصفیات کے ساتھ اپنے الفاظ و عبارات میں قلب بند کیا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو خود انہوں نے تفسیر قرآن کے طور پر لکھ کر استاد مرحوم سے ٹھنے ہوئے مفہامیں کے ساتھ جمع کر کے یکجاں مدد پر ترتیب

یکے ہیں۔ علامہ رشید رضا رحمہ تے کتاب کی ابتداء میں صراحت کے ساتھ یہ بتا کھی ہے کہ استادِ رُوم کی طرف ان سے نئے ہوئے تفسیری مصنایں کی نسبت کے لیے میں نے یہ بات کافی سمجھی ہے کہ مرُوم استاد نے ان کو قبیل یا بعد از اشاعت مغل اکیا تھا۔ اور کتنی تردید انہوں نے نہیں فرمائی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

”ابتداء میں جس بحث موقوع ملتا تھا تو میں اپنے استاد کو ان مصنایں پر مطلع کرتا تھا جو طباعت کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ وہ کبھی ان کا صورہ دیکھتے تھے اور کبھی پروفت، اور دیکھنے کے بعد بسا اوقات ان میں کمی عیشی کر کے اسلام بھی فرماتے تھے۔ اور جو مصنایں دیکھنے سے پہلے ملک ہرگز کرشما نہ ہوتے تو بحث یا درہ نہیں کہ ان میں سے کسی مضمون پر انہوں نے کوئی تغیری فرمائی ہے، بلکہ وہ ان پر بھی راضی رہتے تھے۔ ...“

”اور چونکہ استاذِ مرُوم اکثر اوقات قبل از طباعت اور کبھی بعد از طباعت میرے لئے ہوتے تھے مارے مستہمات پڑھ دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں ان کی طرف ان مصنایں کی نسبت کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا تھا جو ان کی تقریر سے میں نے بھکھتے گو روقت دہس میں نے ان کو ملیند نہیں کیا تھا۔ لیکن کہ حضرت استاذ جب دیکھنے کے بعد ان مصنایں کو بحال رہنے دیتے اور کتنی تردید ان پر نہ کرتے تو اس سے ان کے زدیک میرے فہم کی صحت اور ان کی طرف نسبت کی درستی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جاتی۔“

یہ بحارت اس بارے میں ضریح ہیں کہ کسی عالم کے مضمون کی ترجیح یا ترتیج پر اس کی رضامندی یا اس کی طرف کسی مضمون کی نسبت کے لیے غلام کے ہاں اتنی بات کافی بھی جھی ہے کہ وہ اس کو قبول یا بعد از طباعت پڑھ چکا ہو۔ اور پڑھنے کے بعد خاموش رہ کر کئی ترمیدی اس پر نہ کر چکا ہو۔ اور میری کتاب میں یہ بات پڑھنے کی طرح تحقیق ہے کہ اتصدیقی دستخط، تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں۔ مذکورہ تفسیری مصنایف کی نسبت محمد عبدہ کی طرف صحیح نہیں رہے گی، لیونکہ کتاب مذکور میں کہیں بھی کسی مضمون پر ان کے اتصدیقی دستخط موجود نہیں ہیں۔

### مثال دوم - فیض الباری

اسی طرح یہ حقیقتہ یہی اہل علم حضرات سے پوچھیدہ نہیں کہ فیض الباری حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعاریر کا مجموعہ ہے جو وقاراً فرخ حضرت شاہ صاحب نے دروس البخاری میں ارشاد فرمائی تھیں، اور مولانا پور عالم صاحب مردم نے ان کی نزدگی میں انہیں سمجھا کر کے ترتیب دیا تھا۔ اور جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے یہ مجموعہ حضرت شاہ صاحب کو دکھایا جھی گیا تھا۔ چونکہ حضرت شاہ صاحب نے اس پڑھاموشی اختیار کر کے کئی ترمیدی نہیں فرمائی تھی، اس لیے طبع ہو جانے کے بعد سارے دیوبندی حضرات اس کو حضرت شاہ صاحب مردم کی تuarir کا مجموعہ سمجھ رہے ہیں اور تمام دیوبندیوں کے ہاں اس کی نسبت بھی حضرت شاہ صاحب کی طرف صحیح تسلیم کی جا رہی ہے، حالانکہ کہیں بھی کتاب کے کسی مضمون پر حضرت شاہ صاحب کا کئی اتصدیقی دستخط ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ جگہ بالا اصول پر ایسی تک کسی عالم نے صادر نہیں کیا ہے۔

## مثال سوم المعرفۃ الشذی

عرف شذہبی بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان تفاسیر کا بھروسہ ہے جو دسوں اتریزی میں انہوں نے ارشاد فرمائی تھیں، اور حضرت مولانا محمد چلغخ صاحب نے ان کی زندگی میں کیجا کر کے کتابی شکل و صورت میں شائع کی ہیں، اور کم سے کم پاکستان اور بھنڈوستان کی حد تک تو پوسے ملی ملتوں میں یہ بھروسہ اپنے کمی مقبول ہو چکا ہے۔ اور دینی مدارس کے شیوخ و حدیث ہر جگہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی کتاب کے کسی مضمون پر حضرت شاہ صاحب کا کسی تصدیقی و تखذل موجود نہیں ہے، بلکہ صرف دیکھو کر اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔

تو کیا مندرجہ بالا اصول کی رو سے ہم فیض الباری اور المعرفۃ الشذی دفعہ کے متعلق یہ فحیلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ دلوں کتابیں حضرت شاہ صاحب کی تقریر مدد کے بھروسے نہیں ہیں، یا ان میں مضمایں کی جو تصریحات اور توجیہات پاکی جاتی ہیں وہ سبہ اس بنا پر ناقابل قبول ہیں کہ ان کی صحت پر حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تصدیقی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور تم دیوبندی حضرات جو ان دلوں کتابوں کے مضمایں کو حضرت شاہ صاحب کی خوبی خسوب کر رہے ہیں، یہ غلط طور پر خسوب کرتے ہیں؟ حاشا وکلا۔ پھر حال مندرجہ بالا اصول چنکہ خاتمی اور واقعات نفس الامری سے صریح طور پر متصادم ہے اس لیے وہ خود میری رہتے میں اس قابل نہیں کہ اپنی علم کے ہاں اپنے یہے مقام قبولیت پیدا کر سکے، یا انصافات پسند عملانے کرام اس کے ساتھ آتفاق کریں۔

## ایک تئیخ بر سبیل نشری

خامساً، تحریری دیر کے لیے اگر یہ اصول مان بھی لیا جائے کہ کسی نزدہ عالم کی عبارت کی توجیہ یا توضیح بھی معتبر اور قابل قبول ہوگی کہ اس پر اس عالم کی طرف سے تصدیقی و تखذیثت ہوں، تو پھر بھی یہ عرض کرنے کے لیے گناہکش باقی ہے کہ یہ اصول جس طبقہ توہینات کی صحت اور عدم صحت یا قبول اور عدم قبول کے لیے معیار کی حیثیت سے معتبر ہو گا۔ اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ ا Zukat اور اختراءنات کے لیے اسی حیثیت سے معتبر نہ ہو۔ بلکہ قرآن کریم کے پیش کردہ فائزون : فَتَبَيَّنُوا آنَّ نُصِيبُونَا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، اور لَا تَعْنُتْ مَا لَكُمْ تَكَبَّرْتُمْ بِهِ عَلَمْكُمْ رُؤْسَهُ ازنات اور اختراءنات کے بارے میں اس کی روایت اور بھی زیادہ ضروری بلکہ فرض ہونی چاہیے کیونکہ اس میں عرض مسلم پر ناجائز تعلیم کرنے کا اختلال ہے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان دماماً کو دعا صوانکم و اعداء کمک عدیکو حرام الردیث۔ اسی تئیخ کے بعد تحریرہ خانہ بزرگ کے پیش کردہ اصول کو سامنے رکھ کر یہ عرض کیا جائے گا کہ آج یہ حقیقت کوئی دھمکی چھپی نہیں رہی ہے کہ حضرت مولانا منی رحمۃ اللہ علیہ سے رے کر مولانا احمد علی صاحب مرحوم تک اور مولوی گلبادر شاہ صاحب طور وی سے لے کر غلام فروض خدا ازاردی تکسب چتنے حضرات ہیں۔ سب کے سب مردانا ہودوی کی عبارتوں کی بنیاد پر مولانا موصوت اور جماعت اسلامی کے خلافات پندرہ بیس سال سے قسم قسم کے ا Zukat ٹکانے میں صروف ہیں۔ خود حضرت مدینۃ اللہ علیہ کی متعدد تصانیف میں جماعت اسلامی اور مولانا ہودوی پر خارجی و مقصڑی صحت انبیاء کے مذکور بلکہ ضائق و مغلظ تکے ازنات لگھے ہوئے ہیں اپنے تو کیا مندرجہ بیان حضرات

میں سے کسی ایک کے متعلق یہ ثبوت فراہم کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے مولانا مودودی پر سنگین سے سانگین الزامات عائد کرنے سے قبل مولانا موصوف سے یہ استفسار کیا ہے کہ آپ کی خلاف غلاں عبارتوں کی بغاو پر میں آپ اور آپ کی جماعت کے خلاف یہ یہ الزامات عائد کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ آپ زندہ تجید حیات ہیں، اس لیے میں اپنی خدا تعالیٰ اور عرضی مسلم کے شرعی احترام کی نیا پر اور قرآنی حافلہ: قبیلہ و دشیلہ کے پیش نظر آپ سے یہ استفسار کرتا ہوں کہ آپ کی ان عبارتوں کا جو مطلب میں نے سمجھا ہے وہ آپ کا بھی مقصود ہے، یا ان سے آپ کا مقصود کچھ اور ہے؟ اور استفسار کے جواب میں مولانا مودودی نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ آپ نے میری عبارتوں کا مطلب سمجھا ہے۔ فی الواقع بھی وہی مراد ہے؟ تصدیق تدریکارہ اگر اس طرح کے استفسار کا ثبوت بھی الزامات لگانے والے کسی بزرگ کے متعلق فراہم کردیا گیا تو میں مان لوگا کہ الزامات لگانے میں زیر بحث اصول کی رعایت فرمائی گئی ہے۔ لہذا یہ سب الزامات درست اور مبنی برحقیقت ہیں، ورنہ میں اپنے آپ کو تمام الزامات کے بارے میں مندرجہ بالا اصول کے پیش نظر فیصلہ کرنے میں حق بجانب بھروسہ کا کریم سب کے سب خیر صحیح اور قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زیر بحث اصول نے ذہرف حضرت مولانا مولیٰ مرحوم کے بعد دوسرے تمام بزرگوں کے تمام الزامات کو بھی خیر صحیح اور ناقابل قبول قرار دے کر سب سے جھگٹیے ہی کاظم کردیا تو بے جا نہ ہوگا۔ — لیکن اگر اس اصول کا تعلق ذہرف توجیہات کی صحت اور عدم صحت سے ہو۔ اور الزامات و آخر اضافات اس سے مستثنی اور اس کے دائرے سے خارج ہوں تو میں نہایت اربد سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑی عنایت اور کرم فرمائی ہوگی۔

اگر اس فرق کے لیے تقریب و دوست، یا شریعت کے مسئلہ اصولوں سے کوئی معمول بیل پیش کی جائے تو اکہ میرے جیسے بندگانِ خدا کے لیے موصوب اطمینان ثابت ہو۔

### تبصرے کا دوسرا جزء

رب، وہ علمی جائزے کا مؤلف (مفتی محمد یوسف) مولانا مودودی کی بن کچھے وکالت "کی تو میں اس طرح پر گیا ہے کہ اب یہ ایسے بندگوں پر بھی نکتہ صینی کا خیال نہیں رہا، جن کے تحریکی پرو دوست تو کیا دشمن بھی قائل ہیں۔"

### جواب

"تبصرے کے اس حصے میں ایک طرف مجھے "بن کچھے وکالت" کا طعنہ دیا گیا ہے لہذا دوسری طرف بھجو پر یہ اذام لگایا گیا ہے کہ میں نے مولانا مدفی مرحوم پر کوئی ناجائز نکتہ صینی کی ہے۔ ذیل میں دونوں کا جواب ترتیب دار عرض کیا جاتا ہے۔

میری ردتے میں یہ طعنہ اس بنیاد پر دیا گیا ہے کہ نہ پوری طرح میری کتاب کا مطالعہ فرمایا گیا ہے اور نہ اس کی صحیح پرداشی متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ نہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا طعنہ مجھے ہرگز نہ دیا جاتا۔ ذیل میں کتاب کی صحیح پرداشی میں کی جاتی ہے مناسب ہے کہ آپ اس پر اچھی طرح غور فرمائیں۔

### کتاب کی صحیح پرداشی

میری کتاب کی صحیح پرداشی یہ ہے کہ وہ ایک طرف دور حاضر کے ایک مظلوم اعیٰ حق اور بہترین عالمِ دین کا دفاع ہے اور دوسری طرف حمایتِ دین کی غرض سے حق کی ترجیح کرنے کی ایک ارنی کوشش ہے اس میں ان چند اقتضایات کا جواب دیا گیا

بے جو دین کے مختلف مسائل میں ایک سلسلیے عالم دین کی جبارتوں پر وارد ہی کے گئے ہیں جس کے  
متعلق اتفاقات پسند دنیا ایجھی طرح جانتی ہے کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی نظام  
حیات کے قیام کے لیے بود جو دین میں گزر ہے، بلکہ اس کے لیے وقفت رہا ہے۔ میرے  
نزدیک چونکہ یہ آخر اخوات ایک طرف ایک مسلمان عالم دین اور اسلام کے ایک  
بہترین خادم کی دینی عزت پر لے جا ملؤں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ وہ مری  
طرف ان سے اخوات دین کے عظیم تر کام کو فقصان پہنچے کا بھی اندازہ تھا، اس لیے نتائج  
سے بے پرواہ ہو کر اور ہر قسم کے خطرات کو انگریز کرتے ہوئے دینِ حق کی حمایت کی خوش  
سے اسلام کے ایک خادم عالم دین، اور تحریکِ اسلامی کے ایک مظلوم قائد کے دفعع  
کے لیے یہ کتاب لکھ کر نہیں نہ ان اخوات کا جواب دے دیا جو عین علی ملعون کی  
طرف سے ان پر وارد ہی کے گئے تھے۔ اور علمائے اہل السنّت کی علمی تحقیقات کی روشنی  
میں نزاعی مسائل کی حقیقت واضح کر دی۔ میں جب اپنے اس زمانے کی شرعی حیثیت  
پر غور کرتا ہوں تو اسے دلے اشاراتِ نبویہ کی روشنی میں میں اس کے متعلق یہ سمجھتا ہوں  
کہ یہ ایک اہم دینی فرضیہ تھا۔ جو دوسرے اہل حق علمائے دین کی طرح میرے ذمہ بھی  
من مابن اللہ قادر ہو چکا تھا، اور کتابِ حق کے خلذاتِ نتائج سے اپنے آپ کو پہنچانے کے  
لیے یہ کتاب لکھ کر نہیں نہ اس کو ایک حد تک ادا کیا ہے۔

کتاب کی اس پرنٹشن کو سلفیہ کوکہ کر جب میں طعنہ بن لئے وکالت پر غدر کرنا  
ہوں تو یہ اس بات پر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ میری کتاب کے مطالبہ سے وہ سچا اثر  
نہیں لیا گیا ہے جو اس کی صحیح پرنٹشن کے ساتھ مناسب تھا۔

یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے، صحیح ذیل روایاتِ حدیثیہ سے اس کا ثبوت واضح ہے۔

گرافوس ہے کہ ان پر خود نہیں کیا گیا ہے۔

### عرضِ مسلم کا دروغ اسلام کی نظر میں

اس بات پر روایات اور احادیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ عرضِ مسلم پر بیجا حلہ کرنا، یا اس کے موجود چوب کو دنیا کے سامنے اچان اچال کر پیش کرنا، یا اگر  
میں اسے بنام کر کے دسوکرنا، خدا و رسولؐ کی نظر میں ایک بدترین چورم ہے لور مسلم  
بھائی پر ظلم عظیم۔ اس کے لیے صرف ایک ہی حدیث کافی ہے جو یہ کہ: ان دماء کم  
و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ البته عرضِ مسلم کے دروغ کی جو شرعاً حیثیت  
ہے، اُسے واضح کرنے کے لیے کچھ روایات پیش کرنی مناسب ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے  
کہ عرضِ مسلم پر حصے کا دروغ ہر مسلمان کا غیری فرضیہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے مندرجہ  
وکالت حاصل کرنے کی کلی ضرورت نہیں۔ بلکہ چون کہے وکالت کی صورت میں بھی اما  
کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہی ایسا کام نہیں جس پر کسی کو طصور دینا شرعاً یا اخلاقاً قابلٍ  
ستائش ہو یا لا حق تحسین۔

عَنْ أَسْمَارِ بَنِيَّتِ بَيْزَدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ رَاحِيْهِ بِالْمَغْدِيْهِ كَانَ حَقِّاً عَلَى اللَّهِ أَنَّ

يُعْتَقَدُ مِنَ النَّاسِ۔ (رسیقی)

• اس اسناد بنت بیزد کہتی ہیں کہ میں نے حضورؐ سے یہ فرماتے ہوئے تھا  
کہ جو بھی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عوت پر جعل کا "بن کہے وکالت"  
کی صورت میں دروغ کرے گا تو فدا پر اس کا یقین ثابت ہو گا کہ قیامت  
کے روز اُسے عذابِ جہنم سے آزاد کر دے گا۔

(۱) مامن مسلم بید عن عرض أخيه إلا كان حتماً على الله أن  
يبرد عنده نار جهنم يوم القبيضة۔ (شرح المسن)

کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو درودوں  
کے حملوں سے بچاتے، مگر اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ثابت ہو گا کہ قیامت  
کے روز اس کی ہنریم کی آگ سے بچاتے ہیں۔

(۲) مامن مسلم بیضو مسلمانی موضع یتھک فیہ حرمتہ  
ونیتفق من عرضته الا نصرۃ اللہ فی موطن یحب فیہ  
نصرتہ۔ (ابوداؤد)

کوئی مسلمان ایسا نہیں جو ایسی بجدگی اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرے گا  
جہاں اس کی بے عزتی اور رُسوائی کی جا رہی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسی بجدگی اس  
کی اخداد فریب سے گا جہاں وہ اپنی امداد کا خواہاں ہو گا یہ

حضرت کے ان ارشادات کی روشنی میں اگر کوئی انصاف ملے پسند بزرگ میری طرف  
سے مولانا مودودی کے دفعے کی چیزیت شرعی پر خود فرمائیں گے تو مجھے تو یہ ایسا ہے  
کہ وہ عدل اور انصاف کی صیح فیصلے پر پہنچنے میں دشواری حسوس نہ فرمائیں گے زندجی  
”بن کہے دکاٹ“ کا طعنہ دینے میں کوئی وزن محسوس کریں گے۔

### الزامِ تکفیرِ چینی کا جواب

اس الزام کے جوابات میری طرف سے دہیں۔ ایک منع اور درست اسلوبی۔

ذیل میں دونوں کو بالترتیب ملاحظہ فرمائیں:

## ا۔ منسی جواب

یہ اذم، کہ میں نے اپنی کتاب "علیٰ جائز سے" میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی ناجائز نکتہ چینی کی ہے، میرے نزدیک درست نہیں، نہ چنی بحقیقت ہے۔ "علیٰ جائز سے" میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید کا جواب مزود یا گالی ہے، مگر جو منہون ان کی تنقید کے جواب سے متعلق ہے، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں مولانا مرحوم پر کوئی ایسی نکتہ چینی پائی جاتی ہے جو شرعاً ناجائز ہو۔ تصریح نگار بزرگ نے چونکہ نکتہ چینی کے الفاظ کی نشاندہی نہیں فرمائی ہے۔ اس پر یہ میں خود اپنی طرف سے ذیل میں اس امکان پر چند باتوں کی نشاندہی کرنا ہوں کہ شاید نکتہ چینی سے ان کی مراد یہی چند باتیں ہوں۔

د) ان میں سے ہر ہی بات یہ ہے کہ "علیٰ جائز سے" کے مذاہ پر میں بنے لکھا ہے:

و گمراہوس ہے کہ آج کے منہوس دنہر میں صرف لغتش کی نسبت پر ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لطفت یہ ہے کہ یہ دین کی بہترین خدمت تصور کی جا رہی ہے۔

ناجائز نکتہ چینی سے اگر بھی باتیں مراد ہوں تو میں عرض کردن گا کہ اس مبارت میں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک آج کے دور کا منہوس ہونا۔ دوسری لغتش کی فیض پر ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کی کوشش۔ اور تیسرا اس کو دین کی خدمت تصور کرنا۔ اتنیوں باتوں کے متعلق مجھے بتایا جائے کہ ان میں سے کسی بات ایسی ہے جو مولانا مدنی پر ناجائز نکتہ چینی کی تعریف میں آسکتی ہے؟ آج کا درج اگر منہوس نہیں ترکیا برکات اور سعادت کا درج ہے اور حضرت مدنی پر آخر کیا نہیں

نکتہ چینی اس میں پائی جاتی ہے؟ اور کیا مولانا مدفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصدیقی جاتی میں صدھنا مددودی اور جاحدت اسلامی کو اسلام کے دائرے سے بے نکلنے کی کوشش نہیں کی ہے؟ پھر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ اگر دین کے جذبہ قدرت سے نہیں کیا گیا ہے تو دوسرا کو فساذب ہے جو مولانا مدفی مرحوم کے شایانِ شان بھی ہرامساں کی جذبہ سے یہ سب کچھ کیا بھی گیا ہو؟

د ۲، "ملی جائزے کے مسئلہ پر دوسری بات اسی طرح ذکر کی گئی ہے:-

"صلاتے کرام کی خلافت و عداوت سے خدا اپنے خط و امان میں  
برکت یہ حضرات جب کسی کی خلافت و عداوت پر اڑاتے ہیں تو امام  
خزاں اور امام ابن تیمیہ جیسے الٰہ اسلام بھی ان کے فتوائے تفییق و تضیییل  
سے بچ نہیں سکتے۔"

اس چیز میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، اگر نکتہ چینی سے مراد یہی ہو تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ اس میں جو حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہی سے زدیک مہ شوہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں دو لوگ کبھی جھبلانے کی جو اساتھ نہیں کریں گے جو علمائے میں کے باہمی اختلافات کی تاریخ سے اچھی طرح ماقوت ہیں، یا اس کے دور میں منتظر عام پر آتے ہوئے اختلافات پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کی تفصیلات اگر صفوۃ قطاس پر آئیں تو ایک ضخمیم کتاب تیار ہو جاتے۔ نیز دین اسلام کو جینا لقصان ان اختلافات سے پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے، اتنا کسی دوسرے خلافت اسلام منصوبہ سے نہیں پہنچا ہے، اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آسکتی کہ اس میں مولانا مدفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر میں نے کوئی ناجائز نکتہ چینی کی ہے؟

(۲) تیسری بات ان میں سے یہ ہے کہ مسئلہ پر حکمت انجیار کے مسئلہ میں  
میں نے کہا ہے :

”مسئلہ حکمت انجیار کی تشریع کی روشنی میں جب ہم مولانا مرحوم  
کی تقدیر پر خود کرتے ہیں تو ہم اس کو مولانا مرحوم کی ایک قلمی نظرش  
بچھتے ہیں جس سے وہ خود محفوظ مصصوم نہیں تھے“

اس حکمات میں ایک تو میں نے مولانا مرحوم کی طرف قلمی نظرش کی نسبت کی  
ہے۔ اور دوسرا یہ کہا ہے کہ وہ اس سے محفوظ مصصوم نہیں تھے۔ اگرنا جائز نہ  
چینی سے مراوی یہ نسبت ہو، جیسا کہ اغلب گان یہی ہے تو اتنا سہے کہ  
کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کی نظرشوں سے مصصوم تھے یا انہیں ہی پہلی شق  
ہو تو اس پر درج ذیل سوالات دارد ہوتے ہیں جن کو حل کرنا اپنی آنکھی مددی ہے:  
(الف) اہل السنۃ کا اجماعی حکیم ہے کہ حکمت انجیار علیہم السلام کی مخصوص  
حکمت ہے۔ اور دوسرا کوئی فرد بشر ان کے ساتھ اس پر میں شرکیب نہیں، گوہ حضور کے  
کوئی جدیل القدر صحابی کیوں نہ ہوں۔ تو کیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حکیم  
رکھنا کہ وہ اس قسم کی نظرشوں سے مصصوم تھے، اہل حق کے اس اجماعی حکیم کے  
خلاف نہیں ہے؟

دب، نیز اجتہادی نظرشوں تی انجیار علیہم السلام سے بھی تصریح اہل حق سرزد  
ہوئی ہیں اگرچہ ان کی حکمت پر اثر انداز ثابت نہیں ہوئی ہیں، تو کیا حضرت مدنی  
مرحوم کو قلمی اور اجتہادی نظرشوں سے مصصوم مانا درحقیقت ان کو انجیار علیہم السلام  
سے بھی ڈرکر مرتبہ دیش کے مترادف نہیں ہے؟

رج) پھر کیا یہ عقیدہ اہل حق کے اس فیصلے کے بھی سراہنگ خلاف نہیں ہے کہ:  
 المجتهد قدیح خطی و قدیح صیب ہے یا پھر حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ سمجھا  
 جائے گا کہ وہ تمام مجتہدین اور رجہم اللہ کی پر نسبت اجتہاد کے کسی ایسے جنڈ تر تربیہ  
 پر فائز تھے جس میں ان سے قلمی اور اجتہادی لغزشوں کا صدور ملک نہ تھا ہے  
 لیکن اگر وہ اس قسم کی لغزشوں سے معصوم نہ تھے تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی  
 طرف قلمی لغزش کی نسبت کر کے اور اس سے ان کو غیر معصوم سمجھ کر میں نے ان پر کونسی  
 ناجائز نکتہ پیشی کر دی ہے اور یہ کس طرح ناجائز نکتہ پیشی کی تعریف ہے میں آسکتی ہے؟ اگر  
 اس کرنا ناجائز نکتہ پیشی قرار دیا جائے، تو مجتہد کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کس  
 طرح ناجائز سمجھی جائے گی؟ پھر جن عملیتے کرام نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں  
 صفات طور پر یہ لکھا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی اور لغزش سرزد ہو سکتی ہے، ان  
 کے متعلق یہ کیا راستے قائم کی جائے گی؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے  
 متعلق ان کے متعلقین اور متولیین ہیں عقیدت کے گھر سے خوبیات رکھتے ہیں۔ اور  
 رکھنا بھی چاہیے۔ خود را قم الحروف بھی ان کی ذات گرامی سے خوب عقیدت رکھنے میں  
 کسی سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہم عقیدت اور احترام کے خوبیات کے لیے بھی اسلام  
 نے ایک حد مقرر کر لی ہے جس سے تجاوز کرنا خدا اور رسول کی نظر میں نہ صرف نورم  
 ہے بلکہ جہل اور تباہ کرنے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کے بارے میں خلوقی ٹھیکانہ  
 اور افراطی التعظیم کا اس قدر مظاہرہ کرنا کہ ان کو قلمی اور اجتہادی لغزشوں سے  
 بھی محفوظ و معصوم مان لیا جائے، خود ان کے متعلقین اور متولیین کے لیے منع نہیں  
 بلکہ مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے احتساب کرناحدب درجه اہم اور ضروری

## ۶۔ تسلیمی جواب

لیکن اس کے باوجود اگر انہا نکتہ چینی پر اصرار کیا جاتا ہے تو میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فرض کیجئے میں نے حضرت مولانا مدنی مرحوم پر کوئی ناجائز نکتہ چینی کی ہے، لیکن جس طرح حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دینی کارناموں اور علمی خدمات کی بدولت اپنی اسلام کے لیے قابل احترام تھیت تھے۔ اسی طرح مولانا مودودی بھی اپنے دینی کارناموں اور علمی خدمات کی بدولت اپنی اسلام کے لیے کچھ کم قابل احترام تھیت نہیں ہیں۔ تو جس طرح مولانا مدنی مرحوم پر ایک معمولی نکتہ چینی بزرگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اسی طرح مولانا مودودی پر اصول انصاف کے پیش نظر خارجی، مقتضی، صحت انبیاء کا منکر اور ضال و ضل جیسے سنگین انذامات قابل برداشت نہ ہو سے چاہیں۔ بلکہ انصاف پسند علماء اور مشائخ کا یہ غیرمسمی اخلاقی فرض ہونا چاہیے کہ وہ ایسے انذامات کو برداشت نہ کریں۔ اب جو حضرات مولانا مدنی مرحوم پر دنیم خود میری معمولی سے معمولی نکتہ چینی پر انتہائی رنجیدہ دل اور کبیدہ خاطر ہوئے میں، وہ مجھے یہ پوچھنے کی اجازت دی گئے کہ مولانا مدنی مرحوم نے مولانا مودودی پر جو سنگین انذام عائد کیے ہیں اور آج بھی ان کی تصانیف میں لکھے ہوئے ہلتے ہیں اور ان کی سنگینی میری نکتہ چینی سے ہزار درجہ زیادہ ہے، تو یہی کبھی ان بزرگوں نے عمر بھر میں ایک لمحہ کے لیے اس بات پر غور فرمایا ہے کہ حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سکھاتے ہوئے یہ سنگین انذامات دوست بھی ہیں یا نہیں؟ اسی طرح ان کے ول دو ماخ کے کسی بعد گوشہ میں یہ خیال کک آیا ہے کہ اس قسم کے سنگین انذامات اسلام کے لیکے غاصم حالم دین کی حرف پر یہ جا سکتے ہیں اور اس سے خود بین اصل دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا۔ پھر ایسے چیزیں انہا پر جو قرآن کریم کے

دریز تر مخادر، یا وطنِ مسلم کے شرعی احترام کی خاطر حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی خط لوگتا  
کی زحمت گوارا فرمائی گئی ہے؟ اگر ان تمام سوالات کا جواب نفع میں ہو، اور تینا نفع  
میں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ میری محوالی بے کشائی پر، یا بتمل آپ کے نکتہ چینی پر یہ  
یہ ہے تہبرے لکھنے کی تکلیف اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا اس طرزِ حلل کا یہ تضاد کسی صاحب  
بصیرت انسان سے مخفی رہ سکتا ہے؟ کیا خوب کہا ہے کہی شادونے سے

ہم کاہ بھی کرتے ہیں تو ہر جلدتے ہیں بذم

وہ قائل بھی کرتے ہیں تو پرچاہنیں ہوتا

اگر اس طرزِ بزرگوں کے بارے انصاف کے تعاملے نظر انداز ہوتے رہیں تو وہ میں  
بے انصاف کی پامالی پر بھی کتنی شکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب فدا کی جبے لاگ عدالت  
النصاف فاقم ہو گئی، جس میں ان حضرات سے لا بیخیرِ منکرِ شناون قوم علی اُن  
لَا تَعْدِلُو، اور کوئی اقوامیں ملٹھے شہد آور پا یقسطط کے تحت بڑی بختی سے  
باز پُرس کی جائے گی تو نہ معلوم ہمارے یہ محترم بزرگ و بارے کیا جواب دیں گے؟

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گی، اس کا تعلق تہبرے کے اس حصہ سے تھا، جو میری  
کتاب پر اقتراحات، یا الجد پر الزامات سے متعلق تھا۔ ذیل میں اس حصہ کا جواب عرض  
کیا جاتا ہے جو تفہیمات کی عبارت پر اقتراحات سے متعلق ہے۔ اس کو میں تہبرے  
کے تیرسے جزو کے عنوان سے ذکر کر دیں گا۔

تہبرے کا تیرسا جزو

مد تفہیمات کی عبارت میں چاہی وہ تو جمیعت ہو سکتی ہیں جو علمی جائز  
میں پیش کی گئی ہیں، وہاں ایسی تفہیمات بھی ممکن ہیں جن کی بنابر اکیت ہے

ماشیٰ رسول کی نگاہ میں مولانا مودودی گستاخ اور مذہبی پابندی سے  
آزاد نظر آئے گا۔“

اگرچہ یہ ترجیح اس طرح ذکر کی گئی ہے:

### ترجیح

تفہیمات کی عبارت میں عصمت کے نقطے سے مولانا کی مراد کفر و  
کذب، اور تمام کبیر و صنیر و گناہوں سے عصمت ہے، اور لغزش کے  
 نقطے سے بھی مراد بھائی کی لغزشات ہیں۔ حقی کہ قبیح افعال بھی اس میں  
داخل ہیں۔ عصمت چونکہ مولانکے نزدیک لازم نہ ہوتے ہے۔ اور طیب نہ کہ  
میں یہ تصریح کی گئی ہے کہ اس کو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ایک دو  
لغزشیں سرزد ہونے دی ہیں۔ چونکہ یہ لغزشیں بھی کفر و کذب، اور تمام کبیر و  
و صنیر و گناہوں کو شامل ہیں، اس لیے تیجوں لازماً ہی نکلے گا کہ:

”مولانا مودودی ہر نبی کے متعلق رحماء اللہ یہ حدیدہ رکھتے  
ہیں کہ بعد از نبوت نہ صرف ان سے کفر و کذب اور تمام کبائر و صغار سرزد  
ہو سکتے ہیں بلکہ ایک دو دفعہ سرزد بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیدہ یقیناً اٹھا  
اور مذکوب اہل السنۃ کے سراسر خلاف ہے۔“

دب، دنیز چونکہ یہ عصمت لازم نہ ہوتے ہے، ایک دو دفعہ اس کے  
امکان سے یا تو نبوت مخفی ہو گی۔ کیونکہ لازم کے مخفی ہو سے منع غتنی  
ہوا گر تو ہے۔ یا پھر عصمت مخفی ہو گی، کیونکہ مذکوم کا ثبوت لازم کے ثبوت  
کو مستلزم ہے۔ اس طرح بوقت صدور لغزش اجتماع انتقیضین رجوت

و حرم ثبوت، یا صحت و عدم صحت، لازم آئے گا۔ اور بحال جز المحتفہ

بھی

## جواب

یہ ترجیہ دراصل ایک اعتراض ہے جو مولانا مودودی کی تفسیریات موالی عبارت پر اٹھایا گیا ہے جس کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کو صحت انہیار کا انکرنا بست کیا جائے۔ یا جن حضرات نے مولانا موصوف پر یہ الزام لگایا ہے اُن کے اس الزام کو صحیح ثابت کر دکھانے کی کوشش کی جائے اس کا مقصود اور صحیح جواب تو وہی ہو سکتا ہے جو مولانا مودودی نے اپنے قلم سے پیش کیا ہو۔ کیونکہ صاحب البیت ادھری بیان فرمایہ "مُحَمَّدُ کی حالت سے صاحبِ خانہ ہی زیادہ واقعہ ہوتا ہے" لیکن یہ حقیقت بھی بچائے خود سُلْطُمَہ ہے کہ علماء کے مابین ابتدا سے یہ معمول رہا ہے کہ درس و تدریس کے وقت ہر کتاب میں مصنفوں کی مراد کی تشریح میں وہ سیاق و سبق مصنفوں کی تصریحات اور درس سے قرآن سے کامیاب کر اس کی توضیح کیا کرتے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو وہ پیش تظر کر کر پڑھائیں گے کہ وقت مضامیں کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بیسے میں بھی ان چیزوں کی مدد سے تفسیریات کی عبارت پر فوکرتا ہوں کہ آیا اس میں اس ترجیہ کی گنجائش بھی مل سکتی ہے یا نہیں۔ اور اس پر کہاں تک میں اقتراض فارغ ہو سکتا ہے۔

اس ترجیہ میں جو نکات ذکر کر کے ہیں سے جو ترجیہ انہی کیا ہے، چونکہ ان سب کی بنیاد اس مفروضہ پر رکھی گئی ہے کہ حضرت کے لفظ سے مراد کفر و کذب اور تمام کیا اُر و صفات سے عصمت ہے۔ اور "لغزش" سے بھی مراد معنی عام ہے، خواہ لغزش باعتبار کفر و کذب ہر یا باعتبار باقی کیا اُر و صفات ہو۔ اس لیے میں اپنے جوابی مفروضات

میں اس بنیادی مفرد پر بحث کروں گا، کہ آیا صحت اور لغتش تھے یہ معنی مراد ہو جی سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر میں نے بدلاں شایستہ کر دیا تو تضہیات کی عبارت میں یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے، تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ مولانا موصوف کے حقیدے کے متعلق جو تجویہ اخذ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں بلکہ سو فیصدی غلط ہے۔

ذیل میں اس مفرد پر کے دو جوابات عرض کیے جاتے ہیں:

ایک الزامی جواب اور دوسرا تجویہ۔

### الزامی جواب

ذکر کردہ بالا مفرد پر کے جواب میں اولاً عرض ہے کہ جن بزرگ نے یہ توجیہ بیان کی ہے، یہ بھی قریبی توجیہ کی طرح مولانا مودودی کی عبارت میں ایک توجیہ ہی تو ہے جس کے لیے مولانا موصوف نے ان بزرگ کو نہ اپنا دکیل نہیں کیا ہے اور نہ مختار، ترجیح طرح انہوں نے میری توجیہ کو اپنی علم کی نگاہ میں صرف اس بنا پر تعابی قبول قرار دیا تھا، کہ اس کی صحت پر مولانا مودودی کی ہُجْرِ تصدیقی ثبت نہیں ہوتی تھی، کیا اسی طرح ان کی یہ توجیہ بھی اپنی علم کی نگاہ میں اس بنا پر نامقابل قبل قرار نہیں دی جاسکتی کہ اس پر بھی مولانا موصوف نے ہُجْرِ تصدیقی ثبت نہیں فرمائی ہے؟

فرق کے لیے کوئی محتول ورود ہو تو ارشاد فرمائی جائے۔

پھر ان کے لیے یہ "بن کہے و کالت" کس طرح درست اور جائز قرار پاپی جگہ میرے لیے خود ان کے فیصلے کی رو سے یہ "و کالت" درست اور جائز نہیں، بلکہ پا عیش طعنہ بن گئی تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ یا جاتے کہ جو کام میرے لیے عرض مسلم کے دفاع کی غرض سے بھی ناپسندیدہ تھا وہی کام خود بزرگوں کے لیے "ازام مرشد"

کو درست ثابت کر دکھانے کے لیے تصرف پسندیدہ قرار پایا بلکہ عبادت اور کار  
ثواب بھی مٹھرا؟ ہے

جو تیری زلفت میں پہنچی تو حُسن کہلانی

وہ تیرگی چور سے نامہہ سیاہ میں ہے

نہ معلوم، یہ انصاف کا بھی تعاون ہے یا یہ سب کچھ محسن اس لیے کیا جائے گا  
کہ جذب بات نفس کی تسلیم کے لیے بامان فرامیں کیا جاتے۔ یا اس کے بجائے کسی کی  
خوشنودی حاصل کر لی جاتے؟

شانیاً، جو توجیہ انہوں نے تفہیمات کی عبارت میں پیش کر کے مولانا مودودی  
نے عقیدے پر سخت ترین حملہ کیا ہے، یہ بعینہ اہل السنۃ کی ان تمام عبارتوں میں  
بھی ہو سکتی ہے جو ان کی تصانیف میں مشتملہ حصہ انبیاء کے متعلق ہیں اور  
جس طرح اس کی بیانیہ پر بیان مولانا موصوف کا عقیدہ سخت ترین حملے کے لیے نشانہ  
بنایا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح تمام اہل السنۃ کے عقائد بھی اس حملے کے لیے نشانہ  
سکتے ہیں۔ اس اجمالی تفصیل یہ ہے کہ:

تمام اہل السنۃ نے ایک طرف حصہ کو انبیاء علیہم السلام کی مخصوص صفت  
اور لازم نبوت تسلیم کیا ہے۔ دوسری طرف یہی اہل السنۃ ہیں جو ان سے لغزشوں  
کا صدور بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وفیها قسم آخر دینی بالزلة۔ اب تفہیمات کی  
عبارت کی طرح بیان بھی کہا جاسکتا ہے کہ حصہ سے اُن کی مراد کفر و کذب اور  
دوسروں کی ائمہ سے حصہ ہے۔ اور ”لغزش“ سے بھی مراد معنی عام ہے خواہ لغزش  
باعتبار کفر و کذب، یا باعتبار باقی کیا ائمہ و صفات ہو۔ اور یہ بات انہر من اشیاء ہے

کو بوقت صدور لغزش عصمت باتی نہیں رہ سکتی تو توجیہ یہاں بھی لانا بھی نکلے گا کہ فخر شمات کے صرزد ہونے کا اقرار کر کے تمام اہل السنۃ نے انبیاء و علیہم السلام سے کفر و کذب اور تمام کیا تر کا صرزد ہونا تسلیم کر دیا۔ حالانکہ یہ خود ان کے اپنے مذکوب عصمت کے صریح طور پر مخالف ہے۔ نیز ری الحاد کا بھی مظہر ہے۔ تو کیا بصیرہ نگار بزرگ یہاں بھی تفہیمات کی توجیہ کی طرح یہ توجیہ تسلیم کر کے تمام اہل السنۃ پر الحاد کا ضروری دین گئے؟ یا یہ قتوی خاص مولانا مودودی کے لیے تیار کیا گیا تھا؟

نیز، جب ان کے نزدیک بھی عصمت لازم نبوت ہے۔ اور وہ بوقت صدور لغزش اٹھو گئی تو یہاں بھی ان بزرگ کے منطقی مسلمات را استفادہ اللازم دیستلزم استفادہ الملزوم، یا ثبوت الملزوم دیستلزم ثبوت اللازم (کے پیش نظر اجتماع تفہیم دنبوتہ و عدم نبوت، یا عصمت و عدم عصمت) بالوجہ المسجیل لازم آئے گا، جو محال خذ العقلاء ہے۔ لہذا جو جواب اہل السنۃ کی طرف سے ہو گا اسی جواب کا لام مودودی کی طرف سے بھی ہو گا۔

### تحقیقی جواب

توجیہ مذکور کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ تفہیمات کی عبارت میں اس توجیہ کے لیے سرے سے کوئی گناہکش ہے ہی نہیں اور اس پر تفہیمات کی عبارت کو ہرگز حمل نہیں کی جاسکتا۔ اس کے لیے ہمارے پاس دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ تفہیمات کی عبارت میں لغزش کا تعلق دراصل حضرت فائدہ علیہ السلام کی ایک فردگراشت سے ہے جو بقول مولانا مودودی کے صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے بچہ فرمائش کی تھی کہ "تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو تاکہ میں اس سے تخارج کرو۔"

یہ حقیقت بھی تاریخ سے معلوم ہو چکی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں عام طور پر اس طرح کی فرمائش کوئی معیوب حرکت نہیں بھی جاتی تھی یہی فروگناشت ہے جس کو تفہیمات کی عبارت میں لغتش و کے لفظ سے تحریر کیا گیا ہے اور حصہ کا بھی تعلق اسی قسم کی فروگناشت اور لغتش سے ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر میں نہیں سمجھ سکتا کہ کتنی منصفت مزاج آدمی یہ کہنے کی جو اس کے لفظ سے تفہیمات کی عبارت میں حصہ، یا لغتش کا فعلی کفر و کذب، یادوں سے کبیر و گناہوں سے ہے۔ اگر جب یہی حصہ ہر نبی سے اٹھائی گئی تو اس کے تعبیر میں کفر و کذب اور دوسرے کیا تر لانا اس زد ہوئے ہوں گے ۱) کیونکہ یہ تو ایک جزو ارتفاع تھا جو صرف خلاف الاولی فروگناشت کے سرزد ہونے ہی کے لیے مرض وجود میں لایا گیا تھا، نہ کہ یہ حصہ کا کوئی کلی ارتفاع تھا جس کے تعبیر میں دعاۓ اللہ، کفر و کذب یادوں سے کیا تر سرزد ہوں۔ لہذا تفہیمات کی عبارت کا مطلب صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ «حضرت وائد علیہ السلام» کی فروگناشت از قسم خلا ایک لغتش، اور خلاف الاولی فروگناشت تھی، جو تھا اسے بشرتیت ان سے سرزد ہو گئی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام الگرچہ عام حالات میں اس قسم کی لغتشوں سے بھی محظوظ و معصوم رہتے ہیں مگر بعض اوقات یہ حصہ اٹھ کر اس فسیل کی خلاف الاولی ایک دو لغتشیں اس کے نتیجے میں سرزد ہو جاتی ہیں تاکہ لوگ انہیں خدا نہ سمجھیں ۲) اسی طرح «لغتش و کے لفظ سے خلاف الاولی کام کی لغتش مراد ہو گئی، نہ کہ کفر یا کپڑکی لغتش۔ اسی طرح حصہ کے لفظ سے بھی اس قسم کے خلاف الاولی افعال سے حصہ مراد ہو گی۔ لہذا حسب تصریح بزرگ کا یہ درجی کہ «لغتش و کے لفظ سے مراد کفر و کذب اور دوسرے کیا تر کی

مکرر شی ہے۔ اور حصہت بے بھی مراد اس قسم کے جو اُن سے حصہت ہے تو جب ایک یا دو دفعہ یہ حصہت ہر نبی اُن سے اٹھاتی گئی تو نقیبے کے طور پر لازماً کفر و کذب یا دوسرے کیا تسری دہون گے، کسی طرح بھی خالی تسلیم نہیں ہے اور نہ یہ تغییرات کی عبارت کی مراد ہو سکتی ہے۔

### uschhet aulane ki zarurat

دہا محترم بزرگ کا بیمار شاد کو خلاف الاعلیٰ کام توزیوت کے منافی نہیں ہوتے تو ان کے یہی حصہت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ اشکال انہیں اس یہی پیش آیا ہے کہ حصہت انبیاء کے بارے میں انہیں مولانا مودودی کا بند تصور پری سر سے معلوم نہیں، مولانا اس طرح کا اشکال انہیں کبھی پیش نہ آتا۔ حصہت انبیاء کے بارے میں مولانا مودودی کا بند تصور اُن کی اپنی تحریروں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو خلاف الاعلیٰ افعال سے بھی عام حالات میں مقصوم رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پر خدا کی طرف سے ہر وقت اس قدر سخت نگرانی رہتی ہے کہ اُن سے اس قسم کے خلاف الاعلیٰ کام بھی اکثر اوقات میں سرزد نہیں ہو سکتے۔ البتہ جب بعض اوقات یہ نگرانی اٹھ جاتی ہے تو بیعاضتے بشریت یہ کام اُن سے سرزد ہو جاتے ہیں جو حصہت کے اس جزوی ارتقای کی ضرورت اس یہی پیش آتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوتے یہ خلاف الاعلیٰ کام بھی اُن سے سرزد نہیں ہو سکتے، جس طرح کہ دوسرے معاصر اُن سے اصلًا سرزد نہیں ہو سکتے۔

### اجتماع انتیضین کا اشکال

دہا اجتماع انتیضین کا اشکال، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حصہت دو قسم کی

ہے۔ ایک وہ جو کفر و کذب اور دوسرے فام کیا تو صفات سے حاصل ہو۔ دوسری وہ جو خلاف الاولی افعال سے حاصل ہو۔ مولانا مودودی کے نزدیک جو صفت لازم نبوت ہے وہ پہلی قسم کی صفت ہے، اور مولانا اس کے اٹھ جانے کے قابل نہیں ہیں کہ اجتماع التقیین لازم ہے۔ اور جو صفت ان کے نزدیک ایک یا دو فتح اٹھائی گئی ہے وہ دوسری قسم کی صفت ہے۔ اور وہ نہ صرف مولانہ کے نزدیک بلکہ تمام اہل ائمۃ کے نزدیک بھی لازم نبوت بالمعنی المتعارف (ما پیش آنکا کہ عن المذہم) نہیں ہے۔ آخر سوچتے کی بات ہے کہ جب ایک طرف تمام اہل ائمۃ صفت کر انبیاء و علیهم السلام کی خصوصی صفت اور لازم نبوت تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے افعال میں زلات و لغوشیں، ہیں۔ وفیہا قسم اخوسی میں بالذکر، تو اگر اس صفت ہے اُن کی مراد صفت مطلقاً یا صفت عن الزلات ہوتی تر وہ کس طرح اس قول کے قابل ہو سکتے ہیں کہ: انبیاء کے کرام کے افعال میں لغوشیں پاتی جاتی ہیں یہ کیونکہ وقت صد و دینغوشی صفت کا اٹھ جانا لازمی امر ہے تو ان کے اس قول میں بھی وہی اجماع التقیین دنبوت و عدم نبوت، یا صفت و عدم صفت، باز رجہ استحیل لازم آتا ہے جو محال عند العقول ہے۔ لہذا امانا پڑے گا کہ جو صفت ان کے نزدیک لازم نبوت ہے وہ کفر و کذب اور فام کبیر و صغير و گناہوں سے صفت ہے اور یہ ان کے نزدیک قابل آنکاک نہیں ہے۔ اور جو صفت لغوشیں کے سر زد ہونے کے وقت اٹھ جاتی ہے وہ خلاف الاولی امور سے صفت ہے۔ اور وہ ان کے نزدیک لازم نبوت نہیں ہے، لہذا اجماع التقیین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

## دوسری دلیل

تبہرہ نگار بزرگ کی توجیہ کے لیے تفہیمات کی عبارت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہی دلیل یہ ہے کہ مولانا مردودی نے منصبِ نبوت و رسالت کی حقیقت کے بارے میں اپنا جو پاکیزہ اور مبتدی ترین تصور پیش کیا ہے، اور جو علمی جائز سے ۹۶ کے صفحہ ۵۰ کر صفحہ ۱۰۱ تک کی پڑی عبارت میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھ کر میں نہیں کہ سکتا کہ کوئی حق پسند اور منصف مزاج عالم مولانا مرصدوف کے متعلق یہ خیال نکل سکتے ہے کہ وہ کسی بھی کو دمعاذ اللہ، کفر و کذب، یاد و سرے کیا تو و صفات سے ملوث مان سکتے ہیں، یا العیاذ باللہ کسی رسول کو قبیح افعال کے ترکیب قرار دے سکتے ہیں۔ میں چیراں ہوں کہ جو شخص حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ پیدائش کے وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک خداوند تعالیٰ کی خصوصی بگرانی اور خاناخت کے تحت رہتے ہیں اور اس کی خصوصی بگرانی میں وہ کرتی ہے پاتے ہیں، حتیٰ کہ نبوت کے منصب پر عمر فراز ہونے سے پہلے ہی وہ اخلاقی عیوب، گراہیوں اور خلط کاریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جادہ حق سے ان کے قدم باہ را بچ جھی ہٹنے نہیں پلتے، اس کے متعلق ایک خدا ترس مومیں اور حق پسند شخص کس طرح یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ دمعاذ اللہ انبیاء علیہم السلام کو کفر و کذب، یاد و سرے کے کبیر و صافیہ گناہوں سے ملوث مان سکتا ہے؟ میرے نزدیک ایک ادنیٰ چیز کے مسلمان پر بھی اس طرح کے اذمات گھانا ماں ہیں کی محفوظ گایوں سے بھی زیادہ سخت حیثیت رکھتا ہے، پچھائیکہ ایسے عالم دین پریز اذمات گھائے جائیں جس کی ساری زندگی اسلام کی خدمت، انبیاء علیہم السلام کی غیر معمولی غلت کی خاناخت، اور ان کے مشن کو کامیاب

بندست کی جدوجہد میں گزدی ہو، یا اس کے لیے وقفت رہی ہو۔ یہ کام ان لوگوں کا تر  
نہیں ہو سکتا جو اپنے دلوں میں خود خداوندی رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ماتھ اس حقیقت پر  
بھی یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اصلی زندگی نہیں ہے بلکہ مستعار ہے، اور یہاں  
جو کچھ بھی انسان کرے گا یہاں سے پلٹ کر جب خدا کے حضور حاضر ہو گا تو اس کے لیے  
اُسے پُرسی طرح جواب دی کرنی ہو گی۔ البته جن لوگوں نے پہلے سے یہ مٹھان لی ہو کہ خواہ کچھ  
بھی ہو، ہم اپنے شیوخ و اکابر کے مکالمے ہوتے از امات اور فتویٰ کو صحیح ثابت کر  
دکھلتے کے لیے کوئی شش میں بیشتر پا تھا پاؤں مارنے ہی رہیں گے، خواہ اس سے خود ہم کو  
اور ہمارے محبوب زین کو ناقابلِ ملائی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ تو یہ لوگ مجرور بھی ہیں اور  
معذور بھی۔ چونکہ تبصرہ نکار بزرگ کے متعلق میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ایک خدا تری  
بزرگ اور پہلے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں اس قسم کی یادیں ان کی شان سے۔  
انہماں فروز تسبیح ہوں۔ اور اگر وہ بُرا نہ مانیں تو میں انہیں یہ مشورہ دے نکال کر وہ اپنے  
تقدس کو دوسرے لیڈ رفراج لوگوں کی طرح اس قسم کی یادوں سے داخلہ نہ کریں، اور  
مشائخ کے متعلق قرآنِ کریم کی اس بیش بہا اور قسمی نصیحت پر عمل کریں: **تَذَكَّرَ أَمَّةٌ**  
**قَدْ خَلَقْتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَلَيْنِ بُعْدٌ**

### تیسرا دلیل

تفہیمات کی عبارت میں اس توجیہ لیکر یہ کہ گنجائش نہ ہونے کی تیسرا دلیل یہ ہے کہ  
مولانا مودودی نے حضرت انجیار کے متعلق اپنی مختلف تحریروں میں اس عقیدے کا  
 واضح لفظیوں میں اعلان کیا ہے کہ انجیار علیہم السلام معصوم ہیں اور حضرت ان کی  
خصوصی صفت ہے۔ اور یہ عقیدہ ابتداء سے اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ چلا آیا ہے۔

مولانا مسعودی کے متعلق دنیا جان چکی ہے کہ وہ لیڈر مذاق قسم کے علماء کی طرح نہیں ہیں کہ ایک سمجھ کچھ کہیں اور دوسری سمجھ کچھ، یا اُج کسی ایک مسئلہ میں ایک راستے پیش کریں اور کل کسی رباو میالا بچ یا کسی مخالف کی خاطرا اسی مسئلہ میں دوسری تفہاد راستے پیش کریں۔ اس لیے حمدتِ انبیاء کے مسئلہ میں جب انہوں نے ایک و فصر تمام اہل صفت کے اجماعی اور متفق علیہ عقیدے سے کے معطابی اپنے صحیح عقیدے کا اعلان کیا ہے تو فہیما کی زیر بحث عبارت میں کسی ایسی توجیہ کے لیے گناہ کس طرح نکل آئتی گی جس سے حمدتِ انبیاء کے مسئلہ میں مولانا کا عقیدہ اُن کے عقیدے کے خلاف ثابت ہوئی جو اس مسئلہ کے متعلق مولانا نے واضح انطباعوں میں علاویہ بیان کیا ہے۔

ہند استبرہ نگار بزرگ کا یہ استنباط کہ "اس توجیہ کی بنابری تجویہ ہی نکلے گا کہ مولانا مودودی صاحب کے نزدیک حضرت ادم علیہ السلام سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنات کے درمیان ایک امام گزدے ہیں دشمنوں رسول کیم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بُنیٰ سے کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے بالارادہ اپنی حناظت اٹھا کر ایک دو گناہ کبیرہ سرزد ہونے دیتے ہیں ॥ (ص ۷۶) کوئی صحیح استنباط نہیں ہے۔ اسی طرح فتویٰ جو اس استنباط میں نکالا گیا ہے۔ وہ توجیہ فاسد کا نتیجہ تو ہو سکتا ہے مگر تفہیمات کی عبارت میں جو صحیح توجیہ ہے، اس کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اور پر کے تین وسائل سے واضح ہو گیا ہے۔

### استثناج مذکور کی بیانوں

اس کے علاوہ استثناج مذکور کی بیانوں چیزوں پر کمی گئی ہے وہ فرضی چیزوں ہیں اور اپنے اندر کچھ بھی اصلاحیت نہیں رکھتیں۔ ان میں سے پہلی ہرگز تفہیمات کی عبارت

میں ”ہر بُنیٰ سے“ کا لفظ ہے جو مذکورہ استنتاج میں استغراقِ حقیقی پر حمل کیا گیا ہے جانکر جس طرح عربی محاورے میں استغراقِ کبھی حقیقی ہوا کرتا ہے اور کبھی عرفی۔ اسی طرح کرنے درجہ نہیں کہ اور دو زبان کے محاورے میں بھی اس کی یہ دو معیں نہ ہوں بلکہ حقیقی ہی میں منحصر ہو۔ لہذا امکن ہے کہ ”ہر بُنیٰ سے“ کے لفظ سے استغراقِ عرفی کے درجہ میں وہ اپیادِ مراد یہی گئے ہوں جن کی لغزشیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، نہ کہ تمام انبیاء کرام۔ مزید برآں استغراقِ حقیقی مراد ہو جبکہ نہیں ملکتا بلکہ استغراقِ حقیقی کے درجہ میں تمام انبیاء تے کرام کی لغزشوں سے واقع ہونے کے لیے کوئی صلح اور قابلِ عتماد فرد یعنی نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے اگر کوئی صلح اور قابلِ اعتماد فرد یعنی ہو سکتا ہے تو وہ ایک طرف قرآن کریم ہے اور دوسری طرف سنت رسول۔ لیکن قرآن مجید میں تو تمام انبیاء تے کرام کا ذکر ہی موجود نہیں۔ مَنْهُمْ مَنْ تَصَدَّقَتْ عَلَيْكَ وَمَنْهُمْ مَنْ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَيْكَ۔ تو اہل سے ان کی لغزشیں کس طرح معلوم ہوں گی؟ اسی طرف سنت رسول بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ تو مولانا مودودی کو تمام انبیاء تے کرام کی لغزشوں سے یہ واقعیت آخر کس طرح حاصل ہوئی؟ اسی بتا پر ”ہر بُنیٰ“ کے لفظ سے استغراقِ عرفی کے درجہ میں وہی اپیادِ مراد ہوں گے جن کی لغزشیں قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، نہ کہ استغراقِ حقیقی کے درجہ میں تمام انبیاء تے کرام۔ اس تقدیر پر تمام انبیاء تے کرام کی طرف لغزشوں کی نسبت ہی صرفے متحقق نہ ہوگی۔ چونکہ کبیرہ گکا ہوں کی نسبت متحقق ہو۔

دوسری چیز جس پر استنتاج مذکور کی بیان درکھی گئی ہے وہ لفظ ”لغزش“ ہے۔ اس کو جیسا کہ پہلے واضح کیا جا چکا ہے، تبصرہ نگار بزرگ نے عام معنی پر حمل کیا ہے جس

میں کفر و کذب اور دوسرے تام کبیر و صغیر و گناہوں کی شمولیت پاکی جاتی ہے، حالانکہ ہم پسے بدلا مل و اسخ کر سکتے ہیں کہ فقط اندرش میں اس تعمیم کے لیے کوئی گناہ نہیں مل سکتی۔ ہندا یہ دعویٰ کرنا کہ تفہیمات کی عبارت میں تمام انبیاء تے کرام کی طرف استغراق حقیقی کے درجہ میں ایک درگناہ کبیر و سرزد ہونے کی نسبت کی گئی ہے کہ کسی طرح بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔

### آخری نکتہ اور اس کا جواب

تبصرہ نگار بزرگ نے اقراءات کی فہرست میں آخری نکتہ یہ بھی شامل کیا ہے کہ:

”مولانا مودودی نے ہر نبی سے جو بالاراوہ حصہ و حفاظت اٹھا کر

ایک دروغشوں کا سرزد ہونا تسلیم کیا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں۔“ حالانکہ یہ غرض و غایت بھی تو پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ فصاری نے حضرت علیہ السلام کو خدا، اور خدا کا بیٹا مان لیا۔ اور پھر نے عزیز کو ابن اللہ مختہ رایا۔

گویا اقراء کا حاصل یہ ہوا کہ مولانا مودودی کی تعلیل صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں لغزوں کے سرزد ہونے کی جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے وہ اس پر ترتیب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بعض انبیاء کو خدا سمجھ دیا گیا ہے جیسے حضرت صیلی اللہ علیہ وسلم انسان

یہ اقراء کوئی نیا اقراء نہیں بلکہ بہت بھی پُرانا ہے، اور بخلافت کے ابتدائی دوسریں مفترضین حضرات کی تحریر وں میں دیکھا گیا ہے لیکن چونکہ کوئی علمی وضن اسی میں محسوس نہیں کیا گیا تھا اس لیے آج تک اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اب چونکہ

اُسے دوبارہ اٹھایا گیا ہے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی جواب عرض کیا جائے۔

### پہلا جواب

اس اعتراض کے جواب میں اولاً عرض ہے کہ کسی فعل کے لیے اگر کوئی چیز بطور ملت غایتہ، اور غرض و غایت ذکر کی جاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تاکہ وہ چیز لازماً اس فعل پر مرتب بھی ہوگی۔ بالفاظ دیگر صحت تعیل کے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ غرض و غایت اس فعل پر مرتب بھی ہو۔ اور اگر وہ اس پر مرتب نہ ہوئی، تو تعیل صحیح نہیں رہے گی۔ در نہ بہت سی تعلیمات قرآنیہ بھی صحت سے خود ہو کر فائدہ فرار پاتیں گی۔ درج ذیل دو مثالیں ملاحظہ فرماتی جاتیں:

(۱) قرآن مجید میں بعثتِ رسول کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ: ان کی پُری طرح اطاعت کی جاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ يَاذُنَ اللَّهِ۔ ہم نے ہر رسول صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی پُری اطاعت کی جائے ہے حالانکہ اس تعیل کے تعلق کوئی بھی شخص یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اس میں بعثتِ رسول کی جو غرض و غایت ہے وہ اس پر ہر زمانہ میں پُری طرح مرتب ہو چکی ہے اور پُرنسے بنی نویں انسان ہر زمانہ میں اپنے اپنے رسولوں کی پُری اطاعت کرتے چلے گئے ہیں۔ اور کبھی کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی ہے۔ تو کیا قرآن کریم کی اس تعیل کو بھی صرف اس بنا پر خاص کہا جائے سمجھا کہ اس میں بیان کردہ بعثتِ رسول کی غرض و غایت مرتب نہیں ہو سکی ہے ہے جاشا و کھلا۔

(۲) اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر احکام اور آیات الیہ کے بیان کرنے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ اُن کے ذریعے سے ہدایتِ حاصل

کر کے مددالت اور مگر اسی سے نصیح باتیں۔ کَذَلِكَ دِيْنُنِ اللّٰهِ أَيَّا تَتَّبِعُونَ لَعَلَّهُمْ  
تَفَتَّدُونَ ۝ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آئین بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے بہت  
حاصل کریں ۝ يَسْتَبِينَ إِنَّ اللّٰهَ لَكُمْ مِّنَ الْأَنْضُلُوا ۝ خدا تمہارے لیے اپنے احکام اس لیے بیان کرتا  
ہے کہ تم گراہ نہ ہو ۝ یہاں بھی بیان احکام کی غرض و غایت اس پر پوری طرح مرتب نہیں ہو  
سکی ہے کیونکہ بہت سے لوگ احکام الہیہ سن کر بھی بہایت سے محروم اور مددالت و مگر اسی میں  
پرستور پڑے رہے ہیں۔ تو کیا اس تعییل کے متعلق کوئی ہوش یا سکھنے کی چرکات کر سکتا ہے کہ  
چونکہ اس میں بیان احکام کی جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے، وہ اس پر مرتب نہیں ہوتی ۝  
لہذا یہ تعییل بھی صحیح نہیں ۝ تو آخر ایک تفہیمات کی تعییل میں کیا خصوصیت ہے کہ اس میں  
نزٹشات کے صدور کے لیے جو غرض و غایت بیان کی گئی ہے۔ چونکہ وہ معین نہیں کے  
بارے میں پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے اُسے لازماً غیر صحیح قرار دیا جائے گا ۝

اس کے جواب میں زیادہ سے زیادہ جو بات کبھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ غرض غایت  
کا حصول تمام لوگوں کے حق میں ضروری نہیں بلکہ ان لوگوں کے حق میں ضروری ہے جو قبول  
حق اور حصول پرایت کے لیے اپنی فطری استعداد کو خاتم نہ کر چکے ہوں۔ اور ان کے  
حق میں قرآنی تعییلات کی غرض و غایت پوری ہو چکی ہے۔ لہذا قرآن کی یہ تعییلات  
تفہیم کے لیے موردنہیں بن سکتیں۔ لیکن یہی بات تفہیمات کی تعییل میں بھی کبھی جا سکتی ہے  
اس میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے مولانا موسویت کے نزدیک مراد یہ لوگ ہی  
جنہوں نے حق و باطل کے درمیان تیر کرنے کے لیے اپنی فطری استعداد کو خاتم نہ کیا  
ہو۔ اور ان لوگوں نے کبھی بھی کسی نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا ہے، بلکہ تمام کے بارے  
میں فہرست عبده اللہ و رسولہ کے معتقد رہے ہیں، تو ان کے حق میں بھی تفہیمات کی

تبلیل کی غرض و غایت پوری ہو چکی ہے۔ لہذا اقرآنی تعلیمات کی طرح تفہیمات کی تعلیل بھی محدود اقتراض نہیں بن سکتی۔

## دوسرا جواب

ثانیاً، جن بزرگوں نے تفہیمات کی تبلیل پر تذکرہ الصدر اقتراض وار دیا ہے، انہوں نے اس بات پر بھی خوبی نہیں فرمایا ہے کہ تفہیمات کی عبارت میں غرض و غایت تلفیض کے سرزد ہونے کے لیے بیان کی گئی ہے اس لیے اس کا تحقیق صرف ان انبیاء کے پار میں ہو سکتا ہے جن سے لغتشیں سرزد ہو چکی ہوں۔ اور حضرت علیہ و عنہ علیما اسلام کے متصل علم کے کسی صحیح ذریعہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی کوئی لغتش سرزد ہونے ہے قرآن کے بارے میں غرض و غایت تحقیق ہونے کی ضرورت کیوں اور کس طرح پیدا ہو سکتی ہے؟

## حدیث شفاعتِ کبریٰ

بیکم مسلک وغیرہ کتب حدیث میں شفاعتِ کبریٰ کے بارے میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اُس سے تو بناہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ اسلام سے تو کوئی لغتش سرزد ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے روز اولادِ آدم کے ناسندوں کا ایک وفد انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں باری باری حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ حسابِ شروع ہونے کے لیے آپ خدا سے ہماری سفارش فرمائیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے اور لغتم انبیاء میکے بعد دیگرے اپنی اپنی خلاوں اور لغتشوں کا ذکر کرتے ہوئے سفارش کرنے سے مخذلتوی ظاہر فرمائیں گے۔ حضرت ایک حضرت علیہ اسلام پری وہ بھی ہوں گے جو اپنی کسی لغتش کا

ذکر کیے بغیر و فدو کو یہ مشورہ دیں گے کہ: لست هناءکمر والکن آیتواحمد اصلی اللہ علیہ وسلم یہ میں مقام شفاعت کا مستقی نہیں ہوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں ۹۷

اس حدیث میں حضرت علیہ السلام کی کسی لغتش کا حذف کرنے کیا گیا ہے اس کی وجہ بظاہر آخر اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان سے کوئی لغتش سرزد نہیں ہوتی ہے، ورنہ درسرے سارے انسیاد کی طرح حضرت علیہ السلام بھی اسے ذکر فرمائتے۔ جب انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا تو مسلم ہوا کہ ان سے کرتی لغتش سرزد نہیں ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ فصاری نے ان کی طرف غلط باتیں نسب کی تھیں اس لیے وہ ان کو اپنے لیے حیا کی وجہ سے ایک گز نہ جا ب تصور کرتے ہوئے شفاعت سے محروم ہی ظاہر فرمائیں گے۔ اس حقیقت کے پیش نظر اگر معتبرین حضرات اپنے اس اعراض پر وہ تفہیمات کی عبارت میں لغشوں کی جوغض و غایت بیان کی گئی ہے۔  
وَ حَفْرَتْ عَيْنِي كَمَا تَحْمِلُنِي مِنْ قُوَّةٍ هُوَ يَهْبِطُ

غور فرمائیں گے تو شاید وہ خود بھی اس اعراض میں کوئی وزن محسوس نہ فرمائیں گے کیونکہ جب ان سے کوئی لغتش ہی سرزد نہیں ہوتی ہے قرآن کے حق میں لغتش کی غرض و غایت پوری ہونے کا کری سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔

هذَا مَا عَنِّي وَالْعِلْمُ بِالْحَقِيقَةِ لِلَّهِ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔

# ضمیمہ نمبر ۲

## بسلک اعترافات مجوآتا

اس سے پیدے ضمیمہ نمبر اسی تبصرے کی شائع شدہ قسط کا جواب کھا جا چکا تھا کہ اپنک جزوی <sup>۱۹۴۶ء</sup> کے ترجمان القرآن میں رسائل و مسائل کے زیرخواں، میری کتاب میرہ ماہر عدوی پر اعترافات کا عملی جائزہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں مولانا مودودی صاحب کا ایک دنachi مضمون شائع ہوا ہے پڑھ کر واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ عملی جائزے میں تفہیمات کی عبارت کی جو توجیہ میں نے کی ہے، مولانا محترم نے مذکور پر اس کی تو شیق فرمائی ہے۔ کیونکہ کتاب کی عام تو جہیات کے بارے میں مولانا محترم نے واضح طور پر تحریر فرمایا ہے کہ عملی جائزے کے محتوى نے میری عبارتوں کے میاق و مسابق سے جو استدلالات کیے ہیں اور میری پُری عبارتوں نقل کر دی ہیں، اُن سے میرا مدعی آئینہ کی طرح واضح ہو کر سامنے آیا ہے۔<sup>۱</sup>

اس کے بعد فردی <sup>۱۹۴۶ء</sup> کے ترجمان القرآن میں خاص اسی توجیہ کے متعلق جو تبصرہ نگار بذریگ نے تفہیمات کی عبارت میں از خود پیش کی کہ مولانا محترم پر گستاخی کے آرٹکل، مذہبی پانبدی سے آزادی، اور حضرت انبیاء سے انکار کا الزام لکھا تھا،

ایک استفسار کے جواب میں مسئلہ عصمتِ انبیاءؑ کے حنوان کے تحت رسائل و  
رسائل میں مولانا موصوف نے فرید وضاحت فرمائی، جس سے یہ حقیقت روشن روشن  
کی طرح ہیاں ہو کر رسائل میں آگئی کہ تفہیمات کی عبارت میں آج تک جتنی توجیہاں  
معصر فتنیں حضرات نے پڑھیں خود پیش کر کے مولانا محترم پر اذامات لگائے ہیں وہ  
سب کی بسب غلط اور توجیہ الکلام ربعاً لا یرضی به قائدہ کے قبلی سے ہیں  
اور صحیح توجیہ ہی نہ ہے جو "علمی جائز سے" میں پیش کی گئی ہے، اور جس کی مولانا محترم نے  
اپنے دونوں جوابات میں توثیق فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن حضرات نے اپنے  
تلقیدی بضای میں میں بار بار اس خیال کا انہصار فرمایا ہے کہ اگر مولانا مودودی عصمتِ انبیاءؑ  
کے مشتملہ میں اہل سنت کے مسلک کے مطابق اپنے مسلک کا اعلان کریں، یا کہ سے کم  
"علمی جائز سے" میں تفہیمات کی عبارت کی جو توجیہ پیش کی گئی ہے اس کی توثیق کی  
تو جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے ساتھ عملی شے کرام کے جو اختلافات ہیں وہ  
یا تو باکمل ختم ہو جائیں گے یا کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ وہ اپنے اس انہصار خیال  
میں کہاں تک مختص ہیں، اور مولانا مودودی کی اس وضاحت کے بعد وہ آئندہ کے  
یہے اپنے روپ میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں؟

زیل میں مولانا مودودی صاحب کے دونوں جوابات بحوالہ ترجمان القرآن پیش  
کیے جاتے ہیں۔

ایک سال نے علمی جائز سے کے متعلق مولانا محترم سے درج زیل سوال کیا:  
سوال:

"دینی محمدی روایت صاحب کی کتاب جس میں آپ پر اقتراضاں کا

علمی جائزہ لیا گیا ہے، ابھی ابھی شائع ہوئی ہے، اور یہیں نے اس کا معاشر  
کیا ہے۔ ماشاد اللہ کتاب ہر بحاظ سے مدلل ہے جن لوگوں کو واقعہ  
کچھ غلط فہمی ہوگی وہ تو دُور ہو جاتے گی، لیکن جو صندی اور حنادی ہیں  
ان کا علاج مشتمل ہے یہیں نے کئی دوستوں کو مطالعہ کیا ہے دی چھائی  
وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن ایک مولانا صاحب نے کتاب پڑھنے کے بعد کہا  
کہ مجھے تسلی ہو گئی ہے لیکن ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ مفتی صاحب  
نے جو توجیہات کی ہیں خود مولانا مودودی نے ان کا انکار کیا ہے اور یہ  
واسطے اس کتاب کی تقریظ اور تصدیق انہوں نے نہیں کی یہیں نے کہا اگر  
ان کو اختلاف تھا تو ان کی کتابوں کے ناشر نے اسے کیوں شائع کیا۔  
اور اس پر کیوں دیباچہ لکھا؟ فرمیدیں اس ترجمان القرآن، ایشیا، آئینی  
میں اس کتاب کا اشتہار کیوں دیا گیا ہے؟ لیکن وہ صاحب مصریں  
اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے اختلاف کے باوجود ہے؛ اور جماعت کے بعض  
آدمیوں کی رضی سے ہوا ہے۔ خود مولانا مودودی صاحب نیسا آئینی  
چاہتے تھے۔ ان مولوی صاحب کا اصرار ہے کہ اگر آپ کی بات درست  
ہے تو خط کے ذریعہ حلوم کر کے دکھلو۔ چنانچہ اسی خاطر یہ منتشر سکو  
تحریر کر کے اس سال خدمت ہیں کہ آپ اپنے قلم سے اس قسم کے لوگوں  
کی تسلی کی خاطر حنفی سطور لکھ دیں۔“

اس سوال کا جواب مولانا محترم نے کھوکھ بھیجا ہے وہ یعنی  
ذیل ہے:-

جواب:-

جن مولوی صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ مولانا منقتوی محمد ریوسفت صاحب نے اپنی کتاب میں میری عبارتوں کی جو تو جیسا تھا کی ہیں اُن کا خود میں نے انکار کیا ہے، اور اسی بناء پر میں نے اس کتاب کی تقریظ و تصدیق نہیں کی۔ اور یہ کہ اس کتاب کی اشاعت میری منقتوی کے خلاف ہوتی ہے، انہوں نے بالکل جھوٹی بات آپ سے کہی ہے۔ جیزت ہوتی ہے کہ ایسے صریح اور سفید جھوٹ بولنے والے لوگ بھی مدارس عربی میں موجود ہیں اور گروہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے دریافت کیجیے کہ یہ باتیں ان کو آخر کس نذر یعنی علم سے معلوم ہوتی ہیں؟ آپ نے اگر منقتوی صاحب کی کتاب کو بغیر پڑھا ہوتا تو آپ کو مجھ سے پورچھنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، بلکہ آپ خود ہی سمجھ رہتے کہ یہ بالکل ایک میں گھرست بات ہے جو ان مولوی صاحب نے آپ سے کہی ہے۔ اور آپ کو یہی معلوم ہو جاتا کہ اس کتاب پر میری کسی تصدیق کی سرے سے کوئی حاجت ہی نہ تھی۔ منقتوی صاحب نے میری کسی حوارت کی توجیہ بھی بطور خود نہیں کر دی ہے، ہر توجیہ کے ثبوت میں انہوں نے خود میری ہی عبارتوں اور ان کے سیاق و سبق سے استدلال کیا ہے، اور وہ عبارتیں پُردی پُردی نقل کر دی ہیں جن سے میرا اصل مدعای خود ہی آئینے کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس ثبوت اور ان دلائل کے بعد میری تصدیق کی ضرورت صرف دو ہی قسم کے آدمی محسوس کر سکتے ہیں، یا تو وہ جو کسی علمی بحث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یا پھر وہ جو صریح دلیل و ثبوت مسلمانے آجائز کے بعد بھی حق بات کو نہیں مانتا چاہتے اور فتنہ پر دعا زی کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ان مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر میرے زدیک یہ کتاب درست

تمی تو نہیں نے اس پر تقریب کیوں نہیں لکھی، ان کے ذہن کی پستی کو ظاہر کرنے تھے۔  
ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی حمایت اور منقبت میں کتابیں لکھوادا اور خود ان پر تقریب  
لکھنا پچھوڑے لوگوں کا کام ہے۔ میں نے مفتی صاحب سے یا کسی دوسرے صاحب  
سے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ میری حمایت میں کوئی کتاب لکھیں۔ مفتی صاحب نے  
خود ہی اپنی ویانت اور حق پسندی کے اختذلے سے یہ کتاب لکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں  
کہ ان کی بات اگر دلیل کے اعتبار سے وزنی ہے تو وہ خود اپنی حلمنے کے مدعوں میں  
اپنا اثر پیدا کرے گی۔ میری تقریب کی وہ محتاج نہیں ہے۔

اصل صورتِ معاملہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کی اس کتاب سے اُن بہت سے حضرت  
کی ویانت مشتبہ ہو گئی ہے جو جان بوجھ کر میری عبارتوں کو قرآنے مردھنے اور زبردستی  
ان کے اندر کفر والیاں اور ضلالت کے معنے بھرنے میں مشغول رہے ہیں۔ میں نے بھی  
ان کی ان زیارات کی پرواہ نہیں کی کیونکہ مجھے یعنی تھا کہ جھوٹ کی ناقد زیارہ دیر یک  
چل نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک روز ان کی پروہنی کر کے رہے گا اب جب اُنی  
کے حلقة کے ایک انصاف پسند آدمی کے ہاتھوں اللہ نے یہ پروہنی کر اری ہے تو  
وہ اس پر چنانچہ پاہو رہے ہیں، حالانکہ یہ حرکات مذبوحی ان کو اندزیارہ رسما کر دیجی۔  
سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض میری طرف سے مفتی صاحب کی توجیہات کی کوئی تصدیق  
یا تردید نہ ہو، اور مفتی صاحب نے بھی میری عبارتوں سے میرا دعا و امتحن کرنے کے بجائے  
خود اپنی طرف سے ہی میرے اقوال کی ایک ایسی توجیہ کر دی ہو جس سے وہ اخترافات  
رنج ہو جاتے ہوں جو غالباً کی طرف سے بمحض پرواہ کیے جاتے ہیں تو آخر شرطیت کے  
کس قاعدے کی رو سے ایک ویانتدار انسان یہ روپیہ اختیار کر سکتا ہے کہ ایک ملاجع

توں کی جہاں دو تو تجویزیں ممکن ہوں جن میں سے ایک کی بنابر اسے معلوم نہ کیا جاسکتے ہو اور دوسری کی بنابر وہ ملزم قرار پاتا ہو تو وہ پسلی تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور دوسری تجویز ہی پراصرار کرنا رہے ہے۔ اس کا یہ اصرار تو خود اس بات کی علامت ہو گا کہ وہ شدھی اللہ اس مسلمان سے اختلاف نہیں رکھتا۔ بلکہ عناو اور کینہ کی بنابر خالفت کر رہا ہے جس کے متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ ہی الحاقۃ۔

(ترجمان القرآن، جلدی شمارہ ۱۹۴۲)

دوسرے سوال مولانا حبیتم سے یہ کیا گیا کہ:

سوال :-

«آپ نے تفہیمات حصہ دوم میں قصہ داؤد علیہ السلام پر کلام کرتے ہوئے عصمت انبیاء کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی بنابر علماں کا ایک گروہ مذکور ہے آپ کو عصمت انبیاء کا منکر قرار دے رہا ہے۔ آپ مولانا مفتی محمد یوسف صاحب نے اپنی تازہ کتاب میں اس مشنے پر مفصل بحث کر کے ان کے تمام اختلافات کو رد کر دیا ہے۔ مگر اس کتاب کی اشتنکے بعد ایک دینی مدرسہ کے شیخ الحدیث صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پھر اس اذام کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

«ان جبارات میں ایسی تجویزات اور محتلاف بھی موجود ہیں جن کی بنابر مولانا مورودی صاحب ایک مسیح مسلمان اور پچھے عاشق و محبت رسول کی نگاہ میں گستاخی کا ترکب اور مذہبی پابندی سے آزاد نظر آئے گا۔»

اس کے بعد فرماتے ہیں:

و یہ ضروری ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی اس عبارت کی توجیہ اس طرح کی جائے کہ مراد عصمت و خناقت سے عصمت ہی لکھر دا لکنڈب و لکھاڑ را کبائر و لمسغاڑ رخیسہ لیا جائے، اور لمعظل الغرش سے احمد لیا جائے۔ خواہ باعتبارِ کفر یا باعتبارِ کذب یا باعتبارِ باقی کبائر و مسغاڑ رخیسہ ہو۔<sup>۲۴</sup>

پھر تیجہ نہ مکالے تے ہیں:

وہ خانکت اٹھانے کے بعد اب جو فصل صادر ہو گا تو وہی ہو گا جو  
خانکت کی صورت میں ممکن الوقوع نہ تھا۔ تو نتیجہ اس توجیہ کی بنابر  
یہی نکلے گا کہ مولانا صاحب کے نزدیک آدم علیہ السلام سے لے کر جنہے  
تیرا انسیاد وال مسلمین تک بیٹھنے اپنیا گزرے ہیں، پشوں رسول کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبی سے کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ نے بالداروں اپنی  
خانکت اٹھا کر ایک دو گناہ کبیرہ سرزد ہونے دیئے ہیں۔ اور جس سے  
کسی نہ کسی وقت گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتے، خواہ ایک گناہ ہٹایا دیجئے  
یا دوسروں، وہ مخصوص نہیں، اور وقت گناہ وہ موصوف بصفتِ نبوت  
بھی نہ ہو گا کیونکہ نبوت کے ساتھ حضرت محن ایک بار لازم ہے۔<sup>2</sup>

اُن توجیہات و احتمالات کا جواب اگر آپ خود دے دیں تو مید  
ہے کہ مفترضن کی محنت قطع ہو جائے گی۔

اس سوال کامولانا موصوف نے درج ذیل مفصل جواب دیا ہے:

## جواب رازِ ابرُ الْأَعْلَى مِنْدُودی،

اس سلسلے کی وضاحت یہ ہے کہ میری جس جبارت کے لیکن فقرے کو نے کر مفترضیں نے مجھے صحتِ انسیااد کا انکر قرار دے ڈالا تو کسی بیسے مخنوں کا حشر نہیں تھا جس میں صحتِ انبیاء کے منسے پر کوئی عامہ اصولی بحث کی گئی ہو۔ بلکہ وہ سوڑھن کی ان آیات پر جو قصۂ داؤ و علیہ اسلام کے بارے میں آئی ہیں، کلام کرتے ہوئے ایک معنی بخش کے طور پر لی گیا تھا۔ اس میں حق و خل مقدر کے طور پر جو باتیں نے کہی ہے وہ دراصل ایک اہم سوال کا جواب ہے۔ وہ سوال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسیااد علیہم السلام سے بعض بیسے احوال کے صدقہ کا ذکر کیا گیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے قتاب فرمایا ہے۔ شیخ حضرت آدم علیہم السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ وَعَنِي أَدْمُ رَبِّهِ فَغَرَى، اور حضرت فاروق کے متعلق یہ کہ: *إِنِّي أَعْظُلُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ*، اور حضرت فاروق کے متعلق یہ کہ: *لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُعِذِّلُكَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ*، اور حضرت یونس کے متعلق یہ کہ: *إِذَا أَبَقَ إِلَى الْعَذْنِ الْمَشْحُونُ الْأَذِيرُ، اور لَا تَكُونَ كَصَاحِبِ الْخُوتِ الْأَذِيرُ*۔ اسی طرح خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد کہ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ  
نَّيْكُونَ لَهُ أَسْرَارٌ، اور عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِغَرَأْذَثَ لَهُمْ، اور لَا تَخْرُجْ مَمَّا  
أَحْلَلَ اللَّهُ لَكَ، اور عَبَسْ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَكَ الْأَعْمَى۔ ان تمام مقامات پر فتن کے انداز اور انداز پیمان سے صفات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی سے کرنی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس پر انہما زنا پسندیدگی کرتے ہوئے نبی کو متنبہ کر کے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحتِ انبیاء کے ساتھ یہ چیز کیسے

صلابت رکھتی ہے؟ کیا ہم یہ بھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ نبی کے فلان  
فضل صادر ہونے والا ہے، اور بعد میں جیسے صادر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں  
وہ بات آئی، لہر اس نے نبی کو مستحبہ فرمایا، اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے تو انہوں  
نبوت سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر ارادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ  
صلوٰۃ سے پہلے اللہ کو اس کا علم تھا تو پھر سالی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے  
پہلے ہی کیوں نہ روک دیا؟ آخر اس میں کیا صفت تھی کہ پہلے تو اسے صادر ہو جائے دیا  
گیا، اور بعد میں اس پر نہ صرف یہ کہ روک کر اس کی اصلاح کر دی گئی، بلکہ اس کو کتنے کا  
ذکر بھی اس کتاب میں کروایا گیا چھے قیامت تک مومن و کافر سب کو پڑھنا تھا؟  
یہی سوال ہے جس کو ان مراتع پر ابھرتے ہوئے فرض کر کے میں نے اس کا جواب  
ان الفاظ میں دیا ہے:-

”صحت دراصل انبیاء کے لوازم ذات میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ  
تعالیٰ نے ان کو منصبِ نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے  
لیے مصلحتِ خطاومل اور لنفرشیوں سے محفوظ فرمایا ہے۔ وہ نہ اگر اللہ کی خوا  
ہنودی دیر کے لیے بھی ان سے منفك ہو جائے تو جس طرح عامر انسانوں  
سے بھول، چوک لہو غسلی ہوتی ہے، اسی طرح انسانیاں سے بھی ہو سکتی  
ہے۔ اور یہ ایک نسبت نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالداروں برخی سے کسی ن  
کسی وقت اپنی خانلٹ اٹھا کر ایک دو لنفر شیش سرزد ہو جاتے دیتی ہیں  
تکہ روگ نسبیاً کو خدا نہ بھیں، بلکہ جان لیں کہ یہ بشر ہیں، خدا  
نہیں ہیں۔“

اب رکھیے، پُرے صنون کا سیاق و سباق بارہا ہے کہ یہاں صحتِ انجیاد کے مسئلے پر کئی عام بحث نہیں کی جا رہی ہے جس میں زیر بحث یہ سوال ہو کہ انجیاد سے کس قسم کی خلطیاں صادر ہوئی ممکن ہیں اور کوئی عملکن نہیں ہیں، بلکہ زیر بحث صرف وہ نظریں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی کلامِ حرث اس پیپر سے کیا گیا ہے کہ صحت کے باوجود ان لغتشوں کا صدود رآخر عملکن کیے ہٹتا، اور ان کے صدود سے پہلے انہیں کیوں نہ روک دیا گا؟ اور صدود کے بعد ان پر خاتمیت سے تنبیہ کر دینے سے پر اتفاق کیوں نہ کیا گا؟ اور ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا کیوں نہیں کیا گیا؟

یکیں مستوفیں نے پہلا نظر تو یہ کیا کہ اسے صحتِ انجیاد کے مسئلے پر ایک علم بحث قرار دے لیا، حالانکہ وہ خاص بحث تھی جو ایک دوسری بحث کے منن میں آگئی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری نظر تو یہ کیا کہ صدود نظرش کے امکان کو ہر قسم کے معاصی اور کیا تر حتیٰ کہ کفر حکم کے صدود تک دین کر دیا۔ حالانکہ میرے کلام میں زیر بحث صرف وہ نظریں تھیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اس سے بھی ڈرہ کاظم انہوں نے یہ کیا کہ صحت کے اتفاق کو کلی اتفاق فرض کر کے یہ اختلافات پیدا کر دیا ہے کہ جب صحت اتفاق ہو گئی تو پھر کفر و کذب اور تمام کیا تر و صفات اور مزید ہو سکتے تھے حالانکہ یہی سہولی پڑھا کھما اوری بھی سمجھ سکتا ہے کہ میری عبادت میں کسی خاص موقع پر کسی خاص نظرش کے صدود کی حد تک حفاظتِ اٹھائے جانے کا ذکر ہے نہ کہ کلی طور پر صحت کے اٹھائے جانے کا۔ جن حضرات کی عمری متنقی و فلسفہ کے سبق پڑھاتے ہوئے گزدی ہیں، ان کے بارے میں یہاں میرے یہے ختنہ مشتمل ہے کہ وہ صحت کے ٹھنڈی اتفاق اور جنمی اتفاق میں کتنی

فرق محسوس نہ کر سکتے ہوں گے۔ اس لیے میں یہ گان کرنے میں حق بجانب ہوں کر یہ کتب  
جان بوجو کر دکھایا گیا ہے، تاکہ مجھے کسی نکسی طرح عصمتِ انہیار کا انکر قرار دیا جا  
سکے۔ اور اب میری اس توضیح کے بعد بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ حضرات اپنی تحریروں اور  
تحریروں میں اسی الزام کو اسی طرح ذہراً نہیں چھپے جائیں جس طرح ساہیا سال سے ذہراً  
چلے آ رہے ہیں۔ اصل معاملہ کسی علمی اختلاف کا نہیں بلکہ لغزش کا ہے، جس کے ساتھ خدا  
تری مشکل ہی سے کبھی جمع ہو سکتی ہے۔ میرا بار بار کا تجربہ ہے کہ جن الزامات کا میں مفصل  
جواب دسکے کر ان حضرات کی محبت قطع کر چکا ہوں ہاں کوئے اسی طرح فہرست نہ رہے ہیں  
گویا انہیں سرسے سے کرنی جواب دیا ہی نہیں گیا۔ آپ چاہیں تو ان شیخ الحدیث  
صاحب سے دریافت کر لیجئے کہ قرآن مجید کی جن آیات کے متعلق میں نے یہ مبدلہ  
لکھی ہے اُن پروہ سوالات پیدا ہوتے ہیں یا انہیں جن کا میں نے اس عبارت میں جو  
دلایا ہے؟ اور اگر وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وہ خود کیا جواب دیں گے نہیں میرا  
جواب کسی صاحبِ علم کے نزدیک غلط ہو تو اُسے چاہیے کہ اس کے خیال میں جو سچے  
جواب ہوا سے بیان کر دے۔<sup>۴</sup>

درجنان القرآن، فرمودی شمس

مولانا محترم کے ان جوابات پر جب خود کیا جاتا ہے تو صائب محمد پر مسلم ہوتا  
ہے کہ پہلے جواب میں مولانا موصوف نے ان توبیات کی ثوثیق فرماتی ہے جو علمی  
جاائز ہے میں تفہیمات کی عبارت میں پیش کی گئی ہیں جس سے تجزہ نگار بزرگ کے  
ان تمام الزامات اور اقتضایات کا جواب ہو گی جو بوجو پر میری کتاب پر وارد

کیے گئے تھے۔ اور کہا گیا تھا کہ یہ کتاب اہل علم کی نظر میں مقبول اس بنا پر نہیں ہو سکتی کہ اس میں تغیریات کی جبارت کی جو توجیہات بیان کی گئی ہیں، مولانا مودودی نے ان کی تصدیقی اور قویتی نہیں کی ہے۔ اور دوسرے جواب میں مولانا محترم نے خود تغیریات کی جبارت سے اپنی مراوکر اس طرح واضح کر دیا کہ ایک طرف اس جبارت کی جو توجیہ ”علمی جائز سے“ میں پیش کی گئی ہے اس کی توثیق ہو گئی، اور دوسری طرف تبصرہ مکار بذرگ نے تغیریات کی جبارت میں اپنی طرف سے جو توجیہ کر کے مولانا صوف پر گستاخی کے ارتکاب، احاداد اور محضتِ انبیاء سے انکار کا انہم لکھایا تھا، وہ بھی یہے بنیادِ ثابت ہو گیا اور پیشہ کے یہے اس قسم کے الزامات کی چڑکت گئی۔ اس کے بعد بھی اگر اس قسم کے اقتراضات و ازامات دہرانے گئے تو اس کے فیصلے کے یہے ہم اس عدالت کے قیام کا انتظار کریں گے جو اس قسم کے معاملات فحصیلہ کرنے کے یہے قانون قائم ہو گے۔

آللہ یخکر میڈنا وَبَلَّیْهُمْ فِیْمَا کنَّا فِیْهِ مُخْلِفِینَ